

شاهین



نسیم حجازی

شائین

نسیم حجازی

جہانگیر بک ڈپو

لاہور • راولپنڈی • ملتان • حیدرآباد • کراچی

جملہ بحق مصنف محفوظ ہیں۔

اس کتاب کے کسی بھی حصے کی فوٹو کاپی، سکیننگ یا کسی بھی قسم کی اشاعت مصنف کی تحریری اجازت کے بغیر نہیں کی جاسکتی۔

ناشر: ریاض اے۔ شیخ (ایڈووکیٹ)

آپ کے مشورے اور شکایات کے لئے۔

E-mail: info@jbdpress.com
www.jbdpress.com

اشاعت: 2005

ٹاکسٹ: جہانگیر بک ڈپو

سرورق: JBD آرٹ سیکشن، لاہور

قیمت: -/275 روپے



آفس: 257 ریوازا گارڈن، لاہور۔ فون: 042-7213318 فیکس: 042-7213319
سیلز ڈپو: اردو بازار، لاہور فون: 042-7220879، سیلز ڈپو: اردو بازار، کراچی۔ فون: 021-2765086
سیلز ڈپو: اقبال روڈ نزد کمیٹی چوک، راولپنڈی۔ فون: 051-5552929
سیلز ڈپو: نزد یونین فارم سنٹر جامع مسجد صدر، رسالہ روڈ حیدرآباد۔ فون: 0300-3012131
سیلز ڈپو: اندرون بوہڑ گیٹ، ملتان۔ فون: 061-4781781
نیاز جہانگیر پرنٹرز، غزنی سٹریٹ اردو بازار، لاہور نے پرنٹ کی۔ فون: 042-7314319

محبّت مجھے اُن جوانوں سے ہے

سٹاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند

ترتیب

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۶	باغی	۱
۲۹	سرحدی عقاب	۲
۴۹	ملت فروش	۳
۶۳	ان کا میزبان	۴
۹۲	ربیعہ کا اضطراب	۵
۱۱۰	ربیعہ کے خواب کی تعبیر	۶
۱۳۸	قوم اور اس کا سپاہی	۷
۱۵۵	نئے عزائم	۸
۱۷۸	باپ اور بیٹا	۹
۲۰۲	تاریخ عنکبوت	۱۰
۲۲۵	مجاہد اور فدا	۱۱
۲۴۳	سیاہ پوش	۱۲
۲۶۶	ایک کروٹ	۱۳

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۹۳	الزغل کی مایوسی	۱۲
۳۱۲	طرف بن مالک	۱۵
۳۳۶	نٹے ولولے	۱۶
۳۷۰	لوشہ کا نیا حاکم	۱۷
۴۰۱	جرم اور اس کی سزا	۱۸
۴۳۲	اینبلا اور ربیعہ کا باپ	۱۹
۴۵۶	انسو اور مسکراہٹیں	۲۰
۴۸۱	الحمر کا آخری محافظ	۲۱
۵۰۲	قوم کے ترکش کا آخری تیر	۲۲

پیش لفظ

تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ قدرت بلا وجہ کسی قوم کو اپنے انعامات سے سرفراز نہیں کرتی اور نہ بلا وجہ اس سے اپنے عطا کئے ہوئے انعامات چھینتی ہے۔ اندلس کے مسلمانوں کا عروج و زوال قانونِ فطرت کے عین مطابق تھا۔ پہلی صدی ہجری کے آخر میں اندلس کے ساحل پر ان مٹھی بھر سرفروشیوں کی کشتیاں لنگر انداز ہوئیں جن کے سالار کا نعرہ بقول اقبالؒ یہ تھا:

ہر ملک ملکِ ماست کہ ملکِ خدا ہے ماست

آسمان نے روتے زمین کے کسی خطے پر شاید اتنی صدیاں کسی جماعت یا قوم کا وہ اقتدار نہ دیکھا ہو جو اندلس میں مسلمانوں کو نصیب ہوا۔ لیکن آٹھ سو سال بعد ہی قوم بے بسی کے آنسوؤں سے اپنی تاریخ کا آخری باب لکھ رہی تھی۔ یہ باب جس قدر دردناک ہے اسی قدر سبق آموز بھی ہے۔ لیکن یہ کوئی غیر متوقع حادثہ نہ تھا۔ حالات انہیں مستقبل کے خطرے سے آگاہ کر چکے تھے۔ اندلس میں قرطبہ، اشبیلیہ، طلیطلہ اور دوسرے مقامات چھین جانے کے بعد غرناطہ مسلمانوں کا آخری حصار بن چکا تھا۔ وہ دشمن کے عزائم سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ غرناطہ میں مغلوب ہو جانے کے بعد انہیں ظلم و استبداد کے اسی طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا جو اندلس کے باقی حصوں کے مسلمان دیکھ چکے تھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اجتماعی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک متحدہ محاذ نہ بنا سکے۔ مجاہدین کے گروہ میدان میں آئے لیکن ان کا عزم اس قوم کی تقدیر نہ بدل سکا جس کا اجتماعی کردار فنا ہو چکا تھا۔ ان جانبازوں کے لئے باہر کے دشمن کی نسبت گھر کے غدار کہیں زیادہ ناقابل

تسخیر ثابت ہوئے۔

غزناطہ میں ہلال و صلیب کی جنگ محض ایک حکومت کا دوسری حکومت، یا ایک فوج کا دوسری فوج کے ساتھ تصادم نہ تھا بلکہ دو مختلف قوموں، دو مختلف نظریوں اور دو مختلف تہذیبوں کا تصادم تھا۔ قسطلہ اور اراغون کے عیسائیوں کو جس مشترکہ خصوصیت نے منظم اور متحد کر دیا تھا، وہ ان کی اسلام دشمنی تھی۔ اُنڈلس کے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لئے وہ ایک ہو چکے تھے۔ لیکن مسلمان اپنے ہر اُفق پر تباہی اور بربادی کی تباہی گھٹائیں دیکھ کر بھی اپنے اجتماعی جذبہٴ مدافعت کو بروئے کار نہ لاسکے۔ وہ یہ ثابت نہ کر سکے کہ اگر تمام کفر ایک ہے تو تمام اسلام بھی ایک ہے۔ ان میں عربی، اُنڈلسی اور بربری کے اختلافات اُس وقت بھی موجود تھے جب دشمن اُن کے دروازوں پر دستک دے رہا تھا۔ اس انتشار کا نتیجہ یہ ہوا کہ آٹھ سو برس کی حکومت کے بعد یہ عظیم قوم بے خانماں انسانوں کا ایک گروہ بن کر رہ گئی۔

مسلمانانِ اُنڈلس کی تاریخ کا یہی باب اس کتاب کا پس منظر ہے۔ اس کا بیشتر حصہ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء تک لکھا جا چکا تھا لیکن ۱۵ اگست کے بعد جو واقعات پیش آئے اُن کے باعث میں اس کتاب کو اپنے پروگرام کے مطابق ختم نہ کر سکا۔ اُنڈلس کی وہ داستان جسے بیان کر کے میں قوم کو مستقبل کے خطرات سے آگاہ کرنا چاہتا تھا ہندوستان کے طول و عرض میں دُہرائی جا چکی ہے، میرے نزدیک اُنڈلس کی ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام بھی ایک اتفاقی حادثہ نہیں۔ ہم دشمن کے عزائم سے ناواقف نہ تھے۔ اس کی گزشتہ تاریخ، ہمارے سامنے تھی۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ متحد اور منظم ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم خطرات کا سامنا کرنے کے لئے تیار نہ ہو سکے۔ ہم میں وہ غدار موجود تھے جو مساجد میں کھڑے ہو کر ہندو کی اسلام دوستی کا دھندورا پیٹا کرتے تھے۔ وہ شکست خوردہ ذہنیت کے لوگ موجود تھے جو یہ تبلیغ کیا کرتے تھے

کہ اکثریت اگر آدم خوردوں کی ہو تو بھی وہ انسانوں پر حکومت کا حق رکھتی ہے۔
 مشرقی پنجاب، دہلی، جونا گڑھ اور حیدرآباد دکن کے واقعات کے بعد پاکستان
 کے مسلمانوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہتی کہ پاکستان کے متعلق ہندوستان کے عزائم
 کیا ہیں۔ کشمیر پر حملہ پاکستان کے خلاف اس کا عملی اقدام ہے۔ گزشتہ ڈیڑھ برس میں
 ہندو فسطائیت نے جو مدارج طے کئے ہیں وہ ہمیں اس بات کا یقین دلانے کے لئے
 کافی ہیں کہ ہندوستان کو ایک فوجی شکست ہی راہِ راست پر لاسکتی ہے۔

کشمیر کی جنگ میں مجاہدین یہ ثابت کر چکے ہیں کہ مسلمان کا لوہا آج بھی ہر لوہے
 کو کاٹ سکتا ہے۔ محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور احمد شاہ ابدالی کے جانشینوں کا خون
 ابھی تک سُرخ ہے لیکن وہ بڑی جنگ جس کی یہ ایک تمہید ہو سکتی ہے، ایک گروہ،
 ایک فوج اور ایک حکومت کا، دوسری فوج یا حکومت کے ساتھ تصادم نہیں ہوگا بلکہ
 یہ دو قوموں، دو تہذیبوں اور دو نظریوں کا ایک فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ یہ وہ جنگ ہوگی جس
 میں کفر اس بڑے عظیم سے اسلام کا نام مٹانے کے لئے اپنی پوری قوت کے ساتھ میدان
 میں آئے گا اور پاکستان کے مسلمان اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے عزیمت کا
 ثبوت دینا ہوگا۔

پاکستان کا دفاع سات کروڑ انسانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ یہ قوم
 کی عورتوں اور بچوں کو اس وحشت و بربریت سے بچانے کا مسئلہ ہے جس کا نمونہ ہم
 مشرقی پنجاب میں دیکھ چکے ہیں۔ یہ اس دین کے ناموس کا مسئلہ ہے جس کے لئے
 بدر و حنین، یرموک اور قادسیہ کی جنگیں لڑی گئیں جس کے لئے کربلا کی خاک شہیدوں
 کے خون سے لالہ زار ہوئی۔ یہ اُس وطن کے تحفظ کا مسئلہ ہے جس کے لئے دس لاکھ
 سے زیادہ انسان قربان ہو چکے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کے کسی حصے پر مشرقی پنجاب کی
 تاریخ نہیں دہرانا چاہتے تو ہمارے لئے ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ ہم اینٹ کا جواب

پتھر سے دینے کے لئے تیار ہو جائیں۔ عمل کی دنیا میں قوت کا جواب منطق کے ساتھ نہیں دیا جاسکتا۔ بھیر یا فقط شیر کے فولادی پنجے کا احترام کرتا ہے بھیروں کی منطق سے مرعوب نہیں ہوتا۔

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری صلح جوئی اور امن پسندی سے ہندوستان اپنی جارحانہ پالیسی ترک کر دے گا۔ لیکن یہ خود فریبی ہے۔ اسی قسم کی خود فریبی جس کا شکار غرناطہ کے مسلمان ہوئے تھے۔ ہمیں یہ حقیقت ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ فتنہ عظیم جس سے سارے عالم اسلام اور انسانیت کو خطرہ ہے، امن کی اپیلوں، صلح کی کانفرنسوں اور بین الاقوامی عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے سے نہیں روکا جاسکتا۔ دنیا میں تلوار کا جواب صرف تلوار ہی دے سکتی ہے۔ ہندوستان پاکستان کے خلاف یکے بعد دیگرے اپنے ترکش کا ہر تیرہ آزمائے گا اور اس کے جارحانہ ارادوں میں اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی جب تک اسے یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ پاکستان ایک ایسی چٹان ہے جس سے ٹکرا کر اسے سر پھوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

قدرت کسی قوم کی اجتماعی اور سیاسی غلطیاں معاف نہیں کرتی۔ غرناطہ میں مسلمانوں کو ابو عبد اللہ کی غداری کی سزا ملی، حیدرآباد میں وہ اس جرم کی سزا بھگت رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بدترین ملت فروش کو قوم کا نجات دہندہ سمجھ لیا تھا۔ کاش! وہ "مملکت آصفیہ" کی بجائے خدا، رسول اور اسلام کا نعرہ لگاتے۔ وہ زندگی اور موت کی کش مکش میں مبتلا تھے لیکن نظام کی متعفن اور بوسیدہ لاش ان کے گلے کا ہار بنی رہی اور یہ لاش تیس لاکھ انسانوں کو اپنے ساتھ ہی قبرستان میں لے گئی۔ کشمیر کے مسلمان صرف اس لئے آلام و مصائب کا شکار ہو رہے ہیں کہ شیخ عبداللہ نے گاندھی کے چیلوں کو مسلمانوں کا دوست سمجھنے کی غلطی کی ہے۔

تاہم حیدرآباد اور کشمیر میں یہ فرق ہے کہ نظام کی غداری نے حیدرآباد کی جنگ کو

عوام کی جنگ بننے کا موقع نہیں دیا۔ لیکن کشمیر کی لڑائی شیخ عبداللہ کی مخالفت کے باوجود ایک قوم کی جنگ بن چکی ہے۔ مجاہدین کشمیر نہ صرف پاکستان بلکہ سارے عالم اسلام کے دروازے پر پہرہ دے رہے ہیں۔ اگر وہ اس سیلاب کو نہ روکتے تو کشمیر کے بعد ہندوستان پاکستان کے ساتھ اُبھرنے میں ایک لمحہ کے لئے بھی توقف نہ کرتا۔ کشمیر کے مجاہدین نے اپنی جان پر کھیل کر پاکستان کو تیاری کا موقع دیا ہے۔ اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو یہ ایک ایسا اجتماعی جرم ہوگا جسے شاید قدرت معاف نہ کرے۔

دوہ حاضر کے ”فرڈینڈ“ کشمیر پر حملہ کر چکے ہیں۔ کشمیر کی وادیوں میں موسیٰ ابن ابی غسان کی روح پاکستان کے مسلمانوں کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ آؤ! وحشت اور بربت کے اس سیلاب کے سامنے آہنی دیوار بن جاؤ۔ کشمیر کا خطرہ پاکستان کا خطرہ ہے اور پاکستان کا خطرہ سارے عالم اسلام کا خطرہ ہے۔ اس اجتماعی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک ہو جاؤ، ان ملت فریشوں اور غداروں سے خبردار رہو جن سے دشمن نے اہل غرناطہ کو فرقوں، گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم کرنے کا کام لیا تھا۔

ہندو قسطنطین، پاکستان اور عالم اسلام کے لئے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے ترکش کے تمام تیروں کو جمع کر لیں۔ یہ وقت ہے کہ آندھی آنے سے پہلے ہم اپنے شیرازے کے تمام تنکوں کو سمیٹ لیں۔ یہ وقت ہے کہ قوم کی مائیں اپنے بیٹوں اور قوم کی بیٹیاں اپنے بھائیوں اور شوہروں کو جگائیں اور ان سے کہیں کہ اٹھو! اور ظلم کے ہاتھ کاٹنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔

قوم کے راہنماؤ! یہ وقت آرام کرسیوں پر دراز ہو کر بیانات جاری کرنے کا نہیں، یہ صدائقوں، عہدوں اور کرسیوں کے لئے جھگڑنے کا وقت نہیں، یہ خندقیں کھودنے اور مورچے بنانے کا وقت ہے۔

حکومت کی کشتی کے ناخداؤ! تم قوم کی عزت اور آزادی کے امین ہو۔ اپنے ماضی

کو دیکھو، حال کو پہچانو اور مستقبل کے خطرات کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ فرزندِ ان
 قوم اپنی جانوں کی بازی لگانے کے لئے تیار ہیں لیکن انہیں مسلح کرنا تمہارا کام ہے۔ پاکستان
 کا ہر فرد سپاہی ہے۔ حالات نے اُسے سپاہی بنا دیا ہے۔ تم اگر چاہو تو پاکستان کی ہر بستی
 کو ناقابلِ تسخیر قلعہ بنا سکتے ہو۔ قدرت نے تمہیں اس قوم کی سیادت عطا کی ہے جس نے
 چلتی پھرتے پہن کر بادشاہوں کی قبائیں نوچی ہیں اور جس نے پیٹ پر پتھر باندھ کر شہنشاہوں
 کے تلج اُتارے ہیں۔

پاکستان کے باشندو! ہر قوم کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب زبان یا قلم
 کی نسبت تلوار کے فیصلے زیادہ صحیح ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں عزت اور سربلندی صرف ان
 کے لئے ہے جو اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ آزادی کے نخلستان صرف اس زمین پر
 لہلاتے ہیں جو شہیدوں کے خون سے سیراب ہوتی ہے۔ قوم کی عظمت کی داستانیں ہمیشہ
 اس خون سے لکھی جاتی ہیں جو بہنے کے لئے بیاباں رہتا ہے اور جب خون منجمد ہو جاتا
 ہے تو — انسوکام نہیں آتے۔

نسیم حجازی

کوئٹہ ۱۵ نومبر ۱۹۴۸ء

اعتراف

”شاہین“ کے پیش لفظ سے کشمیر کے اولوالعزم راہنما شیخ عبداللہ کے متعلق چند سخت الفاظ حذف کر دئے گئے ہیں۔

دس سال قبل میری تلخ نوائی کی وجہ یہ تھی کہ مجھے کشمیر کے مسلمانوں کے خلاف بھارت کے جارحانہ عزائم کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ تھی۔ میں بڑی شدت کے ساتھ یہ محسوس کرتا تھا کہ شیخ صاحب نے کشمیر کے مسلمانوں کے مستقبل کے متعلق پینڈت نہرو کے دوستانہ وعدوں پر اعتماد کرنے میں دھوکا کھایا ہے اور گزشتہ دس سال کے واقعات یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں کہ میرے یہ خدشات صحیح تھے۔

آج میں شیخ عبداللہ کی عظمت کا اعتراف کرنے میں ایک خوشی محسوس کرتا ہوں اور آج میرے سامنے وہ شیخ عبداللہ نہیں جنہیں گاندھی اور ان کے چلے کشمیر کا بے تاج بادشاہ کہا کرتے تھے، جنہیں پینڈت نہرو کا دوست اور بھائی ہونے کا فخر حاصل تھا اور جن کے استقبال کے لئے دہلی کی گلیاں اور بازار سجائے جاتے تھے۔ بلکہ وہ ایک ایسے مظلوم انسان ہیں جنہوں نے عدم تشدد کے چولوں میں چھپے ہوئے عنقریب کی ظاہری شکل و صورت سے فریب کھایا تھا۔

وہ راستہ جس پر گامزن ہو کر شیخ عبداللہ کد جیل کی کسی تنگ و تاریک کوٹھڑی تک پہنچے تھے یقیناً اس راستے سے مختلف تھا جو انہوں نے دس برس قبل اختیار کیا تھا اور ان کے فکر و نظر کی یہ تبدیلی ان لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کے لئے کافی ہے جو بھارت کی مسلسل بدعہدیوں کے باوجود کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لئے صلح جوئی اور امن پسندی کے مظاہرے کافی سمجھتے ہیں۔

شیخ عبداللہ نے دوبارہ گرفتار ہونے سے پہلے بھارت کے برہمنی استبداد کے چہرے سے تمام نقاب نوچ کر پھینک دئے ہیں اور آج پاکستان کا ہر حقیقت پسند انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ بھارتی فاشزم صرف تلوار کی زبان سمجھ سکتا ہے۔ اگر نپٹ نہرو کو حق و انصاف کے نام پر کوئی اپیل متاثر کر سکتی تو اہل کشمیر کے حق میں اس شخص کی آواز بے اثر ثابت نہ ہوتی جسے کل تک گاندھی کے چیلے کشمیر کا سب سے بڑا راہنما تسلیم کرتے تھے۔

نسیم حجازی

۱۴ مئی ۱۹۵۸ء

ہسپانیہ تو خونِ مسلمان کا امیں ہے
 مانندِ سرمِ پاک ہے تو میری نظر میں
 پوشیدہ تری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں
 خاموش اذائیں ہیں تری بادِ سحر میں

اقبال

باغی

(۱)

پچاس سوار پہاڑ کے دامن سے اتر کر گھنے جنگل سے گزرتے ہوئے ایک ندی کے
ٹوٹے ہوئے پل کے سامنے رُکے۔ ندی کے پار یہ جنگل اور بھی گھنا تھا۔ اس وادی میں جنگلی
درختوں کے ساتھ ساتھ انگور کی بیلین، سیب، انار اور مختلف اقسام کے پھل دار درخت
اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ یہ جنگل کبھی ایک باغ تھا۔ پل کے پار ٹوٹی پھوٹی سڑک
کے دونوں کناروں پر تناور درختوں کی شاخیں آپس میں مل کر ایک پھت کا کام دیتی
تھیں۔ سبز سبز گھاس اور بیلین جو کناروں سے آگے بڑھ کر سڑک کے پتھروں کو اپنی آغوش
میں لے رہی تھیں، اس بات کا ثبوت تھیں کہ انہیں مسلنے والے پاؤں شاذ و نادر ہی اس
سڑک کا رخ کرتے ہیں۔

ندی کا پانی زیادہ گہرا نہ تھا اور سڑک کو چھوڑ کر یہ سوار چند قدم نیچے یا اوپر جا کر اُسے
آسانی سے عبور کر سکتے تھے لیکن کسی خیال کے تحت آگے جانے والے دو سواروں نے

پل کے قریب پہنچتے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا اور پیچھے آنے والی جماعت کو رکنے کا اشارہ کیا۔
یہ تمام سوار جنگ کے بہترین ساز و سامان سے آراستہ تھے۔ سب سے آگے سواروں میں
ایک کی قبا اور عمامہ سفید تھا اور آنکھوں کے سوا اس کا تمام چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔
اس کا ساتھی اس رسالے کے باقی سواروں کی طرح زرہ اور خود پہنے ہوئے تھا۔ تاہم اس
کا خوب صورت مشکلی گھوڑا، جواہرات سے مزین تلوار کا دستہ اور اس کی زرہ اور خود
کی چمک اس میں ایک امتیازی شان پیدا کرتے تھے۔

یہ دونوں سوار جو بظاہر اس دستے کے راہنما معلوم ہوتے تھے کچھ دیر پل کے قریب
گھوڑے روک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔

بالآخر سفید پوش نے کہا: ”مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ اگر اُس نے دیکھا تو؟“
مشکی گھوڑے کے سوار نے جواب دیا: ”تو پھر ہمارے لئے اس کے سوا کوئی راستہ
نہیں کہ ہم اُسے باغی سمجھیں اور اس سے باغیوں کا سا سلوک کریں۔“

”نہیں۔ اُس نے اپنی آزادی ہمارے دشمنوں سے چھینی ہے۔ اگر وہ صرف اس حد
کی حفاظت کا ذمہ لے تو بھی ہم اُس کی آزادی کا احترام کریں گے۔“
”اور اگر اس نے ہماری یہ پیش کش بھی ٹھکرا دی تو؟“

”تو بھی میں اُس سے تعرض نہیں کروں گا۔ ہاں مجھے یہ افسوس ضرور ہو گا کہ میں غرناطہ
کی فوج میں ایک ناقابلِ تسخیر عنصر کا اضافہ نہ کر سکا۔“

مشکی گھوڑے کا سوار کچھ کہنا چاہتا تھا کہ پل کے پار سڑک پر ایک ہرن نمودار
ہوا۔ اُس نے ترکش سے تیز نکالا۔ لیکن ابھی کمان اٹھانی تھی کہ درختوں میں سے ایک تیر
سنسناتا ہوا آیا اور پل کے پاس ایک درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے لکڑی کے تختے میں
پیوست ہو گیا۔

ہرن چھلانگ لگا کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ تمام سوار اس غیر متوقع تیر سے بدحواس

ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ مشکلی گھوڑے کے سوار نے لکڑی کے تختے کی طرف دیکھا تو اُسے تیر کے علاوہ اُس پر چند دھندلے سے حروف دکھائی دئے۔ اُس نے اپنے سفید پوش ساتھی سے کہا۔ "شاید اس پر کچھ لکھا ہوا ہے۔"

دونوں گھوڑوں سے اتر کر درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے تختے کے قریب پہنچے۔ اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی :

"اس ندی کے پار سرحدی عقاب کی مملکت ہے۔"

یہ چراگا ہیں مجاہدوں کے گھوڑوں کے لئے وقف ہیں۔

اس جنگل کے پھلوں اور شکار کے جانوروں پر صرف ان لوگوں کا حق ہے جو اندلس کی سرزمین کو پیچہ غیر سے چھڑانے کا عہد کر چکے ہیں۔

غرناطہ سے صرف وہ لوگ اس زمین میں داخل ہو سکتے ہیں جو مجاہدین کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہوں۔

وہ لوگ جو دشمنانِ اسلام کی غلامی پر قانع ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے عیسائیوں کا باج گزار رہنا قبول کر لیا ہے اس زمین پر پاؤں رکھنے کی جرأت نہ کریں۔

ہمارے پاس تلوار کا جواب تلوار ہے۔"

یہ عبارت پڑھنے کے بعد سفید پوش سوار نے اپنے زرہ پوش ساتھی کی طرف دیکھا۔

اور کہا۔ "وہ قسطہ کی طرح غرناطہ کے لوگوں کو بھی شک و شبہ کی نظر سے دیکھنے میں

حق بجانب ہے لیکن میں ہر قیمت پر اس سے ملنا چاہتا ہوں۔"

زرہ پوش نے جواب دیا۔ "وہ یہاں سے کوئی آٹھ میل دور ایک پرانے قلعے میں رہتا

ہے۔ لیکن اُسے اپنی نیک نیتی کا یقین دلانے بغیر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ گھنا

جنگل تیر اندازوں سے پٹا پڑا ہے۔ میں سفید جھنڈا دکھاتا ہوں۔ شاید اس کا کوئی آدمی

نکل آئے اور ہمیں نامہ و پیام کا موقع مل جائے۔"

سفید پوش نے اثبات میں سر ملایا۔ زردہ پوش نے اپنے دستے کے ایک سوار کو آواز دی اور سفید جھنڈا لہراتا ہوا پل کے قریب اکھڑا ہوا۔

زردہ پوش نے بلند آواز میں کہا: کوئی ہے، ہم سرحدی عقاب کے نام دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔“

ایک لمحہ سکوت کے بعد دوسرے کنارے ایک گھنے درخت کی ٹہنیوں میں جنبش پیدا ہوئی اور ایک نوجوان نیچے اتر کر ندی کے کنارے کی طرف بڑھا اور بولا: ہمارے پاس دوستی کا جواب دوستی ہے لیکن سرحدی عقاب کو شاید یہ اعتراض ہو کہ دوستی کے پیغام کے لئے آپ کو اتنے مسلح سواروں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟“

زردہ پوش نے جواب دیا: ”مجھے یقین ہے کہ بدر بن مغیرہ کے جانباز غرناطہ کے پچاس مسلح سپاہیوں سے مرعوب نہیں ہو سکتے۔ تاہم اس سے پوچھا جائے اگر اسے اعتراض ہو تو ہم ان سپاہیوں کو واپس بھیج دیتے ہیں، ورنہ ہم اپنے ہتھیار آپ کے سپرد کر دیتے ہیں اور تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے ساتھی ندی کے اس پار کھڑے رہیں اور تم ہم دونوں کو اپنے امیر کے پاس لے چلو۔“

نوجوان نے جواب دیا: ”اگر آپ سرحدی عقاب کا نام جانتے ہیں تو آپ شاید ان کی عادات سے بھی واقف ہوں۔ انہیں آپ سے ملاقات کی بجائے اس بات سے زیادہ دلچسپی ہوگی کہ آپ کے یہ سپاہی جس فوج کا ہرول ہیں اس کی صحیح تعداد کیا ہے۔“

زردہ پوش نے اپنا خود اتار کر ایک سپاہی کو دیتے ہوئے کہا: ”اگر تمہارے دل میں غرناطہ کی فوج کے ایک سپہ سالار کے لئے کوئی عزت نہیں تو کم از کم غرناطہ کے شاہی گھرانے کا احترام ضرور ہوگا۔“

(۲)

نوجوان پریشانی کی حالت میں پیچھے مڑ کر درختوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک لمحہ کے

سکوت کے بعد درختوں کے عقب میں گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور آن کی آن میں ایک سوار جس کے جسم پر چمکتی ہوئی ندہ اور سر پر خود کی بجائے سفید عمامہ تھا، ندی کے کنارے آکر رکا۔ وہ اٹھارہ بیس برس کا خوش وضع نوجوان تھا اور اس کے چہرے سے غیر معمولی شجاعت مترشح تھی۔ اُس نے ایک لمحہ کے لئے ندی کے دوسرے کنارے کھڑے ہونے والے سپاہیوں کا جائزہ لیا اور کہا: "بد بن مغیرہ سے ملاقات کے لئے آپ کو غرناطہ کے شاہی گھرانے کے کسی فرد کی سفارش کی ضرورت نہیں، وہ ایک مخلص سپاہی سے مل کر زیادہ خوش ہوگا۔"

زرہ پوش نے جواب دیا: "ایک سپاہی کے خلوص کی کسوٹی صرف میدان جنگ ہے اور اگر قدرت نے مجھے اور تمہارے امیر کو ایک محاذ پر جمع ہونے کا موقع دیا تو میرے سینے کے فخوں سے اُبتا ہوا خون میرے خلوص کی شہادت دے سکے گا۔ جاؤ اپنے امیر سے کہو کہ اگر اُسے موسیٰ کے خلوص پر شبہ ہے تو آج ہی قسطہ کے کسی شہر پر چڑھائی کر کے دیکھ لے۔ میں اور میرے یہ پچاس سپاہی تلواروں کی چھاؤں اور تیروں کی بارش میں اس کا ساتھ دیں گے۔"

دوسرے کنارے سے نوجوان نے ذرا غور سے اپنے مخاطب کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر خند قدم نیچے جا کر گھوڑے کو ندی میں ڈال دیا۔ وہ ندہ پوش کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اُترا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کہنے لگا: "اگر آپ موسیٰ ہیں تو میں کوئی دوسرا سوال کئے بغیر آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔"

موسیٰ نے نوجوان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا: "تو آپ ہی بدر بن مغیرہ ہیں۔"

میں حیران ہوں کہ ۔۔۔۔۔۔؟

بدر بن مغیرہ نے اُس کا فقرہ پورا کرتے ہوئے کہا: "آپ حیران ہیں کہ ہم ایک دوسرے

کو پہلی ہی نگاہ میں کیوں نہ پہچان سکے؟"

موسیٰ نے کہا: "میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ آپ بڑی عمر کے ہوں گے لیکن

میں خوش ہوں عتاب کھلانے کے لئے یہی عمر موزوں ہوتی ہے۔ اب اگر آپ اندس کے

شاہی گھرانے سے اپنی گزشتہ رنجشیں بھول جائیں تو میں آپ سے ایک ایسی شخصیت کا تعارف کرنا چاہتا ہوں جسے میں اندلس کے ترکش کا آخری تیر سمجھتا ہوں۔“

”اگر اندلس کے ترکش کے آخری تیر سے آپ کی مراد ابو عبد اللہ الزغل ہے تو میں اُن سے ملنا اپنی خوش نجاتی سمجھوں گا۔ غرناطہ سے جو مجاہدین میری جماعت میں شامل ہوئے ہیں، انہوں نے میرے سامنے غرناطہ کی صرف چند شخصیتوں کی تعریف کی ہے اور ان میں سے فوج کے وہ سالار جنہیں دیکھنے کی میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی موسیٰ اور الزغلیغری ہیں اور شاہی گھرانے کا ایک فرد الزغل ہے۔“

موسیٰ نے جواب دیا۔ ”الزغلیغری کو ہم اپنے ساتھ نہ لاسکے لیکن آپ کی نگاہیں اگر ایک ہلکے سے نقاب کے پار جا سکی ہوں تو الزغل آپ کے سامنے موجود ہے۔“

بدر بن مغیرہ نے موسیٰ کے سفید پوش ساتھی کی طرف دیکھا تو اُس نے مصافحہ کے لئے اپنا دایاں ہاتھ اُس کی طرف بڑھاتے ہوئے بائیں ہاتھ سے اپنا نقاب اتار دیا۔

الزغل کی عمر پچاس سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ اُس نے گہری دلچسپی سے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ”اندلس کے ترکش کے آخری تیر آپ جیسے نوجوان ہیں۔“

بدر بن مغیرہ نے کہا۔ ”آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ لیکن بد قسمتی سے اندلس میں تیروں کو پرکھنے والے ہاتھ رباب کے تاروں سے کھیل رہے ہیں۔“

الزغل نے جواب دیا۔ ”میں ان ہاتھوں سے رباب پھین لوں گا اور اگر رباب نہ پھین سکا تو ان ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا۔ اندلس کے ناکارہ ہاتھ اگر رباب کے تاروں سے کھیل رہے ہیں تو وہ اس لئے کہ اُن کے پاس تیر نہیں۔ میں اُن کے لئے تیر جمع کر رہا ہوں۔ میں تمہیں غرناطہ کی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دینے آیا ہوں۔“

بدر بن مغیرہ نے جواب دیا۔ ”یہ دعوت مجھے پہلے بھی دی جا چکی ہے لیکن میں اور میرے

ساتھی غرناطہ میں ایوانِ شاہی کی نمائش کا سامان بننے کی بجائے اس جنگل میں رہتا زیادہ
 پسند کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس سنگِ مرمر کے محلات اور اطلس کی قبائیں نہ سہی لیکن
 ہمیں یہ اطمینان ضرور ہے کہ ہم اہل غرناطہ کی طرح نصرانی بادشاہ کے باجگزار نہیں۔ یہ مجاہد
 جو اپنی زندگی کی تمام دلچسپیاں چھوڑ کر اس جنگل میں آئے ہیں غرناطہ میں جا کر دوسری غلامی
 قبول کرنے پر رضامند نہ ہوں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ غرناطہ کی آب و ہوا میں ان مجاہدوں کی
 خارا شگاف تلواریں جنہوں نے بارہا نصرانیوں کے دانت کھٹے کئے ہیں اپنی آہنی صفت
 کھو بیٹھیں گی۔ غرناطہ کی بھٹی میں ان کا لوہا پگھل کر رباب کے تاروں میں تبدیل ہو جائے گا۔
 عقاب صرف اس وقت تک عقاب ہے جب تک وہ چٹانوں میں بسیرا کرتا اور کھلی فضاں
 میں اڑتا ہے۔ معاف کیجئے ہم شاہی دربار کے آداب سے واقف نہیں۔ ہم صرف سپاہی ہیں
 اور ہماری جدوجہد کا ایک مقصد ہے۔ جس دن غرناطہ کا سلطان یہ اعلان کرے گا کہ میں اسلام
 کا پرچم دوبارہ قرطبہ اور اشبیلیہ پر نصب کرنے کا عہد کرتا ہوں، میں آپ کو یقین دلانا ہوں کہ اس
 وقت آپ کو ہمیں دعوت بھیجنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی، ہم بن بلائے آپ کے پاس
 چلے آئیں گے اور اندلس کی وہ خاک جہاں غرناطہ کے باشندے اپنا پسینہ بہانے کے لئے
 تیار ہوں گے، ہمارے خون سے لالہ زار ہوگی۔ خدا کی قسم اگر میرے متعلق کوئی یہ سمجھتا ہے کہ
 میں نے انسانوں کے ایک گروہ کا امیر بننے کے لئے یہ دھونگ رچایا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔
 میں ایک سپاہی ہوں اور غرناطہ کے اس سپہ سالار کا منتظر ہوں جو طارق کی نگاہ اور عبدالرحمن
 کا دل رکھتا ہو۔ یہ وادی اس کے لئے ایک مستقر کا کام دے گی اور جب تک وہ نہیں آتا میں
 اس کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اگر وہ سپہ سالار آپ میں سے کوئی ہے تو یہ مورچہ اس کے
 لئے حاضر ہے، ورنہ آپ جائے اور مجھے انتظار کرنے دیجئے۔ مجھے پہلے میرے والد اور
 ان سے پہلے ان کے والد اس سپہ سالار کی آمد کے شوق میں اس مورچے کی حفاظت کرتے
 رہے۔ میں بھی اپنا فرض پورا کرتا رہوں گا۔

بدر بن مغیرہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا اور الزغل محبت، شفقت اور عقیدت کے جذبات سے مغلوب ہو کر دیر تک اُس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اُس نے کہا: "مغیرہ کے بیٹے سے مجھے یہی توقع تھی۔ نوجوان! مبارک ہیں وہ چراگا ہیں جہاں تمہارے گھوڑے چرتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ دہشت جن کی چھاؤں میں تم سوتے ہو۔ بیشک غرناطہ کے محل اس قابل نہیں کہ وہ ایک شاہین کا مسکن بن سکیں۔ لیکن میں تمہیں محلات میں رہنے کی دعوت دینے کے لئے نہیں آیا، میں تمہیں ایک خوشخبری دینے آیا ہوں۔ ہم قسطلہ کے ساتھ آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ابوالحسن آج بھی اعلانِ جہاد کرنے کے لئے تیار ہے لیکن میں نے اس سے چار ماہ کی مہلت لی ہے اور ان چار ماہ میں ہمیں بہت کچھ کرنا ہے اور میں تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔"

بدر کی خوبصورت آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں۔ اُس نے الزغل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہونٹوں سے لگا لیا اور بولا: "اگر نصرانیوں کے خلاف بغاوت کا بھنڈا اٹھانے کے لئے قدرت نے یہ ہاتھ منتخب کیا ہے تو میں اسے بوسہ دیتا ہوں۔"

الزغل نے ہاتھ پھیلا کر بدر کو گلے لگا لیا۔ الزغل سے علیحدہ ہو کر بدر موسیٰ کی طرف متوجہ ہوا۔ "میں آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔" موسیٰ آگے بڑھ کر اس سے بغلیں گریہ ہوا تو الزغل نے مسکراتے ہوئے کہا: "موسیٰ! یہ عقاب تمہارے قبضے میں بڑی مشکل سے آیا ہے اسے چھوڑ نہ دینا۔"

موسیٰ نے بدر کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا: "آپ پریشان نہ ہوں میں آپ کو اپنے قبضے میں رکھنے کی بجائے آپ کے ساتھ اُڑنے کی کوشش کروں گا۔" "میں آپ کو جانتا ہوں۔" بدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا: "غرناطہ کی آنکھ کے تارے کو کون نہیں جانتا۔"

موسیٰ نے کہا: "میں ایک بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔"

”کہئے؟“

”مجھے یہ خیال تھا کہ حالات نے آپ کو بے حد محتاط بنا دیا تھا لیکن آج جو کچھ آپ

نے کیا ہے وہ آپ کی روایات کے خلاف ہے۔ اس وقت آپ اکیلے ہمارے پاس چلے آئے
آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ ہماری نیت بُری نہیں۔“

بدر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ”پچاس آدمیوں کی نیت اگر بُری کبھی ہو تو کبھی اس

جگہ اپنے لئے انہیں کوئی بڑا خطرہ نہیں سمجھتا۔“

”اور آپ کو کیسے یقین آیا کہ ہمارے پیچھے کوئی فوج نہیں۔“

بدر بن مغیرہ نے جواب دیا۔ ”جب آپ یہاں سے بیس کوس کے فاصلے پر تھے تو مجھے

آپ کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی اور مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کے پیچھے کوئی اور فوج

نہیں اور جب آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے تو میں ایک درخت پر بیٹھا آپ کی باتیں سن

رہا تھا اور اس کے باوجود میں کافی محتاط ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آپ کے پچاس

آدمی میرے ساتھیوں کے نرغے میں ہیں۔“

موسیٰ نے حیران ہو کر چاروں طرف درختوں پر نگاہ دوڑائی۔ بدر نے مسکراتے ہوئے

کہا۔ ”جسے ہدف دیکھ سکے ہم اُسے تیر نہیں کہتے۔ میں آپ کی تشویش دُور کئے دیتا ہوں۔“

یہ کہہ کر اس نے ترکش سے ایک تیر نکال کر کمان پر چڑھایا اور پل کے قریب درخت

کے ساتھ لٹکے ہوئے تختے کا نشانہ کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ ”ہماری معتزہ مہمان یہ جاننا

چاہتے ہیں کہ اس وقت یہاں کتنے عقاب موجود ہیں۔ تختہ تمہارا ہدف ہے۔ ہوشیار!“

جونہی بدر بن مغیرہ کی کمان سے ایک تیر نکل کر تختے میں بیہوش ہو ا مختلف اطراف سے

تیروں کی بوچھاڑ آئی اور تمام تختہ تیروں سے بھر گیا۔ درختوں کے کٹے ہوئے پتے ہوا میں

اُڑ رہے تھے۔

موسیٰ نے حیران ہو کر کہا۔ ”تو ہمارے پیچھے بھی درختوں پر تمہارے آدمی ہیں؟“

”ہاں اور آپ کے آگے بھی تختے کے دوسری طرف آپ اس سے زیادہ تیر پائیں گے“
الزغل نے کہا۔ ”موسیٰ! اس نوجوان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ میں چند دن کے
لئے فوج کے چند سالار یہاں بھیج دوں گا۔ میں اس کے سامنے بہت سی تجاویز پیش کرنا
چاہتا ہوں اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم آج ہی واپس چلے جائیں“

بدر بن مغیرہ نے کہا: ”مجھے معاف کیجئے میں بے آپ کو اتنی دیر یہاں ٹھہرائے رکھا۔
آپ میرے ساتھ آئیے ہم اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے“
الزغل نے جواب دیا۔ ”لیکن آپ کی قیام گاہ یہاں سے کافی دُور ہے اور وہاں جا کر
شاید میں آج ہی واپس نہ جاسکوں“

”میں آپ کو زیادہ دُور نہیں لے جاؤں گا۔ آئیے اس جنگل کے پھل اور شکر آپ کے
لئے اور اس کی گھاس آپ کے گھوڑوں کے لئے حاضر ہے“

”ہم آپ کی دعوت قبول کرتے ہیں“ یہ کہہ کر الزغل گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ بدر کی
رہنمائی میں سواروں کے دستے نے ندی عبور کی۔ دوسرے کنارے پہنچ کر بدر نے بلند آواز
میں اپنے ساتھیوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور ان کی آن میں قریباً دو سو تیر انداز ندی کے
آس پاس دونوں کناروں کے درختوں سے نیچے کود کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔

ایک سرسٹ سوار جنگل میں چھپتی ہوئی سڑک پر نمودار ہوا۔ بدر کے تیر اندازوں اور الزغل
کے سپاہیوں کے قریب پہنچ کر اس نے گھوڑا روکا اور لذت مند سا ہو کر ان کی طرف دیکھنے
لگا۔ اُس کی عمر بائیس سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ اس کی شکل و شبہت اور
رنگ خاص عربی نسل یا بربری مسلمانوں کی بجائے مخلوط نسل کے ہسپانوی باشندوں سے
ملتا تھا۔ اُس کے چہرے سے سپاہیانہ جبروت سے زیادہ علم اور ذہانت مترشح تھی۔ بدر کی
طرح اُس کے سر پر بھی سفید عمامہ تھا لیکن زردہ کے اوپر وہ سُرخ رنگ کی قبائلی پٹنے ہوئے
تھا۔ اُس کے گھوڑے کی زین کے ساتھ چڑے کے دو تھیلے بندھے ہوئے تھے۔

الزغل کا پورا نام ابو عبد اللہ الزغل تھا چونکہ اس کے بھتیجے کا نام ابو عبد اللہ محمد تھا۔ اس لئے اول الذکر
کو فقط الزغل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے

بدر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: "بشیر! تم آگے، یہ تاجدار اندلس کے بھائی
الزغل ہیں اور یہ موسیٰ ہیں۔ یہ ہمارے لئے ایک خوشخبری لائے ہیں۔ عنقریب قسطلہ
کے خلاف اعلان جنگ ہونے والا ہے۔"

بشیر نے گھوڑے سے کود کر ان دونوں سے مصافحہ کیا تو بدر نے کہا: "یہ بشیر بن حسن
ہیں۔ آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ اندلس میں ان سے بہتر جراح شاید اور کوئی نہ ہو۔
انہوں نے قرطبہ میں اپنا عالی شان محل چھوڑ کر میرے ساتھ اس جنگل میں رہنا پسند کیا
ہے۔"

بدر نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ یکے بعد دیگرے جنگل میں غائب ہو گئے۔

(۳)

تھوڑی دیر بعد بدر اور بشیر جنگل میں اپنے مہمانوں کی راہنمائی کرتے ہوئے ایک
چشمے کے کنارے پہنچے جہاں درختوں کے سائے سرسبز گھاس پر ایک وسیع دسترخوان بچھا
ہوا۔ بدر کے چچا سے ساتھ آدمی یہاں بھی موجود تھے۔ انہوں نے مہمانوں کے گھوڑے ایک
طرف باندھ کر ان کے آگے گھاس ڈال دی۔

الزغل اور اس کے سپاہی جب دسترخوان پر بیٹھے تو قریباً ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ
میزبان نے اپنے غیر متوقع مہمانوں کے لئے کیا انتظام کیا ہوگا۔ بدر نے تالی بجائی تو درختوں
کے ایک جھنڈ سے چند آدمی طشت اٹھائے نمودار ہوئے اور تھوڑی دیر میں دسترخوان
پر پرندوں اور جنگلی جانوروں کے بھنے ہوئے گوشت اور مختلف اقسام کے پھلوں کے
ڈھیر لگ گئے۔

مہمانوں نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بالآخر الزغل نے کہا: "آپ نے
بہت تکلف سے کام لیا۔ میں حیران ہوں کہ آپ نے ان کی آن میں یہ سارا انتظام کیسے کیا؟"

بدر نے جواب دیا۔ "میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب آپ یہاں سے بیس
کوس کے فاصلے پر تھے تو مجھے آپ کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا
کہ آپ راستے میں ناشتہ کرنے کے لئے کہیں نہیں رُکے۔ اور جب میرے خبر رساؤں نے
یہ بھی بتا دیا کہ آپ اپنے ساتھ سامانِ رسد نہیں لائے تو میں کھانے کا انتظام کرنے کے سوا
اور کیا سوچ سکتا تھا؟"

کھانا کھانے کے بعد ان لوگوں نے الزغل کی امامت میں ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے
بعد بدر، الزغل، موسیٰ اور بشیر باقی لوگوں سے علیحدہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ موسیٰ نے
اندلس کا نقشہ کھول کر سامنے رکھ دیا اور دیکھا کہ آنے والی جنگ کے متعلق مختلف تجاویز
پر بحث ہوتی رہی۔ الزغل نے بدر کی مختلف تجاویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا حملے سے
چند دن قبل آپ کو غرناطہ بلا لیا جائے گا۔ سرِ دست میں چاہتا ہوں کہ سرحد کے چند اور علاقے
آپ کی تحویل میں دے دئے جائیں۔ آپ اس جنگل کو مستقر بنا کر ان علاقوں کی حفاظت کر
سکیں گے۔ اس سرحد کی حفاظت سے ملہن ہو کر ہم اپنی بیشتر قوت دوسرے محاذ پر منتقل کر
سکیں گے۔ میں ابوالحسن سے آپ کو اس سرحد کا گورنر مقرر کرنے کی اجازت لے آیا تھا لیکن
مجھے خدشہ ہے کہ ہمارے اس اقدام سے فرڈیننڈ فوراً چوکتا ہو جائے گا اور وہ ہمیں تیاری کا
موقع دینے سے پہلے ہم پر حملہ کر دے گا۔ اس لئے میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ نام کے لئے سرحد
کا گورنر کوئی اور ہو مگر کام کے لئے آپ ہوں۔ چار ماہ تک عیسائیوں سے کوئی چھڑ چھاڑ ہمارے
مفاہد کے خلاف ہوگی۔ اس دوران میں ہم ان کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں آپ
قطیف، شبیلیہ اور دوسرے شہروں کے حریت پسندوں کو اپنے پاس بلا لیں۔ میں ان کے لئے
گھوڑے اور اسلحہ فراہم کرنے کا ذمہ لیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر صرف ایک دن کے لئے
غرناطہ اور باقی اندلس کے مسلمان متحد ہو جائیں تو ہم اس ملک کو ہمیشہ کے لئے عیسائیوں
کی غلامی سے آزاد کر سکتے ہیں۔"

بدر نے منعم لہجے میں جواب دیا: "کاش یہ بات کوئی آج سے پچاس، سو یا دو سو برس پہلے سوچتا۔ دو سو برس پہلے غرناطہ میں صرف قرطبہ، طلیطلہ اور اشبیلیہ سے تین لاکھ مہاجرین جہاد کے ارادے سے غرناطہ میں پناہ گزین ہوئے تھے لیکن وہاں حسد و عناد کی آگ میں ان کی تواریں گھل کر رہ گئیں۔ صرف اس وادی میں پچاس برس پہلے ساٹھ ہزار مجاہد تھے۔ آج میرے پاس صرف پانچ ہزار سپاہی ہیں۔ لیکن اگر غرناطہ لڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو ان کی تعداد تین گنا ہو سکتی ہے۔ ابھی تک بہت سے فالتوں گھوڑے اس جنگل میں چرتے ہیں۔ اگر مجھے ہتھیاروں کی ضرورت پڑی تو آپ کو اطلاع دوں گا۔"

مرحد کے علاقے بدر بن مغیرہ کی منگرافی میں دینے کے متعلق بہت سی تفصیلات طے کرنے کے بعد الزغل نے اپنے ساتھیوں کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔

سردی عقاب

(۱)

مسلمانوں کو اندلس پر قابض ہوئے قریباً آٹھ صدیاں گزر چکی تھیں۔ ان آٹھ صدیوں کی تاریخ ایک عظیم قوم کے عروج اور زوال کی داستان ہے جس کا پہلا باب عرب فاتحین اور اموی خاندان کے جلیل القدر حکمرانوں نے اپنے خون کی روشنائی سے لکھا تھا۔ اب یہ عظیم قوم جس کی سطوت بحیرہ روم کی سرکش لہروں پر سکوت طاری کر دیا کرتی تھی، جس کی اولوالعزمی کے سامنے کوہ پیرنیز کی بلند چوٹیاں سرنگوں ہو جایا کرتی تھیں بے کسی کے استسواؤں سے اپنی تاریخ کا آخری باب لکھ رہی تھیں۔ تہذیب و تمدن کا وہ درخت جسے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر جیسے جانیازوں اور عبدالرحمن کے جانشینوں نے پروان چڑھایا تھا بادِ خزاں کے تند و سرکش جھونکوں کا سامنا کر رہا تھا۔

مسلمان ایک آندھی کی طرح اس ملک میں داخل ہوئے جب مزاحمت کی تمام دیواریں ٹوٹ گئیں اور اسپین کے باشندوں نے شاہسوارانِ عرب کے آگے ہتھیار ڈال دئے تو یہ آندھی رحمت کی گھٹا سے بدل گئی اور اندلس کی بجز زمین بارغِ عدن میں تبدیل ہو گئی۔ وہ ملک جہاں انسانیت جہالت کے جنگل میں دم توڑ رہی تھی، یورپ کا مشعل بردار بن گیا۔

جب یورپ پر وحشت اور بربریت کی تاریک گھٹائیں مسلط تھیں، اندلس کے ہر گھر میں علم و ہنر کی کندیلیں روشن تھیں جب یورپ کے اکثر باشندے جانوروں کی کھالوں سے اپنے جسم ڈھانپتے اور جنگلوں اور غاروں میں رہتے تھے۔ اندلس کے باشندے پارچہ بانی اور فن تعمیر کو اوج کمال تک پہنچا چکے تھے۔ جب یورپ میں کتابوں اور کتابیں پڑھنے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جاسکتی تھی۔ اندلس میں کسی ایسے آدمی کو تلاش کرنا ممکن نہ تھا جس کے گھر میں کتب خانہ نہ ہو۔

اموی امارت کا زمانہ اندلس کی تاریخ کا سنہری زمانہ تھا۔ آج بھی ایک سیاح جب اس کے جاہ و جلال اور شان و شوکت کا تصور کرتا ہے جو قرطبہ، اشبیلیہ اور طلیطلہ کے کھنڈروں میں دفن ہے تو وہ حیران ہو کر یہ پوچھتا ہے کہ کیا یہی وہ ملک ہے جس کی خوشحالی دیکھ کر شارلمین کے سفیر دنگ رہ جاتے تھے؟ کیا موجودہ اسپین عربوں کا وہی اندلس ہے جسکی زمین سونا اگلتی تھی، جہاں غربت و افلاس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جس کی تجارت روس، ایران اور چین تک پھیلی ہوتی تھی۔ جس کی یونیورسٹیاں دنیا بھر میں مشہور تھیں، جس کے علماء کے سامنے ارسطو اور افلاطون کے جانشین گھٹنے ٹیکتے تھے۔

اندلس کے مورخین کی رو میں جو شاید ہر شام ان ویرانوں کا طواف کرتی ہیں نہایت معنوم انداز میں ہمیں ان سوالات کا جواب دیتی ہیں۔ "ہاں یہ اسپین عربوں کا وہی اندلس ہے، جس کی سطوت کی داستان قصہ باربیر بن چکی ہے۔ یہ جبل الطارق وہی ہے جہاں طارق بن زیاد کے جہاز سنگر انداز ہوئے تھے، یہ قرطبہ وہی شہر ہے جہاں عبدالرحمن ثالث کے دربار کی شان و شوکت دیکھ کر دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہوں کے سفیر دم بخوردہ جاتے تھے۔ یہ اندلس وہی ہے لیکن وہ عظیم قوم جس نے اپنے خون اور پسینے سے اس کی خاک کو زندگی اور رعنائی عطا کی تھی مٹ چکی ہے۔ ان کھنڈروں کے نیچے ان جلیل القدر معماروں کی لاشیں دفن ہیں جنہوں نے اس ملک کو باقی یورپ کے لئے روشنی کا عینار بنا دیا تھا۔"

تاریخ عالم مختلف اقوام کے کمال و زوال کی داستانیں بیان کرتی ہے لیکن اندلس کے عرب فاتحین کے کمال و زوال کی داستان سب سے زیادہ دل چسپ اور سب سے زیادہ سبق آموز ہے۔ اگر وہ سورج، وہ چاند اور وہ تارے جنہوں نے تخلیق آدم سے لے کر آج تک اپنی نہ جھپکنے والی آنکھوں سے ترقی یا تنزل کے راستوں پر چلنے والے ہزاروں قافلے دیکھے ہیں، اپنے پہلو میں دل رکھتے ہوں تو وہاں یقیناً اندلس کے عرب حکمرانوں کے عروج و زوال کی داستان نقش ہوگی۔

(۲)

اندلس میں مسلمانوں کی فتوحات کے ابتدائی دور کے بعد شمالی سرحد کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم ہو گئی تھیں۔ طاقتور حکمرانوں کے زمانے میں یہ سلطنتیں اندلس کی اسلامی سلطنت کی باجگزار بن جاتیں اور کمزور حکمرانوں یا مسلمانوں کے باہمی انتشار کے زمانے میں یہ اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے سرحدی علاقوں پر لوٹ مار شروع کر دیتیں۔ اندلس میں اموی خاندان کا عہد حکومت مسلمانوں کی شان و شوکت کا زمانہ تھا اور اموی سلاطین شمال کے چھوٹے چھوٹے عیسائی اُمراء کی ریشہ دو اینوں کے باوجود ان سے فیاضانہ برتاؤ کرتے رہے۔

پانچویں صدی ہجری میں اموی خاندان کے زوال کے بعد اندلس کے مسلمان لاگت بہت اور انتشار کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے۔ اندلس کی عظیم سلطنت قریباً بیس چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس انتشار سے الفانسوششم نے فائدہ اٹھایا اور شمال کی عیسائی حکومتوں اسپین، لیون اور قسطلہ کو ملا کر ایک سلطنت بنالی۔

اندلس کے مطلق العنان مسلمان اُمراء جب اپنے کسی ہمسایہ سے مغلوب ہوتے تو الفانسو کو مدد کے لئے پکارتے۔ وہ ایک حکمران کو دوسرے کے مقابلہ میں کھڑا کر کے اپنی مدد کی قیمت وصول کرتا۔ یہاں تک کہ اسپین کے قریباً تمام حکمران اس کے باجگزار ہو گئے اور

اس کی فوج نے ملک کے طول و عرض میں چوکیاں قائم کر کے لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔

اس مصیبت کے وقت مراکش اور الجیریا کا حکمران یوسف بن تاشفین مسلمانوں کی مدد کے لئے پہنچا۔ اس نے انہیں عیسائیوں کی چیرہ دستیوں سے نجات دلائی۔ لیکن کوتاہ اندیش مسلمانوں کو کوشش کے باوجود ایک مرکز پر جمع نہ کر سکا۔ جب مسلمانوں میں مصالحت کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو اُس نے اندلس پر قبضہ کر کے اُسے اپنی افریقی سلطنت کا ایک صوبہ بنا دیا۔

افریقہ کے مرابطین کی یہ سلطنت جس کی بنیاد یوسف بن تاشفین نے رکھی تھی دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ اندلس کے اُمراء اس میں کمزوری کے آثار دیکھتے ہی اس کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے اور اندلس میں جتنے بڑے بڑے شہر تھے اتنی ہی سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ اس نازک مرحلہ پر عبدالمومن نے مسلمانوں کے اقتدار کے گرتے ہوئے محل کو سہارا دیا اور اندلس کے چھوٹے چھوٹے خودمختاروں کو مغلوب کر کے موحدین کی سلطنت کی بنیاد رکھی۔

موحدین نے شمال کے عیسائی حملہ آوروں کو پے در پے شکستیں دیں۔ لیکن بد قسمتی سے وہ افریقہ میں بیٹھ کر حکومت کرتے تھے۔ اس لئے اندلس پر اُن کا قبضہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا اور اندلس کے اُمراء کی سازشیں بڑھتی گئیں۔

۱۲۱۲ء میں عیسائیوں نے موحدین کی رہی سہی افواج کو لاس نواس میں شکست دی اور اس کے بعد مسلمانوں کے کئی شہر ایک ایک کر کے اُن کے قبضے میں چلے گئے۔

۱۲۳۸ء سے ۱۲۶۵ء تک مسلمان آپس میں جھگڑتے رہے اور اس دوران میں قسطلہ کے عیسائی بادشاہ فرڈیننڈ ثالث اور اراغون کے حکمران نے متحد ہو کر قرطبہ، ہنسیہ

اشبیلیہ اور سرسیہ کو فتح کر لیا۔ مسلمانوں کے لئے قرطبہ اور اشبیلیہ کا عیسائیوں کے قبضے میں چلا جانا، بغداد اور بخارا کے تباہیوں کے قبضہ میں چلے جانے سے کم نہ تھا۔

اندلس میں اب ان کا آخری حصار غرناطہ کی سلطنت تھی۔ یہ سلطنت کوہ سیرانوید اور ساحل کے قریب المریہ سے لے کر جبل الطارق تک پھیلی ہوئی تھی۔ غرناطہ میں قریباً اڑھائی سو برس اور مسلمانوں کی حکومت رہی۔ مفتوحہ علاقوں کے بہت سے لوگ اُسے اپنے دفاع کا آخری مورچہ سمجھ کر غرناطہ میں آگئے اور انہوں نے اپنی خدمات غرناطہ کے حکمرانوں کو پیش کیں لیکن مسلمان اُمراء کی وہ تلوار جو بڑی سے بڑی طاقت کو خاطر میں نہ لایا کرتی تھی اب نیام میں آچکی تھی۔

قریباً ڈیڑھ صدی تک غرناطہ کی سلطنت خود غرض اُمراء کی باہمی کش مکش اور اس کے سرحدی علاقے عیسائیوں کی ٹوٹ مار اور قتل و غارت کا نشانہ بنے رہے۔ بعض موقعوں پر غرناطہ کے حکمرانوں نے عیسائیوں کو شکستیں بھی دیں لیکن غرناطہ کسی ایسی اولیاء العزم شخصیت کی راہنمائی سے محروم رہا جو عیسائیوں کی طرف سے پیش آنے والے خطرات کا پورا پورا سدباب کرتی۔

اگر کسی امیر کو عیسائیوں پر کوئی فتح حاصل ہوتی تو عوام کا جوش و خروش کچھ عرصہ کے لئے اس کا ساتھ دیتا لیکن بعد میں پھر یہ سلطنت حسد و رقابت کا اکھاڑا بن جاتی۔

تاہم اس زمانے میں علوم و فنون کی ترقی کے لحاظ سے نہ صرف یورپ بلکہ دنیا کا کوئی شہر غرناطہ کا ہم پلہ نہ تھا۔ اس کے معمار ساری دنیا میں مشہور تھے۔ اس کی یونیورسٹی میں دور دراز ممالک کے طلباء تعلیم پاتے تھے، غرناطہ کے جراح اور طبیب دنیا میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔

جب کوئی قوم اپنے لئے آزادی، عزت اور فلاح کا راستہ منتخب کرتی ہے تو علم اس کے لئے ایک تازیانے کا کام دیتا ہے لیکن جب وہ اس راستے سے ہٹ جاتی ہے تو یہی علم و فن اس کے لئے نشہ آور دوائی بن جاتا ہے اور اُسے اپنے عمل کی کوتاہی پر ضمیر کی ملامت سے متاثر نہیں ہونے دیتا۔

نویں صدی ہجری اور پندرھویں صدی عیسوی کے وسطِ آخر میں غرناطہ کی اسلامی سلطنت کے تنزل کے آثار نہایت تیزی کے ساتھ ظاہر ہو رہے تھے۔ فرڈی نینڈ پنجم اور ازابیلہ کی شادی کے ذریعے دو عیسائی سلطنتوں اراغون اور قسطلہ کا اتحاد اور مسلمانوں میں آپس کی بھوٹ اندلس میں مسلمانوں کے ٹٹاتے ہوئے چراغ کے نئے ہوا کا آخری جھونکا ثابت ہوئی۔

(۳)

بدر بن مغیرہ کو قسطلہ کے اُمراء اور عوام سرحدی عقاب کے نام سے یاد کرتے تھے۔ قسطلہ کی حملہ آور افواج کے خلاف وہ اپنی غیر متوقع کامیابیوں کی بدولت غرناطہ میں بھی اسی نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ یہ ساٹھ میل لمبا، چالیس میل چوڑا پہاڑ اور جنگل ایک مدت سے ان آزاد لوگوں کا مسکن تھا جو غرناطہ کے متعلق غیر جانبدار اور پڑوس کی عیسائی سلطنتوں سے برسرِ پیکار چلے آتے تھے۔ بدر سے پہلے اس کا باپ مغیرہ اس علاقے کا امیر تھا اور اس نے عیسائیوں کے بہت سے علاقے چھین کر اپنی مملکت میں شامل کر لئے تھے۔ غرناطہ کے حکمران نے اُسے اپنا باجگزار بنانے کی کوشش کی تو اس نے شاہی ایلچی کو جواب دیا کہ اگر غرناطہ کا حکمران قسطلہ کو خراج دینا بند کر دے تو یہ علاقہ اس کا ہے اور میں اس کی فوج کے ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے نصرانیوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا اپنے لئے باعثِ فخر سمجھوں گا۔ ورنہ میں غرناطہ کی وساطت سے قسطلہ کی دوہری غلامی میں جانے کے لئے تیار نہیں۔ اُس زمانے میں غرناطہ خانہ جنگی کا اکھاڑا بنا ہوا تھا اور غرناطہ کے حکمران کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنے دشمن اُمراء کی جہدِ جہت میں قسطلہ کے عیسائی بادشاہ کو بھی شامل کر لے۔ اس لئے اس نے مغیرہ کو کہلا بھیجا کہ جب تک تمہاری سرگرمیاں صرف نصرانیوں کے خلاف ہیں تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کروں گا۔

قسطلہ کے باجگزار عیسائی اُمراء باہمی رقابتوں کے باعث مغیرہ کے خلاف کوئی متحدہ محاذ

ذہنا کے اور اسے تیاری کا موقع ملتا رہا۔ عیسائی اُمراء کے محکوم مسلمانوں میں سے بعض لوگ اس کے پیغام پر تکیہ کرتے ہوئے اُس کے ساتھ آئے لیکن اس نے ابھی تک کوئی چھ ہزار مجاہد فراہم کئے تھے کہ نصرانی اندلس میں ایک بڑا انقلاب آیا۔

فرڈینینڈ پنجم اور ازابیلا کی شادی کے باعث شمال کی دو طاقتور عیسائی سلطنتوں قسطلہ اور اراغون کا اتحاد اسلامی اندلس کے لئے ایک خطرہ عظیم بن گیا فرڈینینڈ کے اقتدار کے سامنے چھوٹے چھوٹے عیسائی حکمرانوں کی حیثیت معمولی سرداروں کی سی رہ گئی۔ وہ غرناطہ کی باجگزار سلطنت کے مقابلہ میں مغیرہ کے چھوٹے سے آزاد علاقے کو اپنے لئے زیادہ خطرناک سمجھتا تھا۔ اُسے یہ بھی احساس تھا کہ اُسے یہ علاقہ فتح کرنے کے لئے اپنی فوج کا بہت بڑا حصہ قربان کرنا پڑے گا۔

مغیرہ نے آنے والے خطرات کا اندازہ کرتے ہوئے اندلس کے طول و عرض میں مجاہدین کی جماعتیں تیار کرنے کی مہم شروع کر دی۔ اس نے آزاد علاقے کی حفاظت اپنے ایک نائب کے سپرد کی اور ایک معمولی تاجر کے بھیس میں اندلس کے بڑے بڑے شہروں کا دورہ کیا۔ قرطبہ، اشبیلیہ اور دوسرے شہروں کے ان مسلمانوں نے جن کی روح غلامی کی زنجیروں میں پھڑپھڑا رہی تھی اس کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی اور اُسے یقین دلایا کہ وقت آنے پر وہ اپنے اپنے شہر میں بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیں گے۔ تاہم مغیرہ نے یہ محسوس کیا کہ ایک طویل عرصہ غلامی کے بعد نصرانی اندلس میں بہت کم ایسے مسلمان رہ گئے ہیں جو اسلام کے لئے زندہ رہنا اور اسلام کے لئے مرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے اسلاف کے دین سے بیگانہ کرنے کے لئے جو حربے عیسائی حکمران استعمال کر چکے تھے وہ کافی حد تک کامیاب تھے اور اب فرڈینینڈ کے عہد حکومت میں انہیں مرتد بنانے کے طریقوں پر زیادہ شدت کے ساتھ عمل ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کی درس گاہوں میں عربی زبان ممنوع قرار دے دی گئی تھی، انہیں عربی لباس پہننے کی ممانعت تھی۔ انہیں مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو عیسائی درس گاہوں میں بھیجیں۔ تھوڑی بہت مراعات صرف ان لوگوں کے لئے تھیں جو عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے۔ لیکن جو مسلمان رہنا

چاہتے تھے ان کے لئے حکم تھا کہ وہ خاص قسم کا نشان لگائیں۔ بازاروں میں انہیں ذلیل کیا جاتا تھا۔ ان حالات میں کمزور لوگوں کی ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی تھی جو بظاہر عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے لیکن اپنے گھروں میں چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ اندلس کے رہے سہے مسلمانوں کے لئے سب سے بڑا خطرہ وہاں کی ایک قومی تحریک تھی متائین کی ایک جماعت نے اندلسی اور غیر اندلسی کا جھگڑا کھڑا کر دیا تھا۔ یہ لوگ ہسپانوی نسل کے مسلمانوں کو عربی النسل مسلمانوں کے خلاف متحد کر رہے تھے اور نصرانی حکومت نے ان سرگرمیوں کو اپنے لئے مفید سمجھ کر ان کی حوصلہ افزائی شروع کر دی تھی۔ یہ لوگ مساجد اور چوراہوں میں عرب اور بربری مسلمانوں کے خلاف زہر اُگلتے رہتے تھے۔ ان حالات میں بیشتر عرب اور بربری مراکش چلے گئے تھے اور کچھ غرناطہ میں آباد ہو گئے تھے۔

مغیرہ جب ان شہروں کا دورہ کرنے کے بعد واپس آیا تو وہ زیادہ پر امید نہ تھائیں شہروں میں قریباً چار ہزار مسلمانوں نے اُس کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی۔ تاہم وہ مایوس نہ ہوا اور اُس نے عہد کیا کہ وہ اندلس کے ہر شہر میں جہاد کا پیغام پہنچائے گا۔ اُسے یہ بھی احساس تھا کہ جب تک غرناطہ سے کوئی زندہ دل حکمران بغاوت کا جھنڈا بلند نہیں کرتا، اندلس کے مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کا خواب ادھورا رہے گا۔ اُس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ غرناطہ کا حکمران عیسائیوں کے خلاف اعلان جہاد کرے اور وہ سرفروشیوں کی جماعت کے ساتھ اس کی فوج میں شامل ہو جائے لیکن غرناطہ کا تخت جو دغرض دعویداروں کی رزمگاہ بنا رہا۔ ان حالات کے باوجود مغیرہ نے ہمت نہ ہاری۔ وہ ہر سال بھیس بدل کر اندلس کے شہروں میں جاتا اور لوگوں کو جہاد کے لئے تیار کرتا۔ اپنی قیام گاہ میں واپس آ کر بھی وہ اپنا زیادہ وقت اندلس کے شہروں کی خفیہ جماعتوں کے نام خطوط لکھنے میں گزارتا۔

ایک دن مغیرہ جنگل کے پانے قلعے کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک سپاہی نے آکر اطلاع دی کہ چند سپاہی سرحد سے ایک اجنبی کو گرفتار کر کے لائے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ

میں طلیطلہ سے ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ مغیرہ کو اپنی سرگرمیوں کے سلسلہ میں ابھی تک طلیطلہ جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کے اشارہ پر اجنبی کو پیش کیا گیا۔ بدر کی عمر اس وقت چودہ برس تھی اور وہ اپنے باپ کے قریب بیٹھا تھا۔ اجنبی نے کمرے میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور کہا: "میں آپ کے ساتھ تنہائی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔"

مغیرہ نے سپاہی کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا: "ہاں کہو؟"

اجنبی نے جواب طلب نگاہوں سے بدر کی طرف دیکھا تو مغیرہ نے کہا: "اس کے

متعلق تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ میرا بیٹا ہے۔"

اجنبی نے اپنی جیب سے ایک خط نکال کر مغیرہ کو پیش کرتے ہوئے کہا: "اسے پڑھ لیجئے۔"

طویل مراسلہ پڑھنے کے بعد مغیرہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے کانوں میں مراسلے کے

یہ آخری الفاظ گونج رہے تھے۔ طلیطلہ میں دس ہزار سرفروش آپ کے منتظر ہیں۔ میں حیران

ہوں کہ آپ نے اس شہر کو اب تک کیوں نظر انداز کر رکھا ہے۔ طلیطلہ کے مسلمان اندلس

کے باقی تمام شہروں کے مسلمانوں سے زیادہ مظلوم ہیں اور ان میں ہزاروں ایسے ہیں جو ظلم

کے بوجھ تلے سسک سسک کر جان دینے کی بجائے آپ کے جھنڈے تلے بہادری کی

موت کو ترجیح دیں گے۔"

مغیرہ نے اپنی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا: "جاؤ ان سے کہو کہ میں آؤں گا۔"

بہت جلد آؤں گا۔"

اس کے بعد مغیرہ نے چند سپاہیوں کو بلا کر حکم دیا کہ وہ اپنی کو حفاظت کے ساتھ رعد

کے پار پہنچادیں۔

(۴)

رات کے تیسرے پہر مغیرہ اپنے بستر سے اٹھ کر ایک راہب کا بھیس بدل رہا تھا۔

ایک سپاہی نے کمرے میں آکر اطلاع دی کہ آپ کا گھوڑا تیار ہے۔

منگیرہ نے کہا: "میں ابھی آتا ہوں۔"

سپاہی کمرے سے نکل گیا۔ منگیرہ شمع کی روشنی میں اپنے بیٹے کے بستر کے قریب کھڑا ہو کر کچھ دیر اُس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اُس نے جھک کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ بدر نے اچانک ایک جھبر تھبری لی اور ایک ہلکی سی چیخ کے بعد آنکھیں کھول دیں۔ "میں کہاں ہوں؟" اُس نے سہمی ہوئی آواز میں سوال کیا اور پھر "ابا جان" کہہ کر منگیرہ کے ساتھ لپٹ گیا۔

"ابا جان! ابا جان! میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔"

"بیٹا کیا ہوا؟" منگیرہ نے اُسے اپنے سینے کے ساتھ بھینچتے ہوئے پوچھا۔

"ابا جان! میں نے بہت بُرا خواب دیکھا ہے۔ کئی بھڑیے میرا اور آپ کا تعاقب

کر رہے تھے۔ آپ مجھے رہ گئے۔ انہوں نے آپ کو پکڑ لیا۔ میں آپ کی مدد کے لئے لوٹنا چاہتا تھا لیکن آپ یہ کہہ رہے تھے: "بدر! تم بھاگ جاؤ۔ تم بھاگ جاؤ۔" ابا جان! اگر

آپ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔"

"نہیں بیٹا! منگیرہ نے منہ موم بچے میں جواب دیا۔

بدر نے کہا: "ابا جان! آپ نے پچھلے سال وعدہ کیا تھا کہ جب آپ غرناطہ جائیں

گے تو مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔"

"لیکن بیٹا! میں غرناطہ نہیں جا رہا، طلیطلہ جا رہا ہوں اور وہاں تمہیں میرے ساتھ

کئی خطرات پیش آسکتے ہیں۔"

"ابا جان! میں بزدل نہیں ہوں۔"

"بیٹا! اگر میدان جنگ میں جانا ہوتا تو میں یقیناً تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا۔ لیکن

طلیطلہ میں میرا تنہا جانا ہی مناسب ہے۔"

"لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ وہاں تنہا نہیں جائیں گے۔"

”وہ کیسے؟“

”میرا خواب۔ آبا جان آپ خود کہا کرتے ہیں کہ میرے خواب جھوٹے نہیں ہوتے۔“
مغیرہ نے کچھ سوچ کر کہا۔ ”تم اپنے خواب کی یہ تعبیر کیوں نہیں کرتے کہ اگر تم میرے ساتھ
گئے تو ہمیں بھڑیلوں سے پالا پڑے گا۔“

بدر نے کچھ سوچ کر کہا۔ ”آبا جان! آپ کب واپس آئیں گے؟“

مغیرہ نے جواب دیا۔ ”میں لگے مہینے کا چاند نکلنے سے پہلے آجاؤں گا۔ لیکن اگر مجھے
کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو میرے بیچھے نہ بھاگنا۔ میری غیر حاضری میں تم اس جنگل کے نگہبان
ہو گے۔ میں اپنے ساتھ یہ اطمینان لے کر جا رہا ہوں کہ تم اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کرو گے۔
اگر تم نے میرا پچھا کیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے میری حکم عدولی کی ہے۔“

(۵)

ایک مہینہ گزر گیا مغیرہ واپس نہ آیا۔ چونکہ ایسے سفر میں بعض اوقات اس کا ہفتوں
کا پروگرام مہینوں میں تبدیل ہو جاتا کرتا تھا۔ اس لئے اس کے ساتھیوں کو تشویش نہ ہوتی۔
لیکن بدر کی پریشانی میں آئے دن اضافہ ہوتا گیا۔ اُس نے مجلس شوریٰ کے سامنے طلبہ
میں ایک ہوشیار جاسوس بھیجنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے یہ کہا کہ جاسوس بھیجنے سے
پہلے ہمارے لئے اس شخص کے متعلق جاننا ضروری ہے جس کی دعوت پر وہ وہاں گئے ہیں۔
بدر نے ایک الماری میں کاغذات کے انبار سے وہ مراسلہ تلاش کیا جس میں اُس کے والد
کو طلبہ آنے کی دعوت دی گئی تھی لیکن اس میں مراسلہ نگار نے اپنا نام چھپانے کی بہت
سی وجوہات پیش کرنے کے بعد یہ لکھا تھا۔ ”اگر آپ اپنے حافظہ پر زور دیں تو آپ سمجھ جائیں
گے کہ میں کون ہوں۔ آپ سے میری ملاقات اشبیلیہ کے قریب ایک ہرنے میں ہوئی تھی۔
انسوس کہ گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے آپ نے مجھ پر اپنا نام ظاہر نہ کیا اور مجھے باتیں

کرنے کا موقع نہ ملا ورنہ شاید یہ ثابت کر سکتا کہ ہمارے مقاصد مختلف نہیں۔ پیشتر اس کے کہ میں آپ سے کوئی بات کر سکتا۔ آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ میں نے آپ کا چھپا اس لئے نہ کیا کہ آپ کے دل میں میرے متعلق شکوک پیدا نہ ہو جائیں۔ اگر آپ طلیطلہ آئیں تو مجھے تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شہر کے مشرقی دروازے سے باہر ایک سرائے ہے۔ سرائے کا مالک ایک پستہ قد آدمی ہے جس کے نچلے جڑے کے دو دانت ٹوٹے ہوئے ہیں آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ اپنے ایک گنم دوست سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کو میرے پاس پہنچا دے گا۔ پیشتر اس کے کہ آپ مجھ سے ملیں آپ کسی مقام پر اپنا نام یا مقصد ظاہر نہ کریں۔

یہ خط تسلی بخش بھی تھا اور تشویش انگیز بھی۔ تاہم بدد کے ساتھیوں نے ایک ہوشیار جاسوس کو طلیطلہ بھیج دیا۔ لیکن اس کی واپسی سے قبل قرطبہ کی خفیہ جماعت کا ایک ایلچی آیا۔ اور اس نے یہ المناک خبر سنا لی کہ مغیرہ کو طلیطلہ کے ایک چوراہے میں پھانسی دے دی گئی ہے اور قرطبہ کی خفیہ جماعت کو اس حادثہ کی خبر طلیطلہ سے آنے والے چند تاجروں کی زبانی معلوم ہوئی ہے۔

چند دن کے بعد بدر کے جاسوس نے بھی واپس آکر اس خبر کی تصدیق کی۔ بدر اور اس کے ساتھیوں کے استفسار پر اس نے بتایا کہ وہ اس شخص کا پتہ نہیں لگا سکا جس نے مغیرہ کو طلیطلہ آنے کی دعوت دی تھی۔ جاسوس نے انہیں بتایا کہ میں نے رات کے وقت سرائے کے مالک کے سینے پر خنجر رکھ کر اسے سچ بتانے پر مجبور کیا تو اس نے بتایا کہ وہ شہر کے کو تو ال کی طرف سے اس کام پر مامور تھا۔ جاسوس کی باتوں سے بدر اور اس کے ساتھی اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ غدار جس نے مغیرہ کو طلیطلہ آنے کی دعوت دی تھی، شہر کے کو تو ال یا گورنر کا آلہ کار تھا اور سرائے کے مالک کو جنگلی کاشیر بچڑنے کے لئے بھینٹ کے طور پر استعمال کیا تھا۔

آہستہ آہستہ مغیرہ کے قتل کی خبر تمام اندلس میں مشہور ہو گئی۔ دُور دراز کے شہروں کی خفیہ جماعتوں پر اس خبر سے ایک بایوسی چھا گئی۔ غرناطہ کے عوام نے بھی یہ محسوس کیا کہ ان کا ایک مضبوط بازو ٹوٹ گیا ہے۔ تاہم جنگل کے مجاہدین کو مغیرہ کے کمسن لکین ہونہا بیٹے کی صلاحیتوں پر پورا پورا اعتماد تھا اور اس نے چند ہی دنوں میں اپنے آپ کو اس اعتماد کا اہل ثابت کر دکھایا۔

ایک دن سرحد کے عیسائی گورنر نے ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ بدر چھپے ہٹا ہوا انہیں پہاڑی علاقے کی ان دشوار گزار گھاٹیوں میں لے آیا جہاں اس کا ایک ایک تیرانداز دشمن کے سوسو سپاہیوں پر بھاری تھا۔ عیسائی پہاڑوں میں آدھی سے زیادہ فوج ضائع کرنے کے بعد جنگل کی طرف ہٹنے لگے۔ جنگل میں بدر کے تیرانداز پہاڑوں کی نسبت کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوئے اور نصرانیوں نے جلد ہی یہ محسوس کیا کہ وہ آگ سے نکل کر آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر پہنچ گئے۔ گھنے درختوں میں چھپے ہوئے سپاہیوں کے تیروں کے سامنے ان کی کوئی پیشی نہ گئی اور وہ چھ ہزار کی فوج میں سے صرف پندرہ سو سپاہیوں کے ساتھ سپاہ ہٹے۔ نصرانی سپہ سالار تیروں کی بوچھاڑ میں اپنی بچی بچی جمعیت کے ساتھ راہ سردار اختیار کر رہا تھا کہ ایک درخت پر سے بدر کے کسی سپاہی نے اس کے گھوڑے پر چھلانگ لگا دی اور دونوں لڑھکے ہوئے زمین پر آ رہے۔

نصرانیوں نے اپنے سپہ سالار کو ایک بار گرتا دیکھ کر دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی حرات نہ کی۔ وہ بدحواس ہو کر منتشر صورت میں ادھر ادھر بھاگ نکلے لیکن اپنی سرحد کے قریب پہنچ کر انہیں ایک اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔

بدر کے سواروں نے ان کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ ان کے پیچھے تیروں کی بارش اور سامنے چمکتے ہوئے نیزوں کی دیوار تھی۔ صرف بائیں طرف ایک ڈھلوان تھی جس پر انہیں بظاہر کوئی رکاوٹ نظر نہ آئی۔ جو لوگ تیروں اور نیزوں سے بچ نکلے انہوں نے

اپنے گھوڑے سے اس طرف موڑ دئے۔ لیکن کوئی آدھ میل بھاگنے کے بعد ان کے سامنے ایک گہری کھڈ تھی۔ چاروں طرف سے مایوس ہو کر ان میں سے کوئی دو سو آدمی گھوڑوں سے کود کر کھڈ میں اتر پڑے اور دوسروں نے اپنی تلواریں پھینک دیں۔

بدر بن مغیرہ نے چند سپاہیوں کو کھڈ میں اترنے والوں کا تعاقب کرنے کا حکم دیا اور ایک دستہ اسیروں کی نگرانی پر متعین کر دیا۔

(۶)

یہ معرکہ آفتاب کی پہلی شعلے کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ اور سہ پہر کے قریب بدر کے دو ہزار سپاہی عیسائی فوج کے زخمیوں اور قیدیوں کے لباس پہن کر اور انہی کے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک بڑی مہم کے لئے تیار ہو چکے تھے۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر قبل سرحد پر فریڈینڈ کی مملکت کے ایک اہم شہر کے باشندے اپنے فاتح جرنیل کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے جب شہر کی سرخی پر شام کی سیاہی غالب آرہی تھی دروازے کے بوج سے ایک سپاہی نے بلند آواز میں کہا۔ "وہ آگئے، کاؤنٹ سینٹ یاگوزندہ باد۔"

"کاؤنٹ سینٹ یاگوزندہ باد! چاروں طرف سے صدا میں بلند ہوئیں۔ گرجوں کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ عورتیں اور مرد ہزاروں کی تعداد میں شہر کے دروازے سے باہر جمع ہو گئے۔ شہر کا ہشپ ان کے درمیان پھولوں کے ہار لٹے کھڑا تھا۔ جوں جوں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز قریب آرہی تھی خوشی کے نعرے بلند کرنے والوں کا جوش و خروش بڑھ رہا تھا۔

اچانک گرد کے بادلوں میں سے ایک سوار جس کی سفید قابا ہوا میں بہر رہی تھی، نمودار ہوا۔ اُس نے شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور پیچھے دیکھنے لگا۔ اُن کی آن میں دو ہزار سوار دروازے پر جمع ہو گئے۔ اہل شہر پر قہوڑی دیر کے لئے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں سمٹ کر ادھر ادھر ہٹ گئے۔ سفید پوش سوار نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فضا

میں "اللہ اکبر" کی صدائیں گونجنے لگیں۔ شہر کے بٹپ نے کانوں پر اعتبار نہ کرتے ہوئے سفید پوش سوار کے پرچم کو غور سے دیکھا۔ اس پر صلیب کی بجائے ہلال کا نشان تھا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پھولوں کا بار گر پڑا۔

سننے والے اللہ اکبر کے نعرے سن رہے تھے۔ دیکھنے والے حملہ آوروں کے رہنما کے ہاتھ میں ہلالی پرچم لہراتا ہوا دیکھ رہے تھے لیکن پشیر اس کے کہ وہ اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر اعتبار کر کے حرکت میں آتے، بدر بن مغیرہ کے دو ہزار جانباز کھلے دروازے سے شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب سینٹ کاؤنٹ یاگو کے چند سپاہی جو جان بچا کر جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے شہر کے قریب پہنچے تو انہیں بھاگتے ہوئے تھریوں کی زبانی معلوم ہوا کہ شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔

آدھی رات سے قبل بدر بن مغیرہ مال غنیمت میں سونے چاندی کے علاوہ سامان رسد اور مویشیوں کی خاصی تعداد حاصل کر کے شہر سے نکل چکا تھا۔

غنیمت کا مال پانچ سو سواروں کے سپرد کر کے اُس نے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے شہروں اور بستیوں کا رخ کیا۔

اگلی صبح جب اس کے تھکے ہوئے سپاہی جنگل میں اپنی قیام گاہ کی طرف واپس ہوئے تو ان کے آگے آگے مویشیوں کے زویڑ اور مال غنیمت سے لدے ہوئے گدھے اور خچر تھے۔ حملہ سے ایک رات قبل یہ بات سینٹ یاگو کے تصور میں بھی نہ تھی کہ اُسے اگلی رات ان لوگوں کی قید میں گزارنی پڑے گی جن کے متعلق ان کے چھ ہزار جانباز مریم مقدس کے بت کے سامنے یہ حلف اٹھا چکے تھے کہ وہ ان کے آخری آدمی تک کو موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔

اُسے اپنے دشمن سے شدید مزاحمت کی توقع تھی لیکن مغیرہ کی موت کے بعد اسے یہ امید نہ تھی کہ وہ اس درجہ ہوشیار کے ساتھ اس غیر متوقع حملہ کا مقابلہ کریں گے۔ اس نے

دوران جنگ میں ایک سفید پوش سوار بجلی کی تیزی کے ساتھ جنگل کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھوڑا بھگاتے اور اپنی فوج کے پیادہ سپاہیوں اور سواروں پر ایات دیکھتے دیکھا۔ تو اپنے دل میں کہا کہ ان کا نیارا ہنما مغیرہ سے کم خطرناک نہیں۔

اس نے ساری رات انتہائی بے چینی کی حالت میں کروٹیں بدلتے گزاری۔ وہ کھانا جو بدر کے آدمیوں نے اُسے پیش کیا تھا ابھی تک ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ پھرے دار اس کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے اُس کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئے اور جب کوئی اُس کی دلجوئی کے لئے زبان سے کوئی فقرہ نکالتا تو وہ بے اختیار یہ پوچھ بیٹھتا۔ "عقاب کون تھا، اب وہ کہاں ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مریم مقدس کی قسم، وہ انسان نہیں۔" کبھی کبھی وہ غصے کی حالت میں چلا اٹھتا۔ "اب میں واپس جا کر کیا منہ دکھاؤں گا۔ تم مجھے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟"

چونکہ قید ہوتے وقت اس نے اپنی عزت کی قسم کھا کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا اس لئے بدر کے سپاہیوں نے اُسے عام قیدیوں کی طرح بیڑیاں نہ پہنائیں، نہ اُسے غیر مسلح کیا گیا۔ تاہم جب اُس نے اپنا خنجر نکال کر اپنے سینے میں مارنے کی کوشش کی تو ایک سپاہی نے اُس کے ہاتھ پکڑ لئے اور اُس کی چیخ بیکار پر چند سپاہیوں نے اُسے زبردستی غیر مسلح کر دیا۔ بدر کے نائب نے اس کی حفاظت کے لئے دو پہرے دار مقرر کرتے ہوئے کہا۔

مجب تک ہمارا امیر واپس نہیں آتا ان کی جان کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔"

اگلے دن دو پہر سے کچھ دیر قبل بدر کی واپسی پر جنگل کی خاموش فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔

کاؤنٹ سینٹ یاگو ساری رات بے آرامی سے کاٹنے کے بعد اپنے خیمے سے باہر نکل کر ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں سرسبز گھاس پر لیٹ کر گرمی نیند سوراہا تھا۔ لوگوں کے نعرے سن کر وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا۔ بدر بن مغیرہ زردہ کے اوپر سفید قبا پہنے اور آنکھوں کے سوا اپنا

چہرہ سیاہ نقاب میں چھپاٹے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی سفید تبا پر جگہ جگہ خون کے نشان تھے۔ سینٹ یاگونی نے اپنے نقاب پوش حریف کو چند بار سر سے ملے کر پاؤں تک دیکھنے کے بعد کہا۔ "کاش! میرے ہاتھ تمہارے چہرے کے نقاب تک پہنچ سکتے اور میں یہ دیکھ سکتا کہ مجھے اپنی زندگی میں بدترین شکست دینے والا کون ہے؟"

بدر نے جواب دیا: "ایک سپاہی کو فتح اور شکست سے بے نیاز ہونا چاہیے۔" یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ "مجھے تم سے ان سے بہتر سلوک کی توقع تھی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی قسم کا احترام کیوں نہیں کیا گیا، اور ان کے ہتھیار کیوں چھینے گئے ہیں؟"

بدر کے ایک نائب نے آگے بڑھ کر جواب دیا: "ہم انہیں ہتھیار کے غلط استعمال سے روکنا چاہتے تھے۔ خود کشی ایک بہادر کی شان کے شایاں نہ تھی۔"

بدر نے کہا: "ان کا گھوڑا اور ان کے ہتھیار انہیں واپس دے دو۔ باقی سپاہیوں کی زنجیریں کھول دو اور ان سب کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر سرحد کے پار پہنچا دو۔" سینٹ یاگونی پریشان سا ہو کر سوال کیا: "کیا آپ کے سپاہیوں سے ہم یہ توقع رکھیں کہ ہمیں سرحد کے پار پہنچا کر ہم پر پیچھے سے تیروں کی بارش نہیں کی جائے گی؟" بدر نے قدرے ترش لہجے میں جواب دیا: "نہیں یہ صرف آپ لوگوں کا شیوہ ہے۔"

بدر کے نائب نے آگے بڑھ کر آہستہ سے کہا: "لیکن میں انہیں فدیہ لئے بغیر پھوڑنے کی وجہ نہیں سمجھ سکتا۔"

"تمہارے خیال میں فدیہ کیا ہو سکتا ہے؟"

"کم از کم پچاس ہزار۔"

"ہم اس سے سو گنا زیادہ وصول کر چکے ہیں۔ جاؤ انہیں سرحد کے پار پہنچا دو جب

چند برس بعد اُن کے خالی خزانے دوبارہ پُر ہو جائیں گے ہم انہیں دوبارہ یہاں تشریف لانے کی دعوت دیں گے۔ اب مجھے اور میرے ساتھیوں کو آرام کی ضرورت ہے۔
بدار یہ کہہ کر قلعے کی طرف چل دیا۔

(۷)

اس فتح کے بعد بدر بن مغیرہ کو سینٹ یاگو کا دیا ہوا نام "سرحدی عقاب" آہستہ آہستہ زبان زدِ عام ہونے لگا۔ اس نام کے ساتھ شجاعت کے سینکڑوں افسانے منسوب ہونے لگے۔ نصرانی توہم پرست یہ کہتے تھے کہ سرحدی عقاب کوئی مافوق الفطرت انسان ہے جسے بیک وقت باغیوں کے جنگل اور اس کے کئی کوس دور نصرانیوں کی بستیوں اور شہروں میں لڑتے دیکھا گیا تھا۔ فرڈیننڈ کی مملکت سے اُس کی شہرت کی داستانیں غرناطہ تک جا پہنچیں۔ علما نے اُسے اسلام کا غازی کہا۔ شعراء نے عالی نسب شہزادیوں کے ساتھ اس کے عشق و محبت کے فرضی افسانے قلم بند کئے۔ ادیبوں نے اپنی کتابوں میں اس کی صورت اور سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔

دور دراز کے چرواہے اور کسان بھی جب دن بھر کی محنت کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہوتے تو وہ ایسی باتیں مشہور کر کے کہ انہوں نے سرحدی عقاب کو فلاں وقت فلاں جگہ دیکھا ہے خوش عقیدہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے۔

سینٹ یاگو، فرڈیننڈ کے چند منظور نظر بہادروں میں سے ایک تھا اور اُس کی عبرتناک شہادت کے بعد اُس کے دل میں جنگل کے نئے اور پُر اسرار دشمن کے خلاف فوری اقدام کی خواہش پیدا نہ ہوئی۔ فرڈیننڈ نے سرحد کے پار کوئی نئی فوج بھیجنے سے پہلے اپنے سرحدی مورچوں کو مستحکم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ دو سال کی تیاری کے بعد فرڈیننڈ نے فتح کی توقع سے زیادہ اپنی قوت کے مظاہرے اور لوگوں سے سرحدی عقاب کے متعلق

احساسِ مرعوبیت دُور کرنے کے لئے چند مہینے روانہ کیے لیکن ان حملوں کا انجام سینٹ یاگو کے حملے سے مختلف نہ تھا۔

فرڈی نینڈیہ سمجھ چکا تھا کہ سرحدی عقاب اپنے نشیمن میں بہت خطرناک ہے لیکن اس کے پاس اتنی جمعیت نہیں کہ وہ جنگل سے باہر نکل کر اس کی سلطنت کے کسی علاقے پر قبضہ کر سکے۔ اس لئے اس نے اپنی توجہ غرناطہ کی اس آخری اسلامی سلطنت کو ختم کرنے پر مبذول کر دی جس کے عوام نہ صرف اس کے باجگزار ہو کر رہنے کے خلاف تھے بلکہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کرنے کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔

بد بن مغیرہ ان حالات سے فائدہ اٹھا کر اپنی طاقت کو منظم کر رہا تھا۔ مختلف شہروں کی خفیہ جماعتوں کے لوگوں کو جب آہستہ آہستہ یہ پتہ چلا کہ سرحدی عقاب مغیرہ کے نو عمر بیٹے کے سوا اور کوئی نہیں تو ان میں سے بعض شوقِ جہاد میں اپنا گھر بار چھوڑ کر اُس کے ساتھ آئے۔ قرطبہ کے مہاجرین میں سے بشیر بن حسن جس نے بہت چھوٹی عمر میں فنِ صراحت اور طب میں اپنے خاندان کی پرانی شہرت کو چار چاند لگا دئے تھے اس کے لئے بہت بڑا معاون ثابت ہوا۔

قرطبہ اور اشبیلیہ کے حاکم اُس کے زیرِ علاج رہ چکے تھے۔ قسطلہ کا ولی عہد ایک مرتبہ گھوڑے سے گر کر بُری طرح زخمی ہوا تو فرڈی نینڈی نے اُسے قسطلہ بلا بھیجا۔ ولی عہد کے شفا یاب ہونے پر فرڈی نینڈی اور ملکہ ازابیل نے اُسے شاہی طبیب کا عہدہ قبول کرنے کی دعوت دی لیکن اُس نے یہ پیش کش ٹھکرا دی اور واپس قرطبہ چلا آیا۔ دو سال بعد جب اسے بد بن مغیرہ کا خط ملا تو اُس نے اپنے شاندار محل میں رہنے پر ایک مجاہد کے ساتھ جنگل کی زندگی کو ترجیح دی ۛ

(۸)

الزغل کے ساتھ ملاقات کے دو ماہ بعد غرناطہ کی سرحد کے چند علاقے جو سرحدی عقاب

کے پہاڑ اور جنگل کے ساتھ متصل تھے غرناطہ کے حکمران ابو الحسن نے ایک خفیہ حکم نامے کی رو سے بدر بن مغیرہ کی تحویل میں دے دئے۔ لگان کی وصولی شعبہ عدل اور دوسرے خانگی معاملات کے ساتھ بدر بن مغیرہ نے کوئی تعلق نہ رکھا۔ یہ تمام محکمے اُس نے سرحد کے ظلم کے پاس رہنے دئے اور سرحد کی چوکیوں کا انتظام اور نئے دفاعی مورچوں کی تعمیر کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔

فوج کے چند قابل اعتماد افسروں کے سوا کسی اور کو یہ علم نہ تھا کہ ان کا سالار اعظم ہی نوجوان ہے جسے باقی اندلس کے لوگوں کی طرح غرناطہ کے مسلمان بھی "سرحدی عقاب" یا "شاہین" کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک دن سرحد کے ناظم نے سرحدی سپاہیوں کے سامنے اعلان کیا کہ اس کی درخواست پر سرحدی عقاب نے انہیں چند دن اپنے جنگل میں جنگ کی تربیت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ میں تمہیں دو دو سو کی ٹولیوں میں یکے بعد دیگرے وہاں بھیجوں گا۔ مجھے اُمید ہے تمہارے لئے اس کی تربیت بہت کارآمد ہوگی۔

سپاہیوں کو جنگ کے نئے طریقے سکھانے سے زیادہ جنگل کے شاہین کو دیکھنے کی خوشی تھی۔ جنگل میں بدر بن مغیرہ کا نائب منصور بن احمد سرحدی عقاب کے بھیس میں ان کا استقبال کرتا اور انہیں چند دن جنگ اور پہاڑ کی جنگ کے نئے طریقے سمجھانے کے بعد واپس بھیج دیتا۔

غرناطہ کی سرحد کی مورچہ بندیوں کے متعلق فرڈیننڈ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تو ابو الحسن نے اُسے کہلا بھیجا کہ یہ تمام انتظامات سرحدی عقاب کے حملے سے بچنے کے لئے کئے جا رہے ہیں۔ ابو الحسن کے اس جواب کے علاوہ فرڈیننڈ کے اطمینان کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس سرحد سے اس کی مملکت کے شہروں کی طرف جانے والی شاہراہوں پر آمدورفت کی معمولی پابندیوں میں کوئی نیا اضافہ نہیں ہوا تھا۔ قرطبہ، قسطلہ اور دوسرے شہروں کے تاجر حسب سابق فرڈیننڈ کے حکام کا پروانہ راہداری دکھانے پر اس سے اس سرحد کو عبور کر کے غرناطہ کے شہروں میں جا سکتے تھے۔

بیت فروش

(۱)

رات کے وقت قسطلہ کے شاہی محل کے ایک کمرے میں ملکہ ازا بیلا اور شاہ فردی نیند
ازنگار کرسیوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے چہروں پر گہرے
تفکر کے آثار تھے۔

ملکہ نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا: "آپ اتنے
پریشان کیوں ہیں۔ میرے خیال میں غرناطہ کا خراج اتنی بڑی رقم نہیں جس کے لئے آپ
اس قدر فکر مند ہوں۔"

بادشاہ نے جواب دیا: "ملکہ! میں خراج کے لئے پریشان نہیں۔ جتنی رقم مجھے ابو الحسن
بطور خراج ادا کرتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ مجھے سرحدی چوکیوں پر خرچ کرنا پڑتی ہے لیکن
میں محسوس کرتا ہوں کہ ابو الحسن کا خراج دینے سے انکار اس بات کا ثبوت ہے کہ اُسے اپنی
قوت پر بھروسہ ہے۔ یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ آج غرناطہ کے تخت کا دوسرا دعویٰ دار نہیں،
اب تک ہماری کامیابیوں کی ضامن ہماری تلوار سے زیادہ مسلمانوں کی آپس کی پھوٹ تھی۔"

ملکہ نے کہا: "اگر غرناطہ کے مسلمان متفق ہو گئے ہوں تو بھی مجھے یہ اُمید نہیں کہ وہ ہمارے خلاف سر اٹھائیں گے۔ انہیں قرطبہ، طلیطلہ اور اشبیلیہ کے باغیوں کا انجام بھولا نہیں ہوگا۔"

بادشاہ نے کہا: "ملکہ تم اس زلمے کی باتیں کر رہی ہو جب ہسپانوی، بربری اور عربی نسل مسلمان آپس میں برسرِ پیکر تھے۔ ہمارے اسلاف نے اپنی قوت سے زیادہ ان کے انتشار سے فائدہ اٹھایا تھا اور اسپین کے تین حصوں پر قابض ہو گئے تھے۔ ورنہ میں یہ طے کرنے کے لئے تیار نہیں کہ اگر ہماری طرح وہ بھی ایک ہو جاتے تو ہم ان کے مقابلے میں فتح حاصل کر سکتے تھے۔"

ملکہ نے جواب دیا: "یہ مریم مقدس کی نظر عنایت تھی کہ وہ آپس میں بٹ گئے۔"

"کاش مریم مقدس کی نظر عنایت سے قرطبہ اور طلیطلہ کی طرح غرناطہ کے مسلمان بھی آپس میں بٹے رہیں، ورنہ میں جانتا ہوں کہ ان کا اتحاد بڑے سے بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا کرتا ہے۔ یہ منتشر ہوں تو ہوا کے معمولی جھونکوں کے سامنے ریت کے انبار ثابت ہوتے ہیں اور اگر متحد ہو جائیں تو بڑے سے بڑے طوفانوں کے لئے ایک ناقابلِ تسخیر چٹان ثابت ہوتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ غرناطہ کے چند علماء انہیں اسلام کے نام پر اُبھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو میں ابوالحسن کے ان الفاظ کو ایک کھلی دھمکی نہیں سمجھتا کہ اب ہمارے دارالضرب میں خراج کے لئے سونے اور چاندی کے سکوتوں کی بجائے فولاد کی تلواریں بنتی ہیں۔ ملکہ سچ یہ ہے کہ مجھے اپنی فوج کی بجائے اس بات پر بھروسہ تھا کہ میں اہل غرناطہ کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاؤں گا۔"

"لیکن اگر غرناطہ میں خانہ جنگی کے امکانات نہ ہوں تو بھی ہمیں اپنی فوجی قوت کے استعمال سے پس و پیش نہیں کرنا چاہیے۔ میں دشمن کو تیاری کا موقع دینے کی قابل نہیں۔"

"میں بھی یہی سوچ رہا ہوں لیکن کاؤنٹ سینٹ یاگو کی حماقت سے ہمارے سپاہیوں کی شہرت کو جو دھتکہ لگا تھا ہم اُسے آج تک نہیں دھو سکے۔"

ملکہ نے کہا۔ "کیا سرحدی معتاب کو ایک خود مختار حکمران تسلیم کر کے ہم اس کے ساتھ غرناطہ کے خلاف کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے۔"

"نہیں بلکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر ابوالحسن نے ہمارے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تو وہ بلا تامل اس کا ساتھ دے گا۔"

ایک فوجی افسر کمرے میں داخل ہوا اور جھک کر سلام کرنے کے بعد بولا۔ "ابو داؤد حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔"

فریڈیننڈ نے برہم ہو کر کہا۔ "ہم نے حکم دیا تھا کہ اُسے فوراً ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔" فوجی افسر الفاظ سے زیادہ آواز سے مرعوب ہو کر جلدی سے سلام کرنے کے بعد باہر نکل گیا۔

ملکہ نے کہا۔ "کیا آپ کو یہ بھروسہ ہے کہ ابو داؤد غرناطہ جا کر بھی ہمارا وفادار رہے گا؟" بادشاہ نے جواب دیا۔ "مغیرہ کو پکڑوانے کے بعد وہ ہمیشہ کے لئے ہمارا اعتماد حاصل کر چکا ہے۔"

"لیکن غرناطہ کے ایوان شاہی تک اس کی رسائی شاید اس قدر آسان نہ ہو۔"

(۲)

ابو داؤد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر پینتالیس یا پچاس سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ شکل و صورت سے اور رنگہم سے وہ عربی اور ہسپانوی نسل سے مخلوط معلوم ہوتا تھا۔ اس کی دارطھی ادھی سے زیادہ سفید ہو چکی تھی لیکن اس کے چہرے پر نوجوانوں کی سی تازگی تھی۔ وہ سیاہ جتیہ اور سفید عمار پہنے ہوئے تھا۔

ابو داؤد نے آگے بڑھ کر پہلے بادشاہ اور پھر ملکہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور دو تین قدم پیچھے ہٹ کر ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔

بادشاہ نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: "بیٹھ جاؤ۔"
 ابو داؤد نے جھکتے ہوئے کہا: "غلام کو حکم عدولی کی جرأت نہیں لیکن یہ ضرور عرض کروں گا
 کہ اپنے بادشاہ اور ملکہ کے سامنے کھڑا ہونا بھی میرے لئے بہت بڑی عزت ہے۔"
 فرڈیننڈ نے مسکراتے ہوئے کہا: "بادشاہ اور ملکہ تمہیں بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں۔"
 "غلام کو سر تابی کی مجال نہیں۔" یہ کہہ کر ابو داؤد کرسی پر بیٹھ گیا۔

فرڈیننڈ نے کہا: "ابو داؤد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قدرت کے اشارات تم پر ہمارے مقدس
 راہبوں سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم تمہاری ذہانت کا ایک اور امتحان لینا چاہتے ہیں۔
 بتاؤ وہ مشکل جو آج ہمیں درپیش ہے، کیا ہے؟"

ابو داؤد نے جواب دیا: "اگر غلام اپنے آقا کے سامنے اپنی معمولی عقل و دانش کا مظاہرہ
 کرے تو یہ بھی ایک گستاخی ہوگی۔ بہر حال حضور کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ شاید شہنشاہ
 والا تبار کی یہ خواہش ہے کہ ان کا یہ ادنیٰ غلام غرناطہ جائے۔"

فرڈیننڈ نے کہا: "اگر تم ایک راہب کا لباس پہن کر ہمیں یہ جواب دیتے تو ہم اسے
 تمہاری روحانیت کا کرشمہ سمجھتے لیکن ہم جانتے ہیں کہ تم اپنی عقل سے زیادہ کسی چیز کے
 قائل نہیں۔ بتاؤ تم نے یہ اندازہ کیسے لگایا کہ تمہیں ہم غرناطہ بھیجنا چاہتے ہیں۔"

"غلام کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ابوالحسن نے خراج دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے
 بعد غلام کو یہ معلوم ہوا کہ شہنشاہ والا تبار نے امرار کا ایک اجلاس طلب کیا ہے۔ امرار کا
 یہ اجلاس برخاست ہونے سے تھوڑی دیر بعد حضور کا ایلچی میرے پاس پہنچا۔ میرے لئے یہ
 سمجھنا مشکل نہ تھا کہ ایسے حالات میں مجھ سے کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ
 اگر ابوالحسن کے خلاف مجھے آپ کہے، مورچے پر بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ صرف غرناطہ، مو
 سکتا ہے۔"

"تو تم نے یہ بھی سوچ لیا ہوگا کہ اس مورچے پر تمہیں کیا کرنا ہے؟"

”ہاں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ غرناطہ میں انتشار برپا کرنے کے لئے تخت کا دوسرا عمود پیدا کرنا ضروری ہے اور حضور کا اعلام غرناطہ جا کر ہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ دوسرا عمود کون ہو سکتا ہے۔“

”الزغل کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟“

الزغل کے متعلق میری یہ رائے ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے بھائی کا ساتھ دے گا۔

لیکن۔۔۔۔۔“

”لیکن کیا؟“

میں وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا بعض اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ ابوالحسن کے ایک بیٹے سے کام لیا جا سکتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ابوعبداللہ کو یہ خدشہ ہے کہ اس کا باپ اُس کے سوتیلے بھائی کو ولی عہد بنائے گا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ابوالحسن اپنی نصرانی بیوی کو زیادہ چاہتا ہے۔“

فرطہ نے مسرت سے اچھلتے ہوئے کہا: ”تو پھر تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو۔ اگر ابوعبداللہ کو خدشہ ہے تو تم اُس کا خدشہ یقین میں تبدیل کر سکتے ہو تو کل ہی روانہ ہو جاؤ۔“ ابوداؤد نے کہا: ”میں تیار ہوں لیکن میرے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ میں بال بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے شاید اس وقت تک غرناطہ میں ٹھہرنا پڑے گا، جب تک کہ میں آپ کی افواج کے لئے شہر کے تمام دروازے نہیں کھول دیتا۔ وہاں مجھ پر معمولی شبہ میرے ارادوں کو خاک میں ملادے گا۔ اس لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایک پناہ گزیں ثابت کر کے سرحد عبور کروں۔ غرناطہ پہنچ کر مجھ سے زیادہ میری بیوی اور میری لڑکیاں آپ کی حکومت کے مظالم کی داستانیں بیان کریں، تاکہ ہم پر کوئی شک نہ کرے۔ بیوی کو میں اس لئے بھی لے جانا چاہتا ہوں کہ اُس کی وساطت سے ابوالحسن کے حرم تک میری رسائی آسان ہو جائے گی۔“

فرڈیننڈ نے کہا۔ ابو داؤد تم یقین رکھو کہ تمہاری خدمات فراموش نہیں کی جائیں گی۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تم غرناطہ میں ہمارے پہلے گورنر ہو گے اور جب تک اندلس کا تخت ہمارے خاندان کے قبضہ میں رہے گا غرناطہ کی گورنری تمہارے خاندان کے قبضہ میں رہے گی۔ اگر چاہو تو میں تحریر دینے کے لئے تیار ہوں۔“

”خادم کے لئے حضور کی زبان تحریر سے کم نہیں۔“

”بہت اچھا تم علی الصباح مجھ سے ملو۔ غرناطہ کی مہم کے لئے تمہاری تمام ضروریات شاہی خزانے سے مہیا کی جائیں گی۔“

(۳)

بارش زوروں پر تھی۔ چار گھوڑوں کی ایک بگھی کچھڑ سے لت پت فرڈیننڈ کی مملکت کے ایک سرحدی قلعے کے دروازے پر آکر رکی۔ قلعے کے محافظ جو دروازے پر انتظار کر رہے تھے بھاگے ہوئے باہر نکلے اور بگھی کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک نوجوان نے جو ان کا افسر معلوم ہوتا تھا آگے بڑھ کر بگھی کا دروازہ کھولا اور اندر جھانکنے کے بعد ادب سے سلام کرتے ہوئے کہا۔ ”مجھے آپ کے متعلق گورنر کی ہدایات موصول ہو چکی ہیں۔ آپ کے لئے تازہ دم گھوڑے تیار ہیں لیکن بارش کے اس طوفان میں بگھی کا سفر شاید آپ کے لئے تکلیف دہ ہو۔ اس لئے اگر آپ مناسب سمجھیں تو کم از کم بارش بند ہونے اور پہاڑی ندی نالوں کا پانی اترنے تک یہاں قیام فرمائیں۔ آپ کا کھانا تیار ہے۔“

ابو داؤد نے باہر جھانکتے ہوئے جواب دیا۔ ”میرے سفر کے لئے یہ موسم بہترین ہے، ہم یہاں سے کھانا کھاتے ہی چل پڑیں گے۔ میں تمہیں اپنے سفر کے سلسلہ میں چند ہدایات بھی دینا چاہتا ہوں۔“

”ہم دل و جان سے آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ آئیے۔“

ابوداؤد کے ساتھ اس کی بیوی اور دو نوجوان لڑکیاں نگھی سے اتریں۔ ایک لڑکی جس کا نام اینجلا تھا، دوسری لڑکی سے عمر میں دو تین برس چھوٹی معلوم ہوتی تھی۔ اس کا گول چہرہ، نیلی آنکھیں اور سنہرے بال بالکل اپنی ماں کی طرح تھے۔ اس کے خدو خال میں بھی اس کی ماں کے گزرے ہوئے شباب کا عکس نظر آتا تھا۔

دوسری لڑکی کا نام ربیعہ تھا۔ وہ اینجلا کی سوتیلی بہن تھی۔

ربیعہ کی سیاہ اور چمک دار آنکھیں اپنی سوتیلی ماں اور بہن دونوں سے مختلف تھیں۔ وہ قد میں بھی ان دونوں سے قدرے لمبی تھی۔ اس کے چہرے کی سفیدی میں ہلکی سی سُرخی دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مصوٰرِ فطرت نے دودھ اور شہد گھول کر اس میں تھوڑا سا گلابی رنگ ملا دیا ہے۔ چہرے کے خدو خال میں سنجیدگی اور شوخی کے امتزاج نے اُسے نسوانی حسن اور وقار کی ایک بہترین تصویر بنا دیا تھا۔

ربیعہ اور اینجلا کی شکلوں میں ایک معمولی سی مشابہت تھی۔ ایسی مشابہت جسے محسوس کیا جاسکتا ہے لیکن بیان نہیں کیا جاسکتا ہے۔ دونوں لڑکیاں حسین تھیں۔ اینجلا کا حسن اگر لالہ صحرا کا تمقہ تھا تو ربیعہ کی سنجیدگی میں ایک نیم وا کلی کی مسکراہٹ تھی۔

فوجی افسر کی راہنمائی میں یہ لوگ قلعے کے ایک کمرے میں داخل ہوئے اور کھانے کی میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھ گئے۔

لوگوں نے پُر تکلف کھانے چاندی کے برتنوں میں لاکر میز پر رکھ دئے۔ ابوداؤد کا اشارہ پا کر فوجی افسر بھی اُن کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران میں ابوداؤد نے اُس سے سوال کیا۔ ”یہاں سے غرناطہ کی پہلی چوکی کتنی دُور ہوگی؟“

افسر نے جواب دیا ”کوئی آٹھ کوس۔ لیکن کوئی تین کوس چلنے کے بعد آپ اُن کی حد میں داخل ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں ان کی چوکی کے افسر کو لکھوں تو وہ سرحد سے

آگے آپ کی حفاظت کا انتظام کر دیں گے۔ لیکن گورنر نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں انہیں کچھ نہ بتاؤں۔

ابو داؤد نے جواب دیا: "گورنر نے میری ہدایت پر عمل کیا ہے۔ میں ان کی حدود میں بادشاہ سلامت کے سفیر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مسلمان پناہ گزین کی حیثیت سے داخل ہونا چاہتا ہوں۔"

میرے خیال میں اگر آپ انہیں یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو یہ نگھی اور یہ سڑک چھوڑ کر پیدل یا گھوڑوں پر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے ورنہ انہیں یہ غلط فہمی نہیں ہوگی کہ اس سڑک پر آپ کی نگھی ہماری نگاہوں سے بچ کر نکل آتی ہے۔"

میرا خیال ہے کہ غرناطہ اور قسطلہ کے تاجران راستوں پر بلا روک ٹوک سفر کرتے ہیں۔ تاہم میں نے جو تجویز سوچی ہے وہ کافی حد تک کامیاب رہے گی۔ تم اپنے بیس سواروں کو تیاری کا حکم دو اور انہیں یہ ہدایت کرو کہ وہ ہماری نگھی کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں اور جب ہم غرناطہ کی سرحد کے قریب پہنچ کر نگھی کی رفتار تیز کر دیں تو وہ یہ ظاہر کریں کہ وہ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ جب غرناطہ کی چوکی کے سپاہی یہ دیکھیں گے کہ عیسائی ہمارا تعاقب کر رہے ہیں تو وہ یقیناً مداخلت کریں گے۔ ہمیں ان کی پناہ مل جائے گی اور تمہارے سپاہی ان کے ساتھ معمولی مل بھینٹ کے بعد لوٹ آئیں گے۔"

"تجویز تو بہت اچھی ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ راستہ بہت خراب ہے اور اس دوڑ میں آپ کی نگھی کو کوئی حادثہ پیش نہ آجائے۔"

ابو داؤد نے جواب دیا: "ایسے معاملات میں معمولی حادثات کا خیال نہیں کیا جاتا۔ اگر کوچران زخمی ہو جائے یا گھوڑے کو ایک آدھ تیر لگ جائے تو یہ بھی معمولی بات ہوگی۔"

"بہت اچھا میں خود اس کام میں سپاہیوں کا ساتھ دوں گا۔"

فوجی افسر کے حکم پر ایک نوکر قلعے کے ایک سپاہی کو بلا لایا۔ افسر نے سپاہی سے کہا "تم

میں سواریوں کو تیار ہونے کا حکم دو ہم ایک مہم پر جا رہے ہیں۔“

اس کے بعد وہ ابو داؤد کی طرف متوجہ ہوا اور بولا ”آپ نے سرحدی عتاب کے متعلق کچھ سنا ہے؟“

ان الفاظ پر ابو داؤد کی بیوی اور اُس کی لڑکیاں چونک کر افسر کی طرف دیکھنے لگیں۔ ابو داؤد نے اطمینان سے جواب دیا۔ ”ہاں میں نے اس کے متعلق بہت کچھ سنا ہے لیکن میرے خیال میں اس کا علاقہ یہاں سے کافی دُور ہے۔“

”اُس کا علاقہ تو کافی دُور ہے لیکن اُس کے ساتھی تین بار ہمارے گھوڑے چھین کر لے گئے ہیں۔“

”کب؟“ اینجلا نے سوال کیا۔

”گذشتہ سال۔ اس سال اس نے ہماری طرف توجہ نہیں کی لیکن پچھلے سال اُس نے ایک ہفتہ کے لئے اس قلعے پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔“

اینجلا نے سوال کیا۔ ”تو تم نے اُسے ضرور دیکھا ہوگا۔ وہ کیسا ہے؟“

”اُس نے ہمارے سامنے چہرے سے نقاب نہیں اتارا لیکن اُس کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ اُس کی عمر زیادہ نہیں۔“

میریا نے سوال کیا۔ ”تو پھر قلعے سے تم نے اُسے کیسے نکالا؟“

”وہ خود چلا گیا تھا۔ اُسے فقط ہمارے فالتو غلے اور گھوڑوں کی ضرورت تھی۔“

اینجلا نے کہا۔ ”میں نے سنا ہے کہ وہ بہت ظالم ہے۔“

افسر نے جواب دیا۔ ”اُس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ظالم نہیں۔ وہ نہتوں

اور بکیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ گیسے ہونے دشمن پر وار نہیں کرتا۔ اس میں شک نہیں

کہ وہ ہماری سلطنت کا بدترین دشمن ہے لیکن وہ ایک شریف دشمن ہے۔“

ابو داؤد نے کہا۔ ”میں تمہاری حق گوئی کی داد دیتا ہوں۔ تمہاری طرح کا ڈپٹ سینٹ یا گو

بھی اس کی شرافت کا مداح ہے۔“

اینجلانے کہا: ”آبا جان! اگر ہمیں راستے میں وہ مل جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں آگے پہنچانے کے لئے اپنے بہترین گھوڑے مہیا کرے گا۔“

ربیعہ نے سوال کیا: ”لوگ اُسے عقاب کیوں کہتے ہیں؟“

افسر نے جواب دیا: ”یہ نام اُسے کاؤنٹ سینٹ یا گونے دیا تھا اور اس کی وجہ یہ ہے

کہ تیزی، تیزی اور ہوشیاری میں وہ عقاب سے کم نہیں۔“

ابوداؤد نے سوال کیا: ”کیا یہ درست ہے کہ وہ مغیرہ کا بیٹا ہے؟“

”اُس کے متعلق لوگوں کی مختلف رائیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ مغیرہ کا بیٹا ہے،

بعض کا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی مراکشی ہے۔“

ابوداؤد نے کہا: ”ہمیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے؟“

قوجی افسر نے سوال کیا: ”کیا بادشاہ سلامت اس پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔“

ابوداؤد نے جواب دیا: ”اس کی قوت اتنی بڑی نہیں کہ بادشاہ سلامت بذاتِ خود

اس پر چڑھائی کا ارادہ کریں۔ اس کے لئے فقط ایک ہوشیار آدمی کی ضرورت ہے جو اس

کے طریقِ جنگ سے واقف ہو۔“

(۴)

بارش اسی طرح زوروں پر تھی۔ کوئی اڑھائی کو س معمولی رفتار سے چلنے کے بعد

ابوداؤد نے کوچوان کو گھسی تیز کرنے کا حکم دیا۔ پیچھے آنے والے سواروں نے اپنے افسر کا

اشارہ پا کر اپنے گھوڑے روک لئے۔ جب گھسی کوئی ایک میل دور نکل گئی تو انہوں نے

سہ پٹ چھوڑ دیا۔

شب میں رطک کے بعض حصے پانی میں غائب ہو رہے تھے اس لئے

کوچوان ابوداؤد کے اصرار کے باوجود کسی حد تک احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ جب بگھی اور تعاقب کرنے والوں میں فاصلہ بہت کم رہ جاتا تو سوار بگھی کو آگے نکل جانے کا موقع دینے کے لئے اپنی رفتار کم کر دیتے۔

سیلاب کے باعث سڑک کئی جگہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ راستے کے پتھروں اور گڑھوں میں بگھی کے ہچکولوں کے باعث ابوداؤد کی بیوی اور اس کی چھوٹی لڑکی اینجلا بڑی شد و مد سے احتجاج کر رہی تھیں۔ خود ابوداؤد کا سر بار بار اپنی بیوی اور لڑکیوں سے ٹکرا چکا تھا لیکن وہ اینجلا کی چیخوں اور اپنی بیوی کے داویلا سے قطعاً بے پروا نظر آتا تھا۔ ایک دفعہ بگھی پانی میں ڈوبی ہوئی سڑک کے کسی پتھر سے ٹکرا کر اچھلی اور حجتی چلاتی میریا کا سر پھٹ سے جا ٹکرایا۔ وہ چلاتی "بگھی کو روکنے کا حکم دو ورنہ میں دروازہ کھول کر پھلانگ لگا دوں گی۔ تم وحشی ہو۔ تم آج میری بچی کی جان لے کر ہو گے۔ میں جانتی ہوں تمہاری نیت ٹھیک نہیں۔ تم غرناطہ پہنچنے سے پہلے ہم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو۔ خدا کے لئے بگھی کو روکو۔"

ایک اور زبردست جھٹکے کے ساتھ ربیعہ اور اینجلا کے سر آپس میں ٹکرا گئے۔ اینجلا نے دہائی مچائی تو ابوداؤد نے کہا: "اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اپنی ماں کی طرح اتنی کم حوصلگی کا ثبوت دو گی تو میں تمہیں اپنے ساتھ نہ لاتا۔ ربیعہ کی طرف دیکھو اس کے منہ سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہ نکلا۔"

ابوداؤد کا یہ کہنا تھا کہ میریا اور اینجلا ربیعہ پر برس پڑیں۔

میریا نے کہا: "ربیعہ کو اپنے ہم مذہب اور ہم قوم لوگوں کے پاس جانے کی خوشی ہے۔" اینجلا چلاتی: "ربیعہ کو یہ بھی یقین ہے کہ حادثہ پیش آنے پر آپ سب سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔"

ربیعہ نے ان کے طعن و تشنیع سے بے پروائی ظاہر کرتے ہوئے کہا: "ابا جان! اینجلا اور امی جان کو کیوں پریشان کرتے ہیں۔ آپ بگھی کو روکنے کا حکم دیں۔"

ابوداؤد نے کہا: "میرا! ذرا ہمت سے کام لو۔ ہم غرناطہ کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان کے آدمی ہمیں اس حالت میں دیکھتے ہی مداخلت کے لئے آئیں گے۔ گھر میں جب میں نے یہ تجویز تمہارے سامنے بیان کی تھی تم خوشی سے اچھل پڑی تھیں۔ اب اتنی سی تکلیف سے گھبرا گئیں۔ انسان کو دنیا میں عزت اور اقدار کے لئے بڑے بڑے خطرناک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔"

میرا نے چلا کر کہا: "عجیب احمق ہو تم، بھلا اس طوفان میں کون تمہاری راہ دیکھ رہا ہوگا۔ وہ بڑے مزے سے اپنی اپنی قیام گاہ میں بیٹھے ہوں گے۔"

ابوداؤد نے کہا: "پھر بھی یہ ضروری ہے کہ کم از کم اُن کی چوکی تک ہم اسی طرح جائیں۔ اس کے بغیر ہم انہیں یہ یقین نہیں دلا سکتے کہ ہم مفور ہیں اور بادشاہ کے سپاہی ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔"

بگھی اب ایک پہاڑی کی بلندی کی طرف نسبتاً ہموار سڑک پر جا رہی تھی اس لئے میرا اور اینجلا کی زبانیں اگرچہ اب بھی چل رہی تھیں لیکن اُن کا جوش و خروش کم ہو رہا تھا۔

کوچوان چلا آیا۔ میں نے ایک سوار دیکھا ہے۔"

"بس اب کام بن گیا وہ ابھی اپنے ساتھیوں کو خبردار کرے گا۔"

یہ کہتے ہوئے ابوداؤد نے بگھی کی کھڑکی سے سر نکال کر پیچھے کی طرف جھانکا اور پیچھے آنے والے سواروں کو ہاتھ کا اشارہ دیا۔ ساتھ ہی اُس نے کوچوان کو بگھی زیادہ تیز کرنے کی ہدایت کی۔

تھوڑی دیر بعد جب بگھی پہاڑی سے نیچے اتر رہی تھی، کوچوان بلند آواز میں چلا آیا۔

"وادی کے نشیب میں پانی زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ سڑک کا کوئی نشان تک نظر نہیں آتا۔ بگھی کو اندھا دھند آگے لے جانا خطرناک ہوگا۔"

ابوداؤد نے کہا: "امتیا ضرور کرو لیکن بگھی کو روکو نہیں تمہیں دو گنا انعام دیا جائے گا۔"

میریا اور اینجلانے پھر آسمان سر پر اٹھالیا۔ ابو داؤد نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔
 ”کوچوان بے وقوف نہیں۔ وہ نشیب میں پہنچ کر خود بخود رفتار کم کر دے گا۔“

ابو داؤد نے دوبارہ پیچھے کی کھڑکی سے سر نکال کر تعاقب میں آنے والے سواروں کو
 اشارہ کیا اور انہوں نے گھوڑوں کی رفتار کم کر دی۔

وادی کا نشیب ایک الجھی خاصی ندی معلوم ہوتا تھا لیکن کوچوان نے زیادہ انعام کی
 خاطر اپنے سینے پر نشان صلیب بناتے ہوئے گھوڑے پانی میں ڈال دئے لیکن چند گز آگے
 جانے کے بعد گھبی سڑک سے اتر گئی اور اگلے دو گھوڑے کسی پتھر سے ٹھوکر کھانے کے بعد
 گر پڑے۔ گھبی کے اچانک رکنے سے اگلے سرے پر بیٹھا ہوا کوچوان اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ
 پر گرا اور وہاں سے لڑھکتے ہوئے پانی میں آ رہا۔ ایک ثانیہ کے بعد چاروں گھوڑے پھر بے تیشا
 بھاگ رہے تھے۔ پانی زیادہ گہرا نہ تھا۔ گھوڑے کسی اور حادثہ کے بغیر نشیب سے گزر کر
 سڑک پر پہنچ گئے۔

ایک اور ٹیلیہ عبور کرنے کے گھبی ایک وسیع میدان میں داخل ہوئی۔ ابو داؤد کو اندر
 بیٹھے ہوئے یہ خبر نہ تھی کہ گھبی اپنے کوچوان سے محروم ہو چکی ہے۔ تاہم جب گھوڑوں نے
 سڑک چھوڑ کر میدان میں بھاگنا شروع کیا اور اس کے ساتھ ہی ہچکولے ناقابل برداشت ہو
 گئے تو اس نے کوچوان کو آدازیں دیں۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے گھبی کا دروازہ کھولا۔
 اور باہر جھانکنے لگا۔ کوچوان غائب تھا۔ سامنے کچھ فاصلے پر گنجان درخت تھے اور گھبی کے
 راستے میں ایسے پتھر تھے جن کے ساتھ ٹکرائنا ان سب کی ہلاکت کا باعث ہو سکتا تھا۔

پیچھے آنے والے سوار اتنی دُور تھے کہ ان کا گھوڑوں کو گھیر کر روکنا مشکل تھا۔ اچانک
 سامنے جنگل سے تیس چالیس سواروں کا دستہ نمودار ہوا اور ان کے برق رفتار گھوڑے ان
 کی آن میں گھبی کے قریب پہنچ گئے۔ سب سے آگے مشکی گھوڑے پر ایک نقاب پوش
 تھا جس کی سفید قبا ہوا میں لہرا رہی تھی۔ نقاب پوش کے اشارے پر باقی تمام سوار نیزے بلند

کر کے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے نگھی کے پیچھے آنے والے سواروں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے نگھی کی طرف چند تیر چلانے کے بعد گھوڑوں کی باگیں موڑ لیں۔

نقاب پوش نے نگھی کو کوچوان کے بغیر دیکھ کر اپنا گھوڑا نگھی کے تعاقب میں چھوڑ دیا۔ اور اگلے گھوڑوں میں سے ایک کے قریب پہنچ کر اپنا گھوڑا اس کے ساتھ ملانے کے بعد اس پر چھلانگ لگا دی۔ ابھی وہ سنبھلنے نہ پایا تھا کہ نگھی کا ایک پیہہ تھکر کے ساتھ کرا کر ٹوٹ گیا اور نگھی ایک طرف کوالٹ گئی۔ گھوڑوں کی باگیں پاؤں میں آکر ٹوٹ چکی تھیں لیکن منہ میں لگا میں موجود تھیں۔ نقاب پوش نے ہاتھ بڑھا کر پہلے ایک اور پھر دوسرے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور انہیں اپنی پوری قوت سے روکنے کی کوشش کی۔ گھسٹی لڑھکتی اور پتھروں کے ساتھ ٹسکتی ہوئی نگھی رک گئی۔

تھوڑی دیر بعد جب اس نقاب پوش کے ساتھی نگھی کا تعاقب کرنے والوں کو مار بھگانے اور ایک پریشان حال کوچوان کو گرفتار کرنے کے بعد واپس آئے تو اس نے ٹوٹی ہوئی نگھی کے پاس کراہنے والے مسافروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: "مجھے افسوس ہے کہ میں انہیں زخمی ہونے سے نہ بچا سکا۔ تاہم مجھے اُمید ہے کہ ان کی جانیں ضرور بچ جائیں گی۔ نگھی کے اندر ان کا ایک صندوق بھی پڑا ہے اُسے اٹھا لو۔"

ابو داؤد نیم بے ہوشی کی حالت میں آنکھیں کھولنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی خون آلود پیشانی پر ہاتھ پھیرنے کے بعد نقاب پوش اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے نحیف آواز میں "شکریہ" کہنے کے بعد اپنی بیوی اور لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوا۔

"میرا اربعہ!! ایچلا!!" اس نے یکے بعد دیگرے تینوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔

میریا نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور دہشت و سرسنگی کی حالت میں پھر بند کر لیں۔ آپ کے بعد اس نے پھر آنکھیں کھولیں اور "ایچلا، میری ایچلا" کہتی ہوئی اپنی بیوی کو جھنجھوڑنے لگی۔ ایچلا کے نچلے ہونٹ اور کینڈی سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ چند بار کراہنے کے بعد اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔

اُن کا میزبان

(۱)

ربیعہ نے ہوش میں آکر آنکھیں کھولیں تو شمع کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک کٹاواڑ
کرے میں لیٹی ہوئی ہے۔ اس کے بستر کے قریب ایک کرسی پر ابو داؤد اور دوسری کرسی
پر ایک اجنبی نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹی کو ہوش میں دیکھ کر ابو داؤد آگے بھٹکا اور اس
کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔

”ربیعہ! میری بیٹی!!“

ربیعہ نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ”میں کہاں ہوں؟“
ابو داؤد نے جواب دیا۔ ”بیٹی! ہم ایک نہایت محفوظ مقام پر پہنچ چکے ہیں اور ایک
ایسے شخص کے مہمان ہیں جس کی پناہ میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں اور یہ تمہارے طبیب ہیں۔“
کرے کے دوسرے حصے میں ایک بستر پر میرا لیٹی ہوئی تھی، دوسرے پر اینٹلا تیکے
سے ٹیکے لگائے بیٹھی تھی۔ ربیعہ نے اُن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے باپ سے پوچھا۔
”وہ کیسی ہیں؟“

ابوداؤد نے جواب دیا: "وہ ٹھیک ہیں۔"

ایک اور نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ ربیعہ کی نگاہیں تھوڑی دیر کے لئے اس پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ ابوداؤد کھڑا ہو گیا۔

"آپ بیٹھے! نوجوان نے آگے بڑھ کر بے تکلفی سے ابوداؤد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا: "میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟"

ابوداؤد نے جواب دیا: "اس نے ابھی ابھی آنکھیں کھولی ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے۔"

نوجوان نے جواب دیا: "کاش آپ جیسے مہمان کو ٹھہرانے کے لئے ہمارے پاس اس سے زیادہ موزوں جگہ ہوتی۔"

اینبلا اپنے بستر سے اٹھی اور چپکے سے آکر ربیعہ کے سر ہانے بیٹھ گئی۔ "ربیعہ! تمہاری طبیعت کیسی ہے؟" اس نے پیار سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔
"میں ابھی ہوں، سر اور ٹانگ میں درد ہے۔ امی جان کیسی ہیں؟"
"وہ ٹھیک ہیں۔"

پہلا نوجوان جوان زخمیوں کے لئے طبیب کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ بولا "میرا خیال ہے کہ ابھی ان کا باتیں کرنا ٹھیک نہیں۔ میں انہیں غیند کی دوا پلا دیتا ہوں، ان کے لئے مکمل آرام بہت ضروری ہے۔"

دوسرے نوجوان نے عربی زبان میں سوال کیا: "ان کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟"
طبیب نے جواب دیا: "میں صبح تک صبح راتے دے سکوں گا۔ بہر حال تشویش کی کوئی بات نہیں۔"

ابوداؤد نے سوال کیا: "آپ کے خیال میں یہ کب تک تندرست ہو جائے گی؟"
انہیں بہت جلد آرام آجائے گا اور میرے خیال میں آپ کو بھی آرام کرنا چاہیے۔"

اگلے دن جب ربیعہ ایک لمبی نیند کے بعد بیدار ہوئی تو اینجلا مکرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر جھانک رہی تھی۔ میرا بستر پر میٹھے سے ٹیک لگاٹے بیٹھی تھی۔

"اینجلا! اینجلا!!" ربیعہ نے اُسے آہستہ سے آواز دی۔

اینجلا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اُس کے قریب آ بیٹھی۔

ربیعہ نے کہا۔ "اینجلا رات کے وقت یہاں تم نے دو اجنبی دیکھے تھے؟"

اینجلا نے جواب دیا۔ "میں ابھی کھڑکی کے سامنے کھڑی اُنہیں دیکھ رہی تھی۔"

"مجھے شک ہو رہا تھا کہ میں نے شاید کوئی خواب دیکھا ہے۔"

اینجلا نے کہا۔ "اگر تمہیں یہ علم ہو کہ اس وقت کہاں ہیں تو تم یہ کہو کہ ہم جاگتے ہیں بھی"

ایک خواب دیکھ رہی ہیں۔"

ربیعہ نے کہا۔ "میں شاید۔۔۔۔۔ بگھی سے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ لیکن یہ حادثہ دوپہر

کے کھوڑی دیر بعد پیش آیا تھا۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو شاید رات کا وقت تھا۔ مکرے

میں شمع جل رہی تھی۔ میرے خیال میں ہم غرناطہ کی فوجی چوکی میں ہیں۔"

"نہیں ہم اس سڑک سے کئی کوس دور پہنچ چکے ہیں۔ تمہیں بے ہوشی کی حالت میں

ہمارے ساتھ یہاں لایا گیا تھا۔ ربیعہ تم ہمیشہ ہی کہا کرتی ہو کہ میرے دل میں تمہارے لئے

کوئی ہمدردی نہیں۔ لیکن مریم مقدس کی قسم! میں سارا راستہ تمہارے لئے روتی رہی ہم یہاں

آدھی رات کے وقت پہنچے ہوں گے۔ جو شخص تمہارا علاج کر رہا ہے اس کے متعلق ابا جان کا

خیال ہے کہ وہ ہسپانہ کا بہترین جراح ہے۔"

"لیکن اس وقت ہم ہیں کہاں؟"

"ربیعہ! تم سُن کر یقین نہیں کرو گی ہم اس وقت عقاب کی وادی میں ہیں۔"

"عقاب کی وادی میں؟ نہیں تم مذاق کرتی ہو۔" ربیعہ نے اُٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی

لیکن اپنے دُکھتے ہوئے سردونوں ہاتھوں میں پکڑ کر لیٹ گئی۔ اینجلا! اینجلا! اُپسچ بناؤ مجھے

پریشان نہ کرو۔“

”سچ تو کہہ رہی ہوں۔“

”لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔“

”ربیعہ! تم یہ بھی نہیں مانو گی کہ تم سرحدی عقاب کو دیکھ چکی ہو، اور صرف دیکھ ہی نہیں چکی بلکہ — مجھے ڈر ہے کہ تم لڑ پڑو گی۔ لیکن مریم کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتی۔ تمہیں چند عات اس کے قریب رہنے کا شرف بھی حاصل ہو چکا ہے۔“

”کیا مطلب؟“ ربیعہ نے بدحواس ہو کر سوال کیا۔

”میرا مطلب ہے کہ تم اپنی زندگی کے چند قیمتی لمحات اس کے ساتھ گزار چکی ہو۔“

”امی! امی! ایجنلا کو منع کیجئے۔“

میریانے ہنستے ہوئے کہا۔ ”ایجنلا درست کہتی ہے لیکن اس میں گھبرانے کی کیا

بات ہے۔ تم بے ہوش تھیں۔“

ربیعہ عاجز رہی ہو کر ایجنلا کی طرف دیکھنے لگی۔ ایجنلانے اپنی سنسی ضبط کرتے ہوئے

کہا۔ ”ربیعہ! گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ وہ تمہیں گھوڑے پر اپنے ساتھ بٹھا کر یہاں لایا تھا۔

اگر تمہاری جگہ میں بنے ہوش ہوتی تو میرے ساتھ بھی ہی ہوتا۔ میرا خیال تھا کہ عقاب کوئی پرلے

درجے کا وحشی آدمی ہو گا لیکن وہ تو شاید کوئی فرشتہ ہے۔ آبا جان تمہیں ہوش میں لانے سے

ناامید ہو چکے تھے لیکن اُس نے ایک لمحہ کے لئے تمہاری نبض پر ہاتھ رکھا اور تمہیں اٹھا کر

اپنے گھوڑے پر ڈال لیا اور آبا جان کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ”میں اسے اندس کے بہترین

جراح اور طبیب کے پاس لے جا رہا ہوں۔ مجھے اُمید ہے کہ اس کی جان بچ جائے گی۔ آپ

میرے آدمیوں کے ساتھ چلے آئیں۔ مجھے اپنا دوست سمجھیں اور آبا جان نے کہا۔ میں یہ

نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں لیکن اگر آپ میری لٹکی کی جان بچا سکیں تو میرا سونے اور جواہرات

سے بھرا ہوا صندوق آپ کا ہے۔“

اُس نے کہا۔ آپ مجھے نیکی کی قیمت وصول کرنے والوں میں شمار نہ کریں۔ میرے آدمی آپ کے سونے اور جواہرات کی بھی حفاظت کریں گے۔ یہ کہہ کر اُس نے گھوڑے کو اڑا لگا دی۔ ہم جب آدھی رات کو یہاں پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ تم ہم سے بہت پہلے یہاں پہنچ چکی ہو۔

”اچھا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ سرحدی عقاب ہے؟“

”ابھی تمہارے جاگنے سے گھوڑی دیر پہلے ابا جان یہ بتا گئے ہیں۔“

”تو کیا وہ نقاب پوش جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہماری نگہی کے گھوڑے روکے تھے، سرحدی عقاب تھا؟“

”ہاں اور رات کے تیسرے پہر جب تمہیں ہوش آیا تو وہ تمہاری مزاج پرسی کو آیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ دو تین بار تمہارے متعلق پوچھنے کے لئے آچکا ہے۔ آج صبح بھی وہ آیا تھا۔ اس کے سپاہیانہ لباس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی مہم پر جا رہا ہے۔ اُس نے ابا جان سے بھی کہا تھا کہ میں شاید شام تک نہ آؤں اور تمہارا طبیب تو شاید ساری رات اس کرسی پر بیٹھا رہا ہے۔ جب میں اٹھی تھی تو وہ تمہاری نبض دیکھ رہا تھا۔“

ربیعہ نے پوچھا۔ ”ابا جان کہاں ہیں؟“

انجیلانے جواب دیا۔ ”وہ دوسرے کمرے میں طبیب کے ساتھ کوچوان کو دیکھنے گئے ہیں۔ اس بے چارے کو کافی چوٹیں آئی ہیں۔“

(۲)

تین دن بعد ربیعہ کے سر کی تکلیف قدرے کم ہو چکی تھی لیکن گھٹنے میں درد کے باعث وہ سہارے کے بغیر چلنے کے قابل نہ تھی۔ وہ شہسوار جس نے اُس کی جان بچائی تھی اور وہ طبیب جو اُس کا علاج کر رہا تھا بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن تھے۔ ابو داؤد اس بات پر حیران تھا کہ سرحدی عقاب اُن کی مدد کے لئے اچانک وہاں کیسے پہنچ گیا۔ گزشتہ تین دن میں

اس نے بدر بن مغیرہ کے سامنے فرٹھینڈ اور اس کے حکام کے مظالم کی داستانیں بیان کر کے کسی حد تک اس کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ نماز جمعہ کے بعد اس نے بدر بن مغیرہ کے ساتھیوں کے سامنے ایک پُر جوش تقریر کی اور اُنڈس میں عیسائیوں کے محکوم مسلمانوں کی تباہ حالی کی اس قدر دردناک تصویر پیش کی کہ سامعین پر رقت طاری ہو گئی۔ پھر اُس نے اُنڈس میں مسلمانوں کے ماضی کی روح پرورد داستانیں سنائیں۔ بدر بن مغیرہ اور اس کے ساتھیوں کی جنگِ آزادی کی دل کھول کر تعریف کی اور اختتام پر یہ کہا: "ہمیں اپنے مستقبل کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے متحد اور منظم ہو کر فرٹھینڈ کے خلاف فیصلہ کن جنگ نہ لڑنے کا فیصلہ نہ کیا تو ہم آہستہ آہستہ مٹا دئے جائیں گے۔ تمہارے لئے میرا ہی پیغام ہے کہ نبردِ ملی کی زندگی سے بہادری کی موت بہتر ہے اور یہی پیغام میں اہلِ غرناطہ کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ابوالحسن ہماری مظلومیت کا حال سن کر دشمنانِ اسلام کے خلاف جہاد کا اعلان کرنے میں تاخیر نہیں کرے گا۔"

تقریر کے بعد جب وہ بدر اور بشیر کے ساتھ اپنی قیام گاہ کی طرف واپس آ رہا تھا تو بدر بن مغیرہ نے کہا: "مجھے یقین ہے کہ غرناطہ میں رہ کر آپ مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک سکیں گے۔"

ابو داؤد نے منموم لہجے میں جواب دیا: "میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ لیکن لوگ ایک اجنبی کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دیا کرتے۔"

بدر نے کہا: "نہیں اب وہ بیدار ہو چکے ہیں۔"

بشیر نے جھجکتے ہوئے کہا: "اگر آپ بُرا نہ مانیں تو میں ایک سوال پوچھنے کی جرأت کروں۔"

ابو داؤد نے جواب دیا: "اگر آپ بھی مجھ سے کچھ پوچھتے ہوئے بچکیا میں تو بہ مجھ پر ظلم ہو گا۔"

بشیر نے کہا: "آپ کو خاندانِ دین کے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور آپ اتنے

باعمل ہیں کہ آپ رات کے وقت تہجد کے لئے بھی اُٹھتے ہیں اور آپ کی زبان میں جادو

ہے لیکن ایک بات پر حیران ہوں کہ۔۔۔۔۔ آپ۔۔۔۔۔“

ابو داؤد نے اس کا فقرہ پورا کرتے ہوئے کہا۔ ”آپ حیران ہیں کہ ان سب باتوں کے باوجود میری اپنی بیوی اور لڑکی عیسائی مذہب پر قائم ہیں۔ یہی کہنا چاہتے تھے تا آپ؟“
بشیر نے حیران ہو کر کہا۔ ”ہاں میں یہی پوچھنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس اس کی معقول وجہ ہوگی۔“

”اس کی ایک وجہ ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معقول ہے۔ اس کے متعلق آپ جیسے مجاہدوں کا فتویٰ زیادہ صحیح ہوگا۔ یہ میری دوسری بیوی ہے۔ پہلی بیوی ایک مسلمان تھی اور اس کی لڑکی بھی مسلمان ہے۔ لیکن میری یہ بیوی ہر سیہ کے ایک عیسائی خاندان سے ہے اور اس کے ساتھ شادی سے قبل مجھے اس بات کا علم تھا کہ میں شادی کے بعد عیسائیوں کی سلطنت میں رہ کر اسے تبدیلی مذہب پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود میں نے اس کے ساتھ اس لئے شادی کی کہ میں عیسائیوں کی حکومت میں ایک آزاد خیال مسلمان سمجھا جاؤں۔ میں اپنی قوم کی مظلومیت اور ذلت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں انہیں ایک انقلاب کے لئے آمادہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے عیسائی بیوی کو اپنے لئے ڈھال بنایا۔ آج تک میں نے اپنے مقاصد اس پر بظاہر نہیں ہونے دئے۔ یہاں تک کہ وہ بھی مجھے اندلس کے ان ہزاروں مسلمانوں سے مختلف خیال نہیں کرتی جو مذہب سے بہت دُور جا چکے ہیں بلکہ اپنے ہم مذہبوں میں جا کر وہ کستی ہے کہ میں اسلام کی نسبت عیسائیت سے زیادہ قریب ہوں۔“

ان باتوں سے میں نے یہ فائدہ اٹھایا ہے کہ میں کئی شہروں میں مسلمانوں کی انقلابی جماعتیں تیار کر چکا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں گزشتہ دس سال سے قسطلہ میں ہوں۔ بڑے بڑے عیسائی ائمہ کے گھروں تک میری رسائی ہے لیکن آج تک کسی کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ میں ان کی سلطنت کے خلاف سرگرم عمل ہوں۔ آپ کو میرے طریق کار پر نکتہ چینی کرنے کا حق ہے لیکن میری نیت خدا کو معلوم ہے۔ اس عورت کے ساتھ شادی کرنے سے قبل میں یہ

محسوس کرتا تھا کہ حکومت کے جاسوس ہر وقت میرے پیچھے لگے رہتے تھے لیکن اس سے شادی کرنے کے بعد میری مشکلات بہت کم ہو گئی ہیں۔

اور جو کچھ میں نے گزشتہ بیس برس میں کیا ہے اس کا نتیجہ اس وقت ظاہر ہو گا جب ابو الحسن یا اس کے بعد غرناطہ کا کوئی اور تاجدار عیسائیوں کے خلاف اعلان جہاد کرے گا۔ اب شاید آپ میرے وہاں سے فرار ہونے کی وجہ پوچھنا چاہیں۔ میں وہاں سے اس لئے نہیں بھاگا کہ حکومت کو میری سازشوں کا علم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ قسطہ کے شاہی گھرانے کا ایک نوجوان میری چھوٹی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے میری بیوی کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا اور میرے گزشتہ طرز عمل کے باعث میری بیوی کو یہ یقین تھا کہ میں ایک عیسائی نوجوان کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کی مخالفت نہیں کروں گا۔ لیکن مجھے جب اس بات کا علم ہوا تو آپ میری حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے قبل میں سوچا کرتا تھا کہ میں اپنا کام پورا کرنے کے بعد غرناطہ چلا جاؤں گا اور اپنی عیسائی لڑکی اور بیوی کو سنانا کروں گا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ پانی سر سے گزر رہا ہے۔ میں نے اس رشتہ کی مخالفت کی تو مجھے فریڈنہیڈ کا حکم پہنچ گیا۔ اب میرے لئے ایک ہی راستہ تھا کہ میں فوراً ہجرت کروں۔ لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں ہجرت کر کے غرناطہ جا رہا ہوں تو میری بیوی شاید اپنی مرضی سے میرا ساتھ نہیں دے گی اور لڑکی جو اس شادی پر رضامند نہ تھی مجھ سے زبردستی چھین لی جائے گی۔

بشیر نے پوچھا: تو لڑکی شاہی گھرانے کے نوجوان کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند

نہ تھی؟

”نہیں۔ اس نوجوان کی ایک آنکھ تیرنگنے سے ضائع ہو گئی تھی“

بلدین مغیرہ نے سوال کیا: تو آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟

”میں نے تدبیر سے کام لیتے ہوئے اس شادی کی مخالفت ترک کر دی۔ میں نے اپنے

ایک دوست سے خط لکھوایا اور اس خط کو اپنے گھر بھجوانے کے لئے اُسی کے نوکر کی خدمت حاصل کیں۔ اُس نے میری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے رات کے وقت وہ خط ہمارے گھر پہنچا دیا۔ اس خط میں میں نے یہ لکھوایا تھا کہ اینجلا کا نانا قریب المرگ ہے اور وہ اپنی بیٹی اور نوامی کو دیکھے بغیر اس جہانِ فانی سے رخصت نہیں ہونا چاہتا۔ ایسی خبریں سننے کے بعد عورتیں عام طور پر تفصیلات میں نہیں جاتیں۔ اس خط میں چونکہ وراثت کی تقسیم کا بھی ذکر تھا، میری بیوی مرسیہ کے لیے سفر کے لئے تیار ہو گئی۔ اینجلا کو اس شادی سے نفرت تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے علی الصباح جانے کا فیصلہ کر لیا۔ رعبہ کو میں پہلے ہی سمجھا چکا تھا۔ چنانچہ اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے باپ کی تیمارداری کے لئے ضرور جائے گی۔ لیکن ہمیں ایک اور تکلیف پیش آئی۔ رات کے وقت ہم کھانا کھانے بیٹھے تو وہ کانا آگیا۔ جب اُسے یہ معلوم ہوا کہ ہم صبح مرسیہ جانے والے ہیں تو وہ ابھی ہمارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو گیا۔ میں نے مخالفت کی لیکن میرا تے اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بدولت ہمارا سفر بہت آسان ہو جائے گا اور میں نے مجبوراً ہتھیار ڈال دئے۔

علی الصباح جب ہم گھٹی پر سوار ہو رہے تھے وہ گھوڑا بھکاتا ہوا آیا اور ہمیں یہ خبر دی کہ وہ راستے کی چوکیوں کو ہمارے سفر کے لئے گھوڑے تیار رکھنے کی ہدایت بھجوا چکا ہے۔ راستے میں اس کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوئی لیکن جوں جوں مرسیہ قریب آ رہا تھا میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کا گھوڑا ہر وقت ہماری گھٹی کے آگے پا پیچھے رہتا تھا۔

گھٹی کا کوچوان میرا پرانا نوکر تھا اور اُسے میرے ارادے کا علم تھا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اس شخص سے جان بچھڑائے بغیر ہمارا غرناطہ پہنچانا ممکن ہے۔ چنانچہ میں ایک تلخ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک دوپہر جب میرا گھٹی میں اونگھتے اونگھتے اینجلا

کی گود میں سر رکھ کر سو گئی تو میں نے ایجنلا سے کہا: "ایجنلا! تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں؟"

اُس نے جواب دیا: "آپ ہمیں مرسیہ لے جا رہے ہیں اور کہاں؟" میں نے کہا: "میں تمہیں اُس شخص سے بچانا چاہتا ہوں اور اس مقصد کے لئے میں مرسیہ کی بجائے غرناطہ جا رہا ہوں۔"

اُس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا: "اباجان! اس کے ساتھ شادی کرنے کی بجائے میں موت کو ترجیح دوں گی۔ میں اس سے بچنے کے لئے ہر جگہ جانے کو تیار ہوں۔"

میں نے کہا: "یہاں سے تھوڑی دُور آگے غرناطہ کی سڑک اس سڑک سے الگ ہوتی ہے لیکن یہ سائے کی طرح ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اگر ہم نے راستہ بدلا تو اگلی چوکی پر ہمیں یہ روک لے گا اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا صرف ایک راستہ ہے۔" ایجنلا نے کچھ سوچ کر کہا: "اباجان! وہ اس وقت ہمارے پیچھے ہے آپ کے پاس کمان ہے اور آپ تیر چلانا جانتے ہیں۔"

میں نے کہا: "لیکن مجھے تمہاری ماں کا ڈر ہے۔"

اُس نے کہا: "امی جان سو رہی ہیں۔ آپ جلدی کیجئے۔"

میں نے پھلی کھڑکی سے بھانک کر دیکھا وہ کوئی پچاس گز دُور تھا اور ایک فحش گیت گاتا آرہا تھا۔ میں نے کوچوان کو گھبی کی رفتار کم کرنے کا حکم دیا۔ جب ہمدے درمیان بہت تھوڑا فاصلہ رہ گیا تو میں نے تیر چلا دیا اور ساتھ ہی کوچوان کو گھبی تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وہ تیر گھا کر گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ تاہم مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ زندہ رہا تو فوراً سارے اندلس میں ہماری تلاش شروع ہو جائے گی۔ اس لئے میں نے پوری رفتار سے اپنا سفر جاری رکھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو اُسے ہم نے بتا دیا کہ وہ آگے نکل گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے

اُسے یہ معلوم نہیں ہونے دیا کہ ہم راستہ بدل چکے ہیں لیکن سرحد کی آخری چوکی عبور کرتے ہی مجھے اپنے پیچھے چند سوار دکھائی دئے۔ مجھے اُن کی رفتار سے شک ہو ا اور میں نے کوپون کو گتھی تیز کرنے کا حکم دیا۔ بارش کی وجہ سے سڑک بہت خراب تھی۔ بہر حال خدا کا شکر ہے کہ گتھی اُس وقت ٹوٹی جب آپ ہماری مدد کے لئے پہنچ چکے تھے۔ ہمیں سرحد تک پہنچنے کا موقع غالباً اس لئے ملا کہ پہلے ہماری تلاش مرسیہ کی سڑک پر کی گئی ہوگی اور وہاں ہمارا سراغ نہ ملنے پر انہوں نے غرناطہ کی سڑک کی طرف توجہ کی ہوگی۔ یہ سب آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ میں نے اینجلا اور میریا کو ابھی تک مسلمان کیوں نہیں بنایا اب آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔“

بدر نے کہا: "اب آپ کو ہر بات پوچھنے کا حق ہے۔"

ابو داؤد نے کہا: "آپ کا علاقہ ہمارے راستے سے کافی دور تھا۔ اگرچہ عتاب کی پر از کی حدود معین نہیں ہوتیں لیکن آپ ہماری مدد کے لئے وہاں اس طرح پہنچے جیسے پہلے سے وہاں تیار کھڑے تھے۔"

بدر بن مغیرہ نے جواب دیا: "بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ سے غرناطہ کی حکومت کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑی حد تک دوستانہ ہیں۔ انہوں نے سرحد کے کچھ علاقے کی حفاظت میرے سپرد کر رکھی ہے اور کبھی کبھی مجھے ان کی چوکیوں کا معائنہ کرنے کے لئے جانا پڑتا ہے۔ اس دن بھی میں یہ دیکھنے کے لئے نکلا تھا کہ بارش کی وجہ سے سپاہی اپنے اپنے گوشوں میں دیک کر بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے پیروں پر موجود ہیں۔ راستے میں مجھے آپ مل گئے۔ میری اصل قیام گاہ یہاں سے بہت دور ہے۔ یہ قلعہ جسے آپ نے رونق بخشی ہے ہمارے علاقے کے ایک سرے پر ہے۔"

ابو داؤد نے کہا: "سرحد کی نگرانی جس شخص نے بھی آپ کو سونپی ہے میں اُس کی نگاہ انتخاب کی داد دیتا ہوں اور غرناطہ اگر اپنی تمام سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کو سونپ دے

تو یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی :-

”نہیں۔ میں اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل نہیں۔“

ابوداؤد نے کہا: ”غزناطہ میں میری کسی کے ساتھ واقفیت نہیں۔ اگر آپ مجھے جانے سے

پہلے دوچار مخلص آدمیوں کے نام بتادیں تو مجھے سہولت ہوگی۔“

بدر بن مغیرہ نے کہا: ”میں ایک ایسے آدمی کو خط لکھوں گا جس کی بدولت آپ سارے

غزناطہ سے واقف ہو جائیں گے۔ لیکن میرے خیال میں آپ کو کافی دن یہاں ٹھہرنا پڑے گا۔

کیوں بشیر ان کی صاحبزادی کب تک چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گی؟“

بشیر نے جواب دیا: ”انشاء اللہ ایک ہفتے میں بالکل تندرست ہو جائیں گی۔“

(۳)

یہ قلعہ جس میں ابوداؤد، بدر بن مغیرہ کے مہمان کی حیثیت میں ٹھہرا ہوا تھا، اپنے

محل وقوع کے اعتبار سے بیرونی حملے سے محفوظ تھا۔ اس کی فصیل بھی اس قدر محفوظ تھی کہ

باہر سے کسی بڑے حملے کی روک تھام کر سکے۔ الزغل کے ساتھ ملاقات کے بعد بدر بن مغیرہ

غزناطہ کی سرحد کی چوکیوں کا معائنہ کرنے کے لئے کبھی کبھی یہاں ٹھہرا کرتا تھا۔ یہ قلعہ غزناطہ کی حدود

میں تھا اور قسطلہ اور غزناطہ نے چونکہ ابھی تک ایک دوسرے کے خلاف اعلان جنگ نہیں

کیا تھا اس لئے بدر نے کسی فوری حملے کا خطرہ محسوس نہ کرتے ہوئے اس کی حفاظت کے لئے

بہت تھوڑے سپاہی رکھے تھے تاہم قسطلہ کی سرحد کے آس پاس اس کے جاسوس اور

پہریدار ہر وقت چوکس رہتے تھے۔ ابوداؤد کی آمد کے بعد اس نے پہریداروں کی تعداد میں

کچھ اضافہ کر دیا تھا۔ عام طور پر وہ نئے انتظامات دیکھنے اور سرحدی چوکیوں کے افسروں

کو ہدایات دینے کے لئے دوچار دن اس قلعہ میں ٹھہر کر جنگل میں اپنے مستقر کو لوٹ جایا

کرتا تھا اور وہاں غزناطہ سے آنے والے نئے سپاہیوں اور افسروں کو تربیت دیا کرتا تھا۔

لیکن ابو داؤد کی وجہ سے اسے اپنی مرضی کے خلاف یہاں رکنا پڑتا۔ تاہم وہ دوسرے یا تیسرے دن وہاں ضرور جاتا اور اپنے جانباڑوں کو ضروری ہدایات دینے کے بعد واپس آجاتا۔ اگرچہ ابو داؤد نے اپنا من گھڑت افسانہ سنا کر کسی حد تک اس کا اعتماد حاصل کر لیا تھا پھر بھی وہ الزغل یا موسیٰ کی سفارشی تحریر دیکھے بغیر کسی اجنبی کو اپنی حدود میں داخل ہونے کی اجازت دینے کا روادار نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ربیعہ کو علاج کے لئے اپنے مستقر لے جانے کی بجائے اُس نے بشیر بن حسن کو جنگل سے اس جگہ بلا لیا تھا۔

ایک ایسے باپ کے سوا جو اس کی ماں کی موت کے ایک سال بعد ایک نصرانی لڑکی سے شادی کر چکا تھا، ربیعہ کا اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ جب اُس نے ہوش سنبھالا تو اُسے بتایا گیا کہ ماں کی وفات کے وقت اس کی عمر ایک سال سے بھی کم تھی۔ اُس نے اپنی عمر کے ابتدائی تیرہ برس کا زیادہ حصہ طلیطلہ میں اپنے ماموں کے پاس گزارا۔ عیسائیوں کے بڑھتے ہوئے مظالم نے دوسرے لوگوں کی طرح اس کے ماموں کے خاندان کے بہت سے لوگوں کو غرناطہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ ربیعہ کا ماموں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن ابو داؤد کے سامنے اُس کی پیش نہ گئی اور ربیعہ کو اپنے باپ کے پاس قسطلہ آنا پڑا۔ قسطلہ میں ربیعہ کے لئے اپنے باپ کے گھر کا ماحول بالکل نیا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں اور بہن عیسائی مذہب کی پابند تھیں۔ اُس کے باپ کی عزت اور شہرت کی ہوس نے اپنے اسلاف کے دین سے بہت دور پھینک دیا تھا۔ قسطلہ کے عیسائی اُسے ایک آزاد خیال مسلمان کے نام سے یاد کرتے تھے۔ وہ عیسائیوں کی محفل میں قرآن پڑھتا اور نہایت علوانہ تقریریں کرتا۔ اعلیٰ طبقہ کے عیسائی راہبوں کو یہ معلوم تھا کہ ایک مسلمان کے بھیس میں وہ فرزند ان توحید کا بدترین دشمن ہے۔ اس لئے وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح اُس کے مذہب تبدیل کرنے پر مصر نہ ہوئے۔

بعض دور اندیش مسلمان اس پر شک کرتے تھے لیکن عوام کی اکثریت کو وہ یقین

دلا چکا تھا کہ بادشاہ کے دربار اور عیسائیوں کے گرجوں میں جا کر وہ جو کچھ مسلمانوں کے لئے کر رہا ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا۔ وہ مختلف شہروں میں جاتا اور صریحاً پسند مسلمانوں کی خفیہ تنظیمیں تیار کرتا اور ان شہروں کے شوریدہ مسلمانوں کے ساتھ اچھی طرح متعارف ہونے کے بعد وہاں کے عیسائی حکام کو باخبر کر کے غائب ہو جاتا۔ عیسائی حکام انہیں ایک ایک کر کے پکڑ لیتے اور ان پر مقدمہ چلائے بغیر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ ان خدمات کے صلہ میں ابو داؤد فریڈ ہینڈ سے سنہری تمغہ اور قسطلہ کے لارڈ شپ سے چاندی کی صلیب حاصل کر چکا تھا۔

ربیعہ عادات و خصائل میں اپنے باپ کی عین ضد تھی۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس نے بچپن کے تیرہ برس اپنے ماموں کے ہاں گزارے تھے۔ ماموں کے گھر کی تعلیم نے اُسے اسلام سے محبت کرنا سکھایا تھا اور مسلمانوں کی موجودہ بے کسی اور منظریت کے احساس نے اُس کے دل میں قسطلہ کی عیسائی حکومت کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ بچپن کے احساسات پختہ نہیں ہوتے لیکن ربیعہ کو اپنے باپ کے گھر کا تلخ ماحول ہمیشہ ماموں کے گھر کی یاد دلاتا رہا اور اس یاد کے ساتھ بچپن کی جو دلچسپیاں وابستہ تھیں وہ اُس کی اُداس اور غمگین زندگی کا جزو بنی رہیں۔ جب اُس کی سوتیلی بہن اینجلا کو شہر کا ایک پادری اینجیل پڑھانے آتا تو اُسے وہ بزرگ صورت عالم یاد آتے جو اُسے ماموں کے گھر قرآن پڑھانے آیا کرتے تھے اور جب اینجلا کی ماں اُسے یہ سمجھاتی کہ وہ بھی اپنی سوتیلی بہن کے ساتھ اینجیل پڑھا کرے تو وہ اس کی نصیحت پر عمل کرنے کی بجائے دوسرے کمرے میں قرآن لے کر بیٹھ جاتی۔

اینجلا ہر اتوار ماں کے ساتھ گرجے جاتی اور ربیعہ اپنے ایک مسلمان ہمسایہ کی بیوی کے یہاں چلی جاتی جو اس کی ماں کی سہیلی رہ چکی تھی۔

دو سال قسطلہ میں رہنے کے بعد اُسے پتہ چلا کہ اس کا ماموں اور اس کے خاندان

کے چند اور افراد غرناطہ چھوڑ کر مراکش چلے گئے ہیں۔ اس خبر سے پہلے وہ اپنے دل کو تسلی دیا کرتی تھی کہ قدرت اُسے کبھی نہ کبھی غرناطہ جانے کا موقع دے گی اور وہ طلیطلہ کے پھڑے ہوئے عزیزوں کو دیکھ سکے گی۔ وہ خدا سے دعا بھی کیا کرتی تھی۔ لیکن جب اُسے پتا چلا کہ وہ مراکش جا چکے ہیں تو اُس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ کئی دن تک چھپ چھپ کر آنسو بہاتی رہی۔

ابو داؤد اپنی تمام برائیوں کے باوجود ربیعہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ میریا کو اکثر یہ شکایت رہتی کہ وہ اینجلا سے زیادہ اُسے چاہتا ہے اور وہ اُس کے جواب میں یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا کہ تمہاری موجودگی میں اینجلا کو میری محبت کی ضرورت نہیں لیکن ربیعہ کا اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں۔

میریا ایک تند مزاج عورت تھی اور ربیعہ کو اپنے طرزِ عمل سے نفرت کرنا سکھا دیا تھا۔ اینجلا کو غرور اور تکبر اپنی ماں سے ورثہ میں ملا تھا لیکن اُس کے پہلو میں ایک ایسا دل تھا کہ وہ اپنی ماں کی طرح ربیعہ کی محبت کا جوابِ حقارت سے نہ دے سکتی تھی بلکہ بعض اوقات یہ محسوس کرتی تھی کہ اس کی ماں کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ ربیعہ کی طرف داری کرتی لیکن مذہب کے معاملے میں وہ اپنی ماں کی طرح متعصب تھی۔ ربیعہ اُن کے ساتھ مذہبی بحث میں اُلجھنے سے پرہیز کرتی لیکن پھر بھی اس کے لئے میریا اور اینجلا کی بعض باتیں ناقابلِ برداشت ہوتیں اور وہ اُن کے ساتھ جھگڑنے پر مجبور ہو جاتی۔ ان جھگڑوں میں منطق سے زیادہ جذبات سے کام لیا جاتا۔ میریا اور اینجلا سے فردوسی نیند کی شانِ شوکت اور روما کے عیسائی حکمرانوں کے جاہ و جلال سے مرعوب کرنے کی کوشش کرتیں اور اس کے جواب میں انہیں طارق، موسیٰ، عبدالرحمن اعظم، یوسف بن تاشفین کی داستانیں سناتی۔

میریا اور اینجلا یہ کہتیں کہ اُن کے فلاں راہب کو بشارت ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو

اندلس سے نکالنے کے لئے خدا نے فرڈیننڈ کو منتخب کیا ہے اور وہ جواب میں یہ کہتی کہ میں نے خواب میں ابوالحسن کو قسطلہ پر اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے دیکھا ہے۔

مغیرہ کے قتل کی خبر سُن کر قسطلہ کے تمام عیسائیوں کی طرح میریا اور اینجلا نے بھی خوشی منائی لیکن ربیعہ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اُس نے تین دن کسی سے بات نہ کی۔ اس کے بعد سرحدی عقاب کے ہاتھوں کاؤنٹ سینٹ یاگو کی شکست کی خبر سُن کر جس قدر ربیعہ خوش تھی اسی قدر اس کی سوتیلی ماں اور بہن مغموم تھیں۔

اس کے بعد ان کے گھر میں مذہب کے نام پر جو جھگڑا شروع ہوتا اس میں کسی نہ کسی طرح سرحدی عقاب کا ذکر ضرور آجاتا۔ میریا اور اینجلا جس قدر اُس کے نام سے پڑتیں ربیعہ اسی قدر اس کے بہادرانہ کارناموں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتیں۔ رات کے وقت جب اینجلا اور میریا مریم کے مجسمے کے سامنے دوڑا نو ہو کر عیسائیوں کی فتح کے لئے دُعا مانگتیں تو ربیعہ الگ کمرے میں نماز کے بعد سرحدی عقاب کی فتح کے لئے دعا کرتی۔ ایک مرتبہ میریا نے ابو داؤد سے شکایت کی کہ ربیعہ ہمارے بادشاہ کے دشمن کو اچھا سمجھتی ہے تو ابو داؤد نے اُسے ڈانٹ ڈپٹ کے بعد سمجھایا۔ "ربیعہ اگر تم یہ نہیں چاہتیں کہ حکومت ہمیں باغی قرار دے کر پھانسی پر لٹکا دے تو خدا کے لئے سرحدی عقاب کے متعلق اپنے جذبات ظاہر کرنے میں احتیاط سے کام لیا کرو۔ میں تمہیں اپنی ماں کے مذہب پر چلنے سے منع نہیں کرتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو عزت میں نے فرڈیننڈ کے دربار میں حاصل کی ہے وہ فقط تمہاری وجہ سے خاک میں مل جائے۔ سرحدی عقاب ایک باغی ہے اور وقت آنے پر فرڈیننڈ کی افواج اُسے کچل کر رکھ دیں گی۔"

ربیعہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اُس کا باپ اپنے علم و فضل کے باوجود ان لوگوں سے مختلف نہیں جنہوں نے اُنڈلس کے مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ سے مایوس ہو کر مستقبل کی تمام توقعات اپنے عیسائی آقاؤں کے ساتھ وابستہ کر دی ہیں۔

اس کے بعد وہ اپنے باپ کی سرگرمیوں کا زیادہ گہری نظر سے مطالعہ کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ اُسے یہ محسوس ہونے لگا کہ گھر سے اُس کے باپ کے اکثر غیر حاضر رہنے کا باعث سیر و سیاحت کا شوق نہیں بلکہ وہ درپردہ فرڈنٹ کے لئے اہم خدمات سرانجام دے رہا ہے۔ اُسے اپنی تنہائی اور اجنبیت کا احساس ہونے لگا اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کا احساس ترقی کرتا گیا۔ مسلمانوں کے روشن مستقبل کا تصور کر کے جو دل میں پیدا ہوا کرتے تھے وہ ٹٹے چلے گئے۔ اُس پر ایک ذہنی جمود طاری ہونے لگا۔ زندگی اس کے لئے صبح و شام کے ایک نہ ٹوٹنے والے تسلسل کا نام رہ گئی۔

لیکن جب اُسے یہ معلوم ہوا کہ وہ ابو داؤد کے ساتھ غرناطہ جا رہی ہے تو اس کے دل میں سوئے ہوئے ہنگامے اچانک بیدار ہو گئے۔ اُسے ابو داؤد کے مقاصد کا صحیح علم نہ تھا۔ تاہم وہ سفر کی ہر نئی منزل پر اپنے دل کی دھڑکنوں میں ایک اضافہ محسوس کرتی۔ غرناطہ کے مختلف مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتے۔ اس سفر کے دوران کئی بار سردی عقاب کا ذکر آیا۔ میر یا اس سے بہت خائف تھی اور وہ ابو داؤد کے احتجاج کے باوجود ہر نئی چوکی پر پہنچ کر یہ سوال کرتی: "ہمارے راستے میں سردی عقاب کے حملے کا تو خطرہ نہیں"۔ چوکی کے افسر اُسے تسلی دینے کی کوشش کرتے۔ لیکن وہ اگلی چوکی پر پہنچ کر پھر یہ سوال دہراتی۔ ایک دن جب وہ راستے کی ایک سرائے کے مالک سے اسی قسم کے سوالات پوچھ رہی تھی تو ابو داؤد نے سرائے کے مالک سے مخاطب ہو کر کہا: "تم اُسے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ سردی عقاب عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔" ربیعہ لوگوں کی زبانی اپنی سوتیلی ماں کے سوالات کا جواب دلچسپی سے سنتی اور اس کا تصور اُسے غرناطہ کے خوب صورت شہر سے ان پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف لے جاتا جہاں کسی پُراسرار مجاہد نے چند برس قبل کاؤنٹ سینٹ یا گوکو عبرتناک شکست دی تھی اور اُسے اپنے باپ کے اس دعویٰ پر افسوس ہوتا کہ اُن کا راستہ سردی عقاب کی پرواز کی زد سے دُور ہے۔

(۴)

قسطہ میں سرحدی عقاب کے متعلق جو باتیں مشہور تھیں ان سے اس نے یہ رائے قائم کی تھی کہ وہ ایک بڑی عمر کا ہیبت ناک انسان ہوگا لیکن وہ اس سے کہیں مختلف تھا۔ اس کی نگاہوں سے تہوڑے زیادہ محبت اور شفقت برستی تھی۔ اس کی مردانہ وجاہت میں کچھ ایسی جاذبیت تھی کہ ربیعہ نے اگر اس کی شجاعت کے قصے نہ بھی سُنے ہوتے تو بھی وہ اُسے دیکھتا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتی۔

اپنی قوم کے اولوالعزم مجاہد کہ ایک نظر دیکھ لیتا ہی ربیعہ کے لئے زندگی کا سب سے بڑا انعام تھا لیکن جب اُسے یہ معلوم ہوا کہ وہ تقاب پوش جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کی نگھی روکی تھی، سرحدی عقاب کے سوا اور کوئی نہ تھا اور جب اینجلا نے اُسے یہ بتایا کہ وہ اُسے بے ہوشی کی حالت میں اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اس قلعے میں لے آیا تھا تو اُسے کائنات کے اس وسیع نظام میں پہلی بار اپنی اہمیت کا احساس ہوا۔ جب تک ربیعہ کی حالت کچھ مخدوش رہی وہ صبح شام اس کی تیمارداری کے لئے آتا رہا۔ لیکن جب وہ تندرست ہونے لگی اس نے اس کے کمرے میں آنا بہت کم کر دیا۔ بشیر بن حسن اس کی مرہم پٹی کے لئے دن میں دو بار ضرور آتا۔ اینجلا اس نوجوان اور خوش وضع طبیب کے پاؤں کی آہٹ کی منتظر رہتی اور بھاگ کر اس کے لئے دروازہ کھولتی اور جب وہ ربیعہ کی طرف متوجہ ہوتا تو وہ ربیعہ کے قریب بیٹھ کر مختلف بہانوں سے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی۔

وہ سوال کرتی۔ "میری بہن کب تک سفر کے قابل ہو جائے گی؟"

وہ بے پرواہی سے جواب دیتا۔ "بہت جلد۔"

"آبا جان کہتے ہیں آپ جس مریض کو ہاتھ لگا دیں اُسے شفا ہو جاتی ہے لیکن اُس

دن گن بھی سے گرنے کے بعد میرے دانت ابھی تک درد کرتے ہیں۔
 "تمہیں وہم ہے۔ تمہارے دانت بالکل ٹھیک ہیں۔"

"نہیں نہیں مجھے وہم نہیں۔ میں تکلیف کی وجہ سے گزشتہ رات سو نہیں سکی۔ اور
 میرا لکرے کے دوسرے گوشے سے کہتی۔" آپ اچھی طرح دیکھئے رات واقعی یہ درد سے
 کراہ رہی تھی۔"

"بہت اچھا میں دیکھتا ہوں۔"

بشیر بن حسن ربیعہ کی مرہم پیٹھ سے فارغ ہو کر اینجلا کی طرف متوجہ ہوتا اور اُس کے
 دانتوں کا معائنہ کرنے کے بعد سوچ میں پڑ جاتا۔ پھر اُس کی ماں سے سوال کرتا۔ "کیا اسے
 پہلے بھی کبھی دانتوں میں درد ہوا ہے؟"
 میرا جواب دیتی نہیں۔"

وہ پھر سوچ میں پڑ جاتا اور اینجلا دوسری طرف منہ پھیر کر اپنی ہنسی ضبط کرنے کی
 کوشش کرتی۔ بشیر بن حسن کہتا۔ ہو سکتا ہے کہ دانت کی جڑ میں کوئی خرابی ہو لیکن ظاہر
 اس کے کوئی آثار نہیں۔ خیر میں ایک نئی دوا دیتا ہوں۔ اسے مسوڑھوں پر اچھی طرح لاؤ۔
 وہ نئی دوا دے کر چلا جاتا اور اینجلا اپنی ماں کی بدگمانی سے بچنے کے لئے دوا لے
 کر باہر کی طرف کھلنے والے درتچے کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور دوا کو دانتوں میں لگائے
 بغیر انگلی سے مسوڑھوں کی مالش کرتے ہوئے تھوکتا شروع کر دیتی۔ بعض اوقات وہ مسوڑھوں
 کو دبا کر تھوک کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا خون بھی نکال دیتی اور اس کی ماں یہ کہتی۔ "بیٹی!
 وہ کتنا ہی اچھا طبیب کیوں نہ ہو لیکن مذہبی تعصب سے پاک نہیں ہو سکتا۔"
 اینجلا فوراً یہ کہتی۔ "نہیں امی جان! مجھے ان کی دوا سے بہت آرام ہے۔"

جب میرا ادھر ادھر ہوتی اینجلا دل کھول کر منستی۔ ربیعہ اسے ملامت کرتی تو وہ
 سنجیدہ ہو کر کہتی۔ "ربیعہ میری بہن! تم بُرا نہ مانو میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی لیکن نہ جانے

اسے دیکھ کر مجھے شرارت کیوں موچھتی ہے۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ میں خود احمق بن رہی ہوں لیکن بعض حقائق بہت دلچسپ ہوتی ہیں۔ جب میرے دانت دیکھنے کے بعد وہ پریشان سا ہو کر سوچ میں پڑ جاتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں قہقہہ مار کر ہنسون اور۔۔۔ میرے ساتھ وہ بھی ہنس پڑے۔“

ربیعہ پریشان ہو کر کہتی: "اینجلا پگلی نہ بنو۔ اس کی دنیا تمہاری دنیا سے بہت مختلف ہے۔ وہ ایک بہت بڑا آدمی ہے۔ تمہیں اس کی عظمت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔"

اینجلا ایک قہقہہ لگاتے ہوئے کہتی: "ربیعہ تم خواہ مخواہ پریشان ہو جاتی ہو۔ میری بات پر یقین کرو، یہ صرف ایک مذاق تھا۔"

ایک شام ابو داؤد کی موجودگی میں بشیر ربیعہ کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ میرا نام لے کر کہا: "اینجلا کو گزشتہ رات پھر غنید نہیں آئی۔ آپ اس کے دانت توجہ سے دیکھیں۔"

ابو داؤد نے اپنی بیوی کی تائید کی۔ بشیر نے کہا: "آج میں ایک نہایت مجرب دوا لایا ہوں۔ انشاء اللہ تین دن یہ دوا پینے کے بعد آپ کی بیٹی کی تکلیف جاتی رہے گی۔ یہ کہتے ہوئے بشیر نے شیشی سے دوا کا ایک گھونٹ پیالی میں ڈال کر اینجلا کو دیتے ہوئے کہا۔

"اسے پی لو۔"

"پینے کی دوا؟" اس نے حیران ہو کر سوال کیا۔

بشیر نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا: "ہاں یہ پینے سے دانتوں کی

تکلیف ضرور جاتی رہے گی۔"

اینجلا نے جھنجکتے ہوئے پیالی منہ کو لگائی۔ لیکن دوا چکھتے ہی فوراً کھونکنے کے بعد چلا اٹھی۔

"یہ بہت کڑوی ہے میں نہیں پیوں گی۔"

بشیر نے اٹھ کر ڈانٹتے ہوئے کہا: "تمہیں پینا پڑے گی۔"

اُس نے بشیر کی غیر متوقع ڈانٹ سے مرعوب ہو کر کہا: "لیکن مجھے قے ہو جائے گی۔"

بشیر نے جواب دیا: "تو میں اور دوا دے دوں گا۔ میرے پاس یہ دوا کافی ہے۔"
 اینجلانے طعنانہ انداز میں کہا: "تو میں پی لوں۔"
 ابو داؤد نے کہا: "ہاں بیٹی پی لو۔ تمہارا فائدہ ہے اس میں۔"
 اینجلانے بدستور بشیر کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا: "کوئی نقصان تو نہیں ہوگا اس سے۔"

ابو داؤد نے یہ ہم ہو کر کہا: "بشیر بن حسن کی دوا سے نقصان؟ اینجلانے بالکل نادان ہو۔"
 اینجلانے ایک لمحہ کے تذبذب کے بعد ناقابل برداشت حد تک کڑوی دوا حلی میں اٹھل ل۔

بشیر نے مسکراتے ہوئے کہا: "یہ شیشی میں ہیں چھوڑے جاتا ہوں۔ اگر دانتوں میں دوبارہ تکلیف ہو تو اتنی دوا اور پی لینا۔ دانتوں کے علاوہ یہ معدے کے لئے بھی بہت مفید ہے۔ آج تمہیں بھوک بہت لگے گی۔"

بشیر اور ابو داؤد کے چلے جانے کے بعد اینجلانے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے ربیعہ کی طرف دیکھا۔ اور وہ ہنس پڑی۔

تھوڑی دیر منہ بسورنے کے بعد اینجلانہ خود بھی ہنس رہی تھی۔ اور میر یا پریشان سی ہو کر کہہ رہی تھی: "تم دونوں پاگل ہو۔"

اگلے دن میر یا اپنے خاوند کے سامنے بشیر بن حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی: "یہ طبیب واقعی بہت قابل ہے۔"

(۵)

یہ قلعہ ایک بلند ٹیلے پر واقع تھا۔ اس کی چار دیواری دو آدمیوں کے برابر اونچی تھی۔ دروازے والی دیوار کے ساتھ دو منزلہ مکانات تھے۔ پختی منزل میں سپاہیوں کی

کوٹھڑیاں اور بالائی منزل پر فوجی افسروں کی رہائش کے لئے مکانات تھے۔ اس دیوار کے سامنے دوسری دیوار کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے اصطبل تھے۔ تیسری طرف ایک مسجد تھی۔ اور چوتھی طرف پرانے مکانات کے کھنڈر تھے۔

بالائی منزل کے ایک سرے پر دو بہترین کمروں میں ابو داؤد اور اس کے بچوں کو جگہ دی گئی۔ وہ کمرہ جس میں ابو داؤد کی بیوی اور لڑکیوں کے بستر تھے کافی کشادہ تھا۔ اور اُس کی کھڑکیاں اور روشندان باہر کی طرف کھلتے تھے۔ مکانات کی یہ منزل چونکہ فصیل سے قریب آگنی بلندی پر تھی اس لئے ان کھڑکیوں میں سے سرسبز وادی اور اس وادی سے پرے حد نظر تک بلند پہاڑیوں کا ایک سلسلہ دکھائی دیتا تھا۔ وادی کے درمیان ایک پھوٹی سی ندی کا چمکتا ہوا پانی نظر آتا تھا۔

اس کمرے میں آمد و رفت کے دو دروازے ابو داؤد کے کمرے میں کھلتے تھے اور اس سے آگے ایک کشادہ برآمدہ تھا جس کا رخ صحن کی طرف تھا۔ ابو داؤد کے کمرے کے دائیں ہاتھ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں اُس کا زخمی کوچوان ٹھہرا ہوا تھا اور اُس کے بائیں ہاتھ بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن کے کمرے تھے اور اُن سے آگے فوج کے عہدہ داروں کی کوٹھڑیاں تھیں۔

بدر بن مغیرہ کو دن کے وقت ابو داؤد کے پاس بیٹھنے کے لئے بہت کم فرصت ملتی تھی۔ وہ علی الصبح گھوڑے پر سوار ہو کر سرحدی چوکیوں کی دیکھ بھال کے لئے نکل جاتا۔ بعض اوقات وہ رات کے وقت بھی باہر رہتا لیکن اُس کی غیر حاضری میں بشیر بن حسن پوری توجہ سے ابو داؤد کی میزبانی کے فرائض انجام دیتا۔ بشیر ایک بلند پایہ طبیب ہونے کے علاوہ ایک اعلیٰ درجہ کا عالم بھی تھا۔ وہ تاریخ، فلسفہ، اور دوسرے علوم میں ابو داؤد کے کمال سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ دن کے وقت اُسے بھی دو دو گھنٹے تک مریضوں کو دیکھنے کے لئے جانا پڑتا۔ لیکن شام کو وہ اپنی قیام گاہ پر پہنچ جاتا اور سونے سے پہلے ابو داؤد کے ساتھ مختلف موضوعات

پر بحث کرتا رہتا۔ وہ کھانا بھی ابو داؤد کے ساتھ اس کے کمرے میں کھاتا۔

بدر بھی جب اپنے دور سے واپس آتا تو فرصت کے لمحات ابو داؤد کے ساتھ گزارتا۔

رات کے وقت بشیر اور ابو داؤد دیر تک باتیں کرتے رہتے لیکن بدر کھانے کے بعد زیادہ دیر باتیں کرنے کا عادی نہ تھا۔ وہ عام طور پر تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ربیعہ، اینجلا اور میرا اپنے کمرے میں کھانا کھا لیتیں۔

ربیعہ کے کان دوسرے کمرے میں ابو داؤد کے ساتھ باتیں کرنے والوں کی طرف صرف

اس وقت متوجہ ہوتے جب اسے بدر کی آواز سنائی دیتی۔ اُسے رو بھکت دیکھ کر بدر نے تیمارداری کے لئے اس کے کمرے میں آنا ترک کر دیا تھا۔ تاہم جب بھی وہ ابو داؤد کے کمرے میں داخل ہوتا اس کا پہلا سوال یہ ہوتا: "آپ کی بیٹی کیسی ہے؟"

ربیعہ یہ محسوس کرتی کہ اس کی ابتدائی توجہ محض رحم کے جذبات کی پیداوار تھی۔ اینجلا ہر ماحول میں بے تکلف ہو جانے کی عادی تھی جب دوسرے کمرے میں ابو داؤد کے ساتھ صرف بشیر ہوتا وہ اپنے باپ سے کوئی بات پوچھنے یا کسی اور بہانے سے دروازہ کھول کر ان کے کمرے میں چلی جاتی۔ کڑوی دوا چکھنے کے بعد اُسے دانتوں کی تکلیف سے مکمل آرام ہو چکا تھا۔ تاہم نوجوان طبیب کے ساتھ اس کی دلچسپی بڑھتی گئی۔

ابو داؤد کا کوچران تندہ ست ہو چکا تھا۔ ایک رات جب دوسرے کمرے میں بدر اور

بشیر، داؤد کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ابو داؤد نے کہا: "میرا کوچران واپس اپنے وطن جانا

چاہتا ہے۔ اس کے بال بچے قسطہ میں ہیں اور میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں

غزناطہ جاتے ہی تمہیں واپس بھیج دوں گا۔ یہ کبھی بال بچوں سمیت قسطہ سے ہجرت کرنا چاہتا

تھا لیکن میری عجلت کی وجہ سے یہ انہیں اپنے ساتھ نہ لاسکا۔ اب غزناطہ پہنچنے میں ہمیں دیر

لگ جائے گی اور اس بے چارے کو اپنے بچوں کے متعلق بہت تشویش ہے۔ اس لئے میرا

خیال ہے کہ اسے یہیں سے رخصت کروں۔ کیا آپ اس کے سفر کا بندوبست کر دیں گے؟"

بدر نے جواب دیا: "میرے آدمی اسے سرحد کے پار پہنچا دیں گے لیکن یہ ضروری ہے کہ میری سرگرمیوں کے متعلق یہ وہاں جا کر کوئی بات ظاہر نہ کرے۔"

ابو داؤد نے جواب دیا: "کسی اور آدمی کے متعلق کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی لیکن اس کے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بیس سال سے میرے پاس ہے اور میں اسے بارہا آزما چکا ہوں۔ یہ میری زندگی کے ہر راز سے واقف ہے اور اگر یہ میرا ایک راز بھی میرے دشمنوں پر ظاہر کر دیتا تو آج آپ مجھے یہاں نہ دیکھتے۔ اب بھی میں اپنی آدمی دولت اس کے گھر چھوڑ آیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ بیس سال کے بعد بھی مجھے اپنی امانت واپس مل جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی عیسائی بیوی اور لڑکی کی نسبت اس پر زیادہ اعتماد کرتا ہوں اور میرے ساتھ اس کی عقیدت میری کسی ذاتی خوبی کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ مجھے عیسائی حکومت کا بدترین دشمن سمجھ کر مجھ پر جان دیتا ہے۔ جب یہ چودہ برس کا تھا اس کے باپ کو قسطلہ کے گورنر نے بغاوت کے الزام میں پھانسی پر لٹکا دیا تھا اور اس نے وہ دلخراش منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آپ نے نہیں جانتے کہ آپ کے ساتھ اسے کتنی عقیدت ہے۔ آج یہ مجھ سے یہ کہتا تھا کہ اگر خدا نے چاہا تو میں اپنے بچوں کو میرے پاس غرناطہ میں چھوڑ کر آپ کے مجاہدوں کی فوج میں شامل ہو جاؤں گا۔"

بدر بن مغیرہ نے کہا: "مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں لی بہر حال وہ جب چاہے گا اسے میرے آدمی سرحد کے پار پہنچا دیں گے۔"

"اسے اپنے بچوں کے متعلق بہت پریشانی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے مسیح ہی بھیج دوں۔"

اینبلا اور میریادہ واز سے سے کان لگا کر یہ باتیں سن رہی تھیں اور دونوں حیران ہو کر ایک دوسری کی طرف دیکھ رہی تھیں۔

بدر بن مغیرہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابو داؤد اور بشیر حسب معمول دیر تک باتیں

کرتے رہے۔ میرا بیقراری کے ساتھ اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اُسے معلوم تھا کہ قسطہ میں کوچوان کی بیوی ہے نہ بچتے ہیں۔ اُسے اس بات کی پریشانی تھی کہ ابو داؤد کہیں سچ مچ عیسائی حکومت کا دشمن ثابت نہ ہو۔

اُدھی رات کے قریب ربیعہ کی آنکھ لگ گئی لیکن اینجلا اور میرا دیر تک آپس میں کھسکھس کر رہیں۔ میرا بار بار اپنے شوہر کے یہ الفاظ دہرا رہی تھی کہ وہ اپنی عیسائی بیوی اور لڑکی کا نسبت اپنے کوچوان کو زیادہ قابل اعتماد سمجھتا ہے۔

اینجلا نے اُسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا: "ابا جان اتنے نادان نہیں کہ انہیں یہ بھی احساس نہ ہو کہ ہم اس کمرے میں اُن کی باتیں سن سکتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کسی مصلحت کی بنا پر ایسا کہا ہے۔"

میرا نے کہا: "بیٹی مجھے ایک مسلمان پر کوئی اعتبار نہیں۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ اپنا وطن چھوڑنے میں غلطی کی ہے۔ اب اگر یہ غرناطہ جا کر ہمیں زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش کرے تو ہم کیا کر سکتی ہیں؟"

"اتنی میں جانتی ہوں، ابا کو مذہب کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ جب آپ اُن سے ان باتوں کی وجہ پوچھیں گی تو آپ کی تسلی ہو جائے گی۔"

"اور جب تک میری تسلی نہیں ہوتی مجھے غنیمت نہیں آئے گی۔ لیکن یہ طیب اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ خدا دروازہ کھول کر اپنے باپ کو آواز دو۔"

"نہیں ماں ٹھہرو! وہ ابھی اُٹھ کر چلے جائیں گے۔"

جب بشیر چلا گیا تو میرا دروازہ کھول کر ہوا کے سرکش جھونکے کی طرح ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئی اور ابو داؤد پر برس پڑی۔ "ہاں تو میں اور میری بیٹی تمہارے کوچوان سے بھی گئی گزری ہیں۔"

"آہستہ بولو۔ ابو داؤد نے جلدی سے اُٹھ کر باہر کی طرف کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔"

”مجھے معلوم تھا کہ تم میری باتیں سن کر آپے سے باہر ہو جاؤ گی لیکن خدا کے لئے تھوڑی دیر صبر کرو۔ میں ابھی تمہاری تسلی کر دوں گا۔ چلو میں تمہارے کمرے میں چلتا ہوں۔ یہاں باتیں کرنا ٹھیک نہیں۔ کوئی سن لے گا تو ہم سب کے لئے بُرا ہوگا۔“

”خدا کے لئے ہمیں قسطہ بھیج دو۔ معلوم نہیں کہ غرناطہ پہنچ کر تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ تم ہمیں وہاں کسی تاجر کے ہاتھ بیچ ڈالو۔“

ابو داؤد نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے اس کا منہ بند کیا اور اسے دھکیلتا ہوا اس کے کمرے میں لے آیا اور جلدی سے دروازہ بند کرنے کے بعد بولا۔ ”ایجنلا تم یہ دیکھو بند کر دو۔ کسی نے ہماری باتیں سن لیں تو ہماری خیر نہیں۔“ پھر وہ میرا سے مخاطب ہو کر بولا۔

”خدا کے لئے تھوڑی دیر خاموش رہو۔ میں ابھی تمہاری تسلی کر دیتا ہوں۔“

اس ہنگامے نے ربیعہ کو نیند سے بیدار کر دیا تھا اور وہ لیٹے لیٹے آنکھیں بند کئے ان کی باتیں سن رہی تھی۔

جب ایجنلا نے کمرے کے در پہچے بند کر دئے تو ابو داؤد نے میرا کو دھکیل کر اس کے بستر پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ ”بیوقوف عورت! میں تمہیں غرناطہ کی ملکہ بنانے کے خواب دیکھ رہا ہوں اور تم ہم سب کی تباہی کے اسباب پیدا کر رہی ہو۔ ٹھہرو! میں کوچوان کو ابھی یہاں بلا لانا ہوں۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں رہا تو شاید وہ تمہاری تسلی کر سکے۔“

میرا نے قدرے نادم ہو کر کہا۔ ”لیکن تم ہمیں ان کے سلنے ذلیل کیوں کرتے ہو۔“

ابو داؤد نے کہا۔ ”میرا غور سے سنو! کوچوان کو میں ایک اہم مہم پر بھیج رہا ہوں اور اس مہم میں کامیابی کے بعد شاید میں یہاں سے غرناطہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دوں۔ فرط نیند کی نظر میں میری یہ کامیابی غرناطہ کی فتح سے کم نہیں ہوگی اور جب وہاں جا کر میں یہ کہوں گا کہ اس مہم میں تم بھی میرے ساتھ شریک تھیں تو مجھے یقین ہے کہ ملکہ ازابلہ کی نظر میں تمہارا درجہ قسطہ کی تمام عورتوں سے بلند ہوگا۔“

میرا نے ذرا اور نرم ہو کر پوچھا۔ ”یہاں آپ کس کامیابی کی توقع رکھتے ہیں؟“
 ابو داؤد نے جواب دیا۔ ”تمہیں معلوم ہے کہ فرڈینیٹڈ سرحدی عقاب کو ابو الحسن سے
 زیادہ خطرناک سمجھا ہے۔“

”تو آپ اُسے؟“

”ہاں اگر قسطلہ والوں کو یہ علم ہو جائے کہ سرحدی عقاب اپنے پہاڑوں اور جنگلوں کی
 بجائے اس غیر محفوظ قلعے میں رہتا ہے تو وہ فوراً یہاں حملہ کر دیں گے اور کوچوان کو میں اسی
 مقصد کے لئے بھیج رہا ہوں۔ میں تمہاری تسلی کے لئے اُسے یہاں بلا لیتا ہوں۔“
 میرا نے کہا۔ ”نہیں مجھے اب اس کی تصدیق کی ضرورت نہیں لیکن انہوں نے ہم پر
 احسان کیا ہے۔“

ابو داؤد نے کہا۔ ”مجھے یقین ہے کہ وقت آنے پر ہم بھی ان پر احسان کر سکیں گے۔
 جب ہماری طرح یہ لوگ ہمارے رحم و کرم پر ہوں گے تو میں بھی فرڈینیٹڈ سے ان کی جان بخشی
 کروا سکوں گا۔“

ربیعہ کا دل دھڑک رہا تھا لیکن اُسے آنکھیں کھول کر دیکھنے یا بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔
 اینبلا بولی۔ ”ابا جان! انہوں نے ہماری جان بچائی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ اتھارائی
 خلوص سے پیش آتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے بدترین دشمن بھی ہوتے تو بھی وہ ہماری طرف سے
 نیک سلوک کے حقدار تھے اور وہ طبیب جو صبح و شام ربیعہ کو دیکھنے کے لئے آتا ہے سرحدی
 عقاب کا ساتھی ہونے کے باوجود ایک فرشتہ ہے۔ کیا آپ اس کے تمام احسان فراموش
 کر دیں گے۔“

ابو داؤد نے جواب دیا۔ ”اس کے متعلق شاید تمہیں معلوم نہیں کہ فرڈینیٹڈ اپنی ادھی دولت
 دے کر بھی اُس کی دوستی خریدنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ فرڈینیٹڈ کے پاس وہ
 قید ہو کر جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں طلائی بیڑیاں ہوں گی اور فرڈینیٹڈ اپنے وزیر اعظم بالارڈ

بشپ سے کہے گا کہ میرے معزز قیدی کے لئے اپنی کرسیاں خالی کر دو۔ وہ ایک بار قسطلہ کے
 وئی عہد کو موت کے منہ سے بچا چکا ہے۔ قرطبہ اور اشبیلیہ کے گورنر اُسے اپنا محسن خیال کرتے
 ہیں۔ وہ ان شہر سبندوں کے ساتھ رہ کر اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس کا صحیح مقام یہ
 جنگل نہیں بلکہ قسطلہ کا شاہی دربار ہے اور میں اس کے احسانات کے بدلے، اس کی مرضی کے
 خلاف بھی اُسے وہاں لے جاؤں گا۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ ملکہ اور بادشاہ سے سفارش
 کر کے بدر بن مغیرہ کی گزشتہ تمام خطائیں معاف کروا سکے گا۔“

اینبلا کا خوف مسرت میں تبدیل ہونے لگا۔ اب تک اُسے یہی خیال تھا کہ بشیر کے ساتھ
 اس کی عارضی دلچسپی یہاں سے رخصت ہونے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اور یہ حادثہ جس کے
 باعث وہ تھوڑی دیر کے لئے ایک جگہ جمع ہو گئے تھے، کسی دن ماضی کا ایک حسین خواب
 بن کر رہ جائے گا۔ بشیر کو پہلے نظر دیکھنے کے ساتھ ہی اُس نے اپنے دل میں عجیب و غریب بھر دکنیں
 محسوس کی تھیں، لیکن اُس کے ساتھ بے تکلف ہوتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ ہی محسوس کرتی کہ
 اُن کے درمیان ایک ناقابلِ تسخیر دیوار حائل ہے۔ اس ماحول میں اس کی بھٹکتی ہوئی نگاہوں
 کے لئے بشیر محض ایک عارضی مرکز تھا۔ اینبلا کی حالت اُس مسافر سے مختلف نہ تھی جو اپنے
 اپنے راستے پر چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لئے اُس کی شاخ پر
 چھپانے والے پرندے کی طرف متوجہ ہو جائے اور اُس کے پُر سرور نغموں سے متاثر ہونے
 کے باوجود اُس کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ وہ اُسے اپنا ہم سفر بنا سکے گا۔

لیکن ابو داؤد کی اس گفتگو نے اُس کے سامنے غور و فکر کا ایک نیا راستہ کھول دیا۔ اس
 کے سامنے مستقبل کے دھندلیوں میں کئی چراغ جگمگا اٹھے۔ آج وہ پہلی بار یہ سوچ رہی تھی کہ
 بشیر کے ساتھ اس کی ملاقات ایک ایسا حادثہ نہیں جس کا نتیجہ کچھ نہ ہو۔ چند لمحات کے لئے وہ
 اس کمرے سے نکل کر بہت دُور جا رہی تھی۔ وہ بشیر بن حسن کو قسطلہ کے شاہی دربار میں دیکھ
 رہی تھی۔ وہ اپنے گھر میں اُس کے سامنے عیسائیت کی تبلیغ کر رہی تھی۔ پھر قسطلہ کا لارڈ

بشپ اسے اصطباغ دے رہا تھا اور اس کے بعد وہ دونوں لہکتے گرجے میں مریم مقدس کی مورت کے سامنے دائمی رفاقت کا عہد باندھ رہے تھے اور گرجے کا پادری ان پر مقدس پانی چھڑک رہا تھا۔

یہ خیالی مسرت اینجلا کے لئے ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا نہ تھا بلکہ ایک طوفان تھا جو اُسے ایک لمحہ کے اندر ہی اندر اڑا کر کہیں سے کہیں لے گیا۔

لیکن ربیعہ کی حالت اس سے مختلف تھی۔ اس کے خیالات کے محل مسمار ہو رہے تھے۔ وہ بدر بن مغیرہ کو فریڈینڈ کے دربار میں پابہ جولان دیکھ رہی تھی۔ اُس کی اُمید کے کنول مرجھا رہے تھے۔ اُس کے آسمانِ تمنا کے روشن ستارے ایک ایک کر کے گر رہے تھے۔ وہ بالیسیوں کے بوجھ کے نیچے دبی جا رہی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ چلانا چاہتی تھی کاش وہ چلا سکتی۔ کاش وہ کچھ کہہ سکتی لیکن اس میں آنکھیں کھول کر دیکھنے کی تاب نہ تھی۔

ابو داؤد نے کہا: میں کو چوان کو بلاتا ہوں۔

میرا نے جواب دیا: مجھے آپ پر اعتبار ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو پریشان کیا۔

میں اُسے چند باتیں سمجھانا چاہتا ہوں اور ایسی باتوں کے لئے یہ مکرہ محفوظ ہے۔

تھوڑی دیر بعد ابو داؤد کو چوان کو اپنے ساتھ لے آیا اور دروازہ بند کرنے کے بعد

آہستہ سے بولا: ربیعہ! ربیعہ!

ربیعہ کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اُس نے کہا: یہ اچھا ہے کہ ربیعہ سو رہی ہے۔

اینجلا اس پر کوئی بات ظاہر نہ کرنا: پھر تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد وہ کو چوان کی طرف متوجہ

ہوا: یاد رکھو! اگر تم فریڈینڈ کا ٹائٹ بنا چاہتے ہو تو یہ کام ہوشیاری سے کرو۔ تمہاری غذا

سی کو تاہی یہ سارا کام بگاڑ دے گی۔ تم سیدھے سرحد کے گورنر کے پاس جاؤ اور اس کو یہ کہو

کہ میں نے محض احتیاط کی وجہ سے تمہیں کوئی تحریر نہیں دی۔ میں کوشش کروں گا کہ جمعہ

کی رات سرحدی عقاب یہیں رہے۔ اگر وہ یہاں ہوا تو اس کمرے کی دونوں کھڑکیوں میں شمعیں روشن ہوں گی جسے ہمارے آدمی بہت دور سے دیکھ سکیں گے۔ اگر صرف ایک کھڑکی میں شمع روشن ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہاں نہیں ہے اور حملہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر رات طوفانی ہو تو بھی ہم یہ کوشش کریں گے کہ وہ ایک یا دو کھڑکیوں سے ہمارے کمرے میں روشنی دیکھ کر صورتِ حال کا اندازہ کر سکیں۔ اگر ہمارے کمرے کی دونوں کھڑکیاں بند ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آگے بڑھنے میں خطرہ ہے۔ انہیں یہ بھی بتادینا کہ اگر وہ اس روز ادھی رات سے قبل اس قلعے پر حملہ نہ کر سکے تو ہم سب کی زندگیاں خطرے میں ہیں گی اور دیکھو سرحد عبور کرنے سے پہلے کسی پر یہ راز ظاہر نہ کرنا۔ تم نے آج تک شاید کسی کو چوان کو بادشاہ کا ٹائٹل بننے نہ دیکھا ہو لیکن اس مہم کو سر انجام دینے کے بعد تم فرطیند کے دربار میں اپنے لئے عزت کی بڑی کرسی خالی پاؤ گے۔“

کوچوان نے کہا۔ ”میں آپ کا ادنیٰ اعلام ہوں۔ اگر میرا آقا غرناطہ کا بادشاہ بن جائے تو میں فرطیند کا ٹائٹل بننے پر اس کے دروازے کا پریدار بننے کو ترجیح دوں گا۔“

ابو داؤد نے جواب دیا۔ ”مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ اگر میرے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا تو میرے وفاداروں میں سب سے پہلے تمہارا گھر روشن ہوگا۔ تم میرے محل کے پرے دار نہیں ہو گے بلکہ میرے دربار کی زینت بنو گے۔ تم میرے تاج کا ہیرا بنو گے۔ اب جا کر آرام کرو علی الصبان تمہارے سفر کا بندوبست ہو جائے گا۔ انہیں یہ ضرور بتانا کہ قلعے کی حفاظت کے لئے پچاس سے زیادہ سپاہی نہیں ہوتے۔“

کوچوان کے چلے جانے کے بعد ابو داؤد نے پھر ایک بار تمام دروازے بند کئے اور کرسی پر بیٹھ کر دیر تک ایسجا اور میریا سے باتیں کرتا رہا۔ یہ تینوں اپنے آپ کو غرناطہ کا بادشاہ، ملکہ اور شہزادی تصور کر کے مستقبل کے عیش و آرام کے اسباب و وسائل پر بحث کر رہے تھے۔ لیکن ربعیہ کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ کوچوان کے ساتھ ابو داؤد کی

گفتگو اسے پریشانی کی آسری حد تک پہنچا دینے کے لئے کافی تھی۔ وہ یہ جان چکی تھی کہ سرحدی عقاب کے لئے ایک نفس تیار ہو رہا ہے۔ اُس کی زندگی خطرے میں ہے۔ وہ اس نفس کو توڑنا اور اس خطرے کو روکنا چاہتی تھی۔ اپنے باپ کی بدطینتی اور خباثت کا اُسے کج پہلی بار علم ہوا تھا اور اب وہ زیادہ شدت کے ساتھ یہ محسوس کرنے لگی کہ وہ اس دنیا میں بالکل تنہا ہے۔ صرف سرحد کا یہ باغی نوجوان ایک ایسا شخص تھا جسے بہت کم جاننے یا سمجھنے کے باوجود بھی وہ یہ خیال کرتی تھی کہ وہ اس سے قریب تر ہے۔

چند ساعت پہلے جب وہ سمجھتی تھی کہ سرحد کا یہ باغی دنیا کے ہر خطرے سے آزاد ہے تو اُس کے متعلق سوچتے ہوئے وہ ایک خوف سا محسوس کرتی۔ ایک ایسا خوف جو ایک سیاح کسی پہاڑ کی دلکش لیکن خطرناک بلندیوں کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ بدین منیرہ اس کے لئے بیک وقت ایک دلکش نخلستان ایک آتش فشاں پہاڑ اور قربت کا ایک ہیب تو وہ تھا۔ اس سے قربت کا تصور اس کے لئے جس قدر دلکش تھا، اسی قدر خوفناک تھا۔ لیکن اب اپنے باپ کے ناپاک ارادوں سے واقف ہونے کے بعد بدین منیرہ اس کے لئے ایک ایسا درخت تھا جس کی شاخوں پر وہ اپنا آشیانہ بنا چکی تھی۔ یہ درخت حوادث کے سیلاب کا سامنا کر رہا تھا۔ وہ اسے گرنے سے بچانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں سے سخت زمین کھود کر اُس کی جڑوں پر مٹی ڈالنا چاہتی تھی۔

ابو داؤد اپنے کمرے میں چلا گیا اور ربیعہ چند بار کروٹیں بدلتے کے بعد سو گئی۔

ربیعہ کا اضطراب

(۱)

صبح جب ربیعہ کی آنکھ کھلی تو اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اس کے سر میں درد تھا کھریوں کے راستے باہر کی روشنی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ اس نے بستر سے اٹھ کر جلدی جلدی وضو کیا اور نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ بستر پر لیٹ گئی۔

بشیر بن حسن ایک دن قبل اس کی پٹیاں کھول کر یہ مشورہ دے چکا تھا کہ اب اس کی ٹانگ کی رہی سہی تکلیف چلنے پھرنے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ وہ صبح و شام قلعے سے باہر تھوڑی دور گھوم آیا کرے۔ تازہ ہوا میں سیر کرنے سے اس کی جسمانی کمزوری بہت جلد رفع ہو جائے گی۔

ابو داؤد کو چوان کو رخصت کرنے کے بعد سیدھا اس کے کمرے میں آیا اور بولا: "ربیعہ! تم ابھی تک سو رہی ہو جاؤ اینجلا کے ساتھ تھوڑی دور ٹہل آؤ۔ میرا تم بھی ان کے ساتھ جاؤ؟"

جب ربیعہ نے کوئی جواب نہ دیا تو اینجلا نے کہا: "شاید ربیعہ کی طبیعت خراب ہے"

چلے اتی! ہم گھوم آئیں۔“

میریا نے کہا۔ ”شام کو دیکھا جائے گا۔ اس وقت میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔“

ابوداؤد نے ربیعہ سے پوچھا۔ ”کیوں ربیعہ! کیا بات ہے؟ اچھی ہونا؟“

ربیعہ نے ابوداؤد کی طرف دیکھے بغیر منموم آواز میں جواب دیا۔ ”اچھی ہوں۔“

”نہیں نہیں، تمہاری آنکھیں سُرخ ہیں۔“

”میرا جسم ٹوٹ رہا ہے۔“

ابوداؤد نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ”شاید تمہیں بخار ہے۔ میں ابھی طبیب

کولانا ہوں۔“

ربیعہ نے کہا۔ ”نہیں نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ طبیب کولانے کی ضرورت نہیں۔“

آبا جان! میں چاہتی ہوں کہ ہم فوراً غرناطہ چلے جائیں۔“

”لیکن جب تک تم اچھی طرح چل پھر نہیں سکتیں، ہمیں یہاں ٹھہرنا پڑے گا۔“ ابوداؤد

یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور کھوڑی دیر بعد بشیر بن حسن کو اپنے ساتھ لے آیا۔

بشیر نے ربیعہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ”میرے خیال میں

رات آپ سو نہیں سکیں۔“

ابوداؤد، میریا اور اینجلانے چونک کر ربیعہ کی طرف دیکھا اور اس نے ان کی پریشانی

کی وجہ سمجھتے ہوئے کہا۔ ”میرے خیال میں میں آج رات بہت زیادہ سوئی ہوں۔ صبح جب

میری آنکھ کھلی تو میرا سر حاکر پار ہا تھا۔“

”ممکن ہے کہ زیادہ سونے سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہو۔ بہر حال میں دوا بھیج

دیتا ہوں۔ شام کے وقت آپ سیر کے لئے ضرور جائیں۔ بستر پر پڑے رہنے سے بھی جسم پر

بُرا اثر پڑتا ہے۔“

ابوداؤد نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ”میری بیوی کو بھی سردی کی تکلیف ہے۔“

بشیر نے میرا کی نبض دیکھنے کے بعد کہا۔ "آپ بھی اگر بہت کم نہیں سوئیں تو ربیعہ کی طرح بہت زیادہ سوئی ہوں گی۔ آپ اگر صبح و شام سیر کے لئے جایا کریں تو ایسی تکلیف نہیں ہوگی۔" مجھے تو واقعی نیند نہیں آتی۔

بشیر نے کہا۔ "میں دوا بھیج دیتا ہوں۔ جب بھی آپ کو کم خوابی کی تکلیف ہو اس میں سے ایک گولی کھا لیا کریں۔"

شام تک ربیعہ کی طبیعت ٹھیک ہو چکی تھی۔ ابو داؤد کے اصرار پر وہ اینجلا اور میرا کے ساتھ میرے لئے چلی گئی۔ وہ ابھی تک ایک ٹانگ پر زیادہ بوجھ دے کر چلتی تھی۔ قلعے سے باہر بشیر بن حسن کو دیکھ کر واپس آ رہا تھا۔ اُس نے اُنہیں دیکھ کر گھوڑا روکا اور کہا۔ "اگر آپ دونوں ٹانگوں پر یکساں بوجھ ڈالنے کی کوشش کریں تو پر سوں تک آپ اچھی طرح چلنے لگیں گی۔ آج زیادہ دُور نہ جائیں۔"

اینجلا نے کہا۔ "نیچے وادی میں ہمیں کوئی خطرہ تو نہیں؟"

بشیر نے کہا۔ "مہانوں کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔"

(۲)

دو دن اور ربیعہ سخت بے چین رہی۔ وہ بدر بن مغیرہ کو آنے والے خطرات سے باخبر کرتا چاہتی تھی لیکن اُسے یہ بھی احساس تھا کہ وہ یہ کام اپنے باپ کو خطرے میں ڈالے بغیر نہیں کر سکتی۔ انتہائی غور و فکر کے بعد اُس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی اور اُس نے بدر بن مغیرہ سے ملنے کا ارادہ کیا۔ بشیر بن حسن سے پوچھنے پر اُسے پتہ چلا کہ وہ جنگل میں اپنے مستقر کی طرف گیا ہوا ہے اور شاید دو دن تک واپس نہیں آئے گا۔ جمعہ میں چار دن باقی تھے اور ربیعہ ہر نماز کے بعد یہ دُعا کرتی رہی کہ وہ چند دن اور اپنے مستقر سے نہ لوٹے۔

دو دن وہ اینجلا کے ساتھ صبح و شام سیر کے لئے جاتی رہی۔ پہلی صبح بشیر بن حسن جو

بہت سویرے سیر کے لئے نکل جاتا تھا انہیں واپس آتے ہوئے ملا۔ اینجلا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا: "دیکھئے اب تو ربیعہ کی چال میں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔"

بشیر نے جواب دیا: "بس اب چلنے پھرنے سے ٹھیک ہو جائیں گی۔"

اینجلا نے کہا: "اباجان کہتے تھے کہ وہ ہفتہ کے روز یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔"

"ہاں! ہم نے غرناطہ سے آپ کے سفر کے لئے نئی بگھی منگوائی ہے۔"

"آپ اس ویرانے میں پریشان نہیں ہوتے؟" اینجلا نے ذرا جرات سے کام لیتے ہوئے سوال کیا۔

"میں شہروں میں انسانوں کی بھڑک کو پسند نہیں کرتا۔"

"آپ بہت سویرے سیر کو جاتے ہیں۔"

"ہاں بہت سویرے اٹھنے کا عادی ہوں۔"

بشیر بن حسن یہ کہہ کر چل دیا اور اینجلا کچھ دیر مڑ کر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ ربیعہ نے کہا: "چلو اینجلا۔"

اینجلا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور قدرے نادام سی ہو کر بولی: "ربیعہ کیا تمہارے خیال میں یہ ایک دل چسپ آدمی نہیں؟"

ربیعہ نے جواب دیا: "اگر وہ بھی تمہارے متعلق یہی خیال کرے تو مجھ کو افسوس ہو گا! اینجلا زندگی میں تمہارا راستہ اس کے راستے سے بہت مختلف ہے۔ یہ دو متوازی لکیریں ہیں جو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتیں۔"

اینجلا نے اپنی پریشانی کو سنسی میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا: "ربیعہ کیا تم پہ سمجھتی ہو کہ مجھے تمہارے ہم مذہب طبیب کے ساتھ محبت ہو گئی ہے؟"

"نہیں اینجلا! محبت تمہارے بس کی بات نہیں۔ مجھے یہ تسلی ہے کہ تم اس مقدس جذبے سے محروم ہو لیکن کانٹوں میں الجھنے سے فائدہ نہیں۔ بعض کانٹے بہت عجیب ہوتے ہیں۔"

اُچھنے والے کا دامن تار تار ہو جاتا ہے اور اُسے خبر تک نہیں ہوتی۔“

”ربیعہ! ربیعہ! تمہارا خیال غلط ہے۔ میں محبت کے جذبے سے محروم نہیں۔ میں جس کسی کو اپنے دل کا مالک بناؤں گی تو اس کے لئے سب کچھ قربان کر دوں گی۔ لیکن وہ ایسا انسان نہیں ہوگا جو میرا ہم مذہب نہ ہو، جسے شہروں سے نفرت ہو۔ میں اتنی احمق نہیں کہ برف کے تودے میں آگ کی چنگاری تلاش کروں۔ اگر میں نے بشر میں کوئی دلچسپی لی ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ تمہارا معالج ہے۔ اگر تم بُرا مانتی ہو تو میں اُس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھوں گی۔ میں آئندہ تمہارے ساتھ سیر کے لئے بھی نہیں آؤں گی۔“

ربیعہ نے کہا۔ ”نہیں نہیں اینجلا! میں مذاق کر رہی تھی۔“

(۳)

ربیعہ کی بیقراری میں آٹے دن اضافہ ہو رہا تھا۔ جمعے میں دو دن باقی تھے۔ ربیعہ نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی تو اینجلا ہاتھ منہ دھو کر سیر کے لئے تیار کھڑی تھی۔ میرا ہر رات سونے سے پہلے یہ کہا کرتی تھی کہ میں بھی صبح سیر کے لئے تمہارے ساتھ چلوں گی لیکن جب صبح اُسے جگایا جاتا وہ دردِ دہریا کسنی اور تکلیف کا بہانہ کر کے پڑی رہتی۔ تاہم جانے سے پہلے وہ اینجلا کو یہ ہدایت ضرور کرتی کہ بیٹی بہت دُور نہ جانا، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔

آج بھی ربیعہ اور اینجلا نے اتمامِ حجت کے لئے اُسے جگایا لیکن جب وہ اُٹھنے کی بجائے کروٹ بدل کر پھر سو رہی تو اینجلا نے اپنے دل میں ایک طرح کی خوشی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ”چلو ربیعہ آج ہم وادی عبور کر کے اس پہاڑی پر چڑھیں گی۔“

یہ پہاڑی وہی تھی جہاں بشر نے نامِ طور پر سیر کے لئے جایا کرتا تھا۔ وادی کے گھنے درختوں میں سے گزرنے اور ندی عبور کرنے کے بعد پہاڑی کی چڑھائی میں ربیعہ اینجلا کی تیز رفتاری کا ساتھ نہ دے سکی۔ اُس نے قریباً ایک تہائی بلندی پر پہنچ کر کہا۔ ”اینجلا میں تھک گئی ہوں۔“

اگر تمہیں شوق ہے تو تم اُد پر تک ہو آؤ۔ میں یہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کرتی ہوں۔“
 ” بہت اچھا، میں ابھی آ جاؤں گی۔“ ایخلائیہ کہہ کر بھاگتی ہوئی پہاڑی پر چڑھنے لگی۔
 اس نے راستے میں بشیر کو نہیں دیکھا تھا اور اسے یہ اُمید تھی کہ وہ اس وقت پہاڑی کی چوٹی پر موجود ہوگا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔

ربیعہ ایک پتھر پر بیٹھ کر دیر تک ایخلائیہ کی طرف دیکھتی رہی۔ جب وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو وہ نیچے وادی کا دلکش منظر دیکھنے لگی۔ اچانک اُسے اپنے دائیں ہاتھ کچھ فاصلے پر ایک سوار دکھائی دیا۔ گھوڑا اپنی مرضی سے آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور سوار بلند آواز سے عربی زبان میں ایک گیت گارہا تھا۔ سوار کی سفید قبا دیکھ کر ربیعہ کا دل دھوکے لگا اور وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد وادی کی طرف چل پڑی۔ اُسے یہ غارتہ تھا کہ اگر سوار ندی کے کنارے پہنچ گیا تو وہ اس کا راستہ نہیں روک سکے گی۔ اُس نے کچھ فاصلہ معمولی رفتار سے طے کیا لیکن درختوں کے قریب پہنچ کر وہ تیزی سے بھاگنے لگی اور ندی کے قریب پہنچ کر گڈنڈی کے کنارے ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ جوں جوں سوار کی آواز نزدیک سنائی دے رہی تھی اس کے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو رہا تھا۔

جب سوار بالکل قریب آ گیا تو ربیعہ نے چاہا کہ درخت کی اوٹ سے نکل کر گڈنڈی پر کھڑی ہو جائے لیکن اس کی ہمت نے ساتھ نہ دیا اور وہ درخت کی اوٹ سے سر نکال کر گڈنڈی کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا خیال صحیح نکلا۔ یہ سوار بدر بن مغیرہ کے سوا کوئی دوسرا نہ تھا۔ اس کے سر پر خود کی بجائے سفید عمامہ تھا۔

باوجود اس بات کے کہ سرحدی عتاب اس کی طرف متوجہ نہ تھا، ربیعہ اُسے ایک نظر سے زیادہ نہ دیکھ سکی۔ جیسا، پریشانی اور احساس مرعوبیت کے باعث وہ ایک لمحہ کے لئے کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ لیکن جب وہ گزر گیا تو وہ کوتاہی فرض کے احساس سے چونک اُٹھی۔ اُس نے اپنے دل میں کہا: ”شاید ایسا موقع پھر نہ ملے۔ جمعہ میں صرف دو دن باقی ہیں۔“

”ٹھہریٹے! اس نے جلدی سے پگڈنڈی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔

لیکن شرم و حیا میں ڈوبی ہوئی منخیف سی آواز بدر بن مغیرہ کے کانوں تک نہ پہنچ سکی، وہ چند گز آگے جا چکا تھا۔ وہ زمین جس نے ایک لمحہ پیشتر ربیعہ کے پاؤں پکڑ رکھے تھے اب اسے ندی کی طرف دھکیل رہی تھی۔ وہ ندی کی طرف بڑھی۔ ہر قدم پر اس کی رفتار تیز ہو رہی تھی، یہاں تک کہ وہ بھاگنے لگی۔

”ٹھہریٹے! ٹھہریٹے! ٹھہریٹے! رنار کے ساتھ ربیعہ کی آواز بھی بلند ہوتی گئی۔ سوار نے مڑ کر دیکھا اور گھوڑے کی باگ کھینچ لی۔ ربیعہ کا چہرہ حیا سے تپا اٹھا اور اس کے پاؤں پھر ایک بار زمین سے پیوست ہو کر رہ گئے۔

بدر نے قدرے حیران ہو کر کہا۔ ”آپ — اکیلی“

ربیعہ فوراً کوئی جواب نہ دے سکی۔ بدر اپنا نیزہ زمین پر گاڑ کر گھوڑے سے اتر اور

قدرے توقف کے بعد بولا۔ ”آپ پریشان ہیں، آپ نے مجھے آواز دی تھی“

ربیعہ نے جھجکتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ بدر کی مسکراہٹ میں تشویش،

ہمدردی اور شفقت پا کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس نے گھٹی ہوئی

آواز میں کہا۔ ”میں — میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی تھی“

”کہئے —!“

بدر نے پہلی بار غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ صحت، شباب، حسن اور پاکیزگی کا

پیکر مجسم تھی۔ اور اس کے چہرے پر حیا کی سُرخ و سفید لہریں بدر بن مغیرہ کو متاثر کئے بغیر نہ رہ سکیں۔

”آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھیں؟“ بدر بن مغیرہ نے سوال کیا۔

ربیعہ کی آنکھیں جن میں محبت اور اطاعت کے سمندر بند تھے آہستہ آہستہ اوپر اٹھیں۔

اس نے کہا۔ ”میں رینجلا کے ساتھ سیر کے لئے آئی تھی۔ وہ اس پہاڑی پر چڑھ گئی ہے۔“

بدر نے کہا: ”آپ پریشان نہ ہوں یہاں اُسے کوئی خطرہ نہیں۔“

”میں اس کے لئے پریشان نہیں ہوں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ کا یہ قلعہ

سرحد کے بالکل قریب ہے، اگر نصرانیوں کو خبر ہو گئی کہ آپ یہاں رہتے ہیں تو۔۔۔۔۔“

”آپ فکر نہ کریں۔ ہم اپنے مہمانوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔“

”نہیں۔ نہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں مجھے۔۔۔۔۔ آپ کے متعلق تشویش ہے۔

آپ اندس کے مسلمانوں کی آخری امید ہیں۔ اگر نصرانیوں کو پتہ چل گیا کہ آپ یہاں رہتے

ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ۔۔۔۔۔“

”آپ میری فکر نہ کریں۔ میں نصرانیوں کو کئی بار سبق دے چکا ہوں۔“

”تاہم مختصر سی فوج کے ساتھ آپ کا اس غیر محفوظ قلعے میں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔

آپ کی جان بہت قیمتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ہمارا نوکر واپس جا کر یہ نہ بتا دے کہ آپ جنگل کی

بجائے یہاں رہتے ہیں۔“

”آپ کے والد نے تو مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ بہت قابل اعتماد آدمی ہے۔“

ربیعہ نے پریشان سی ہو کر کہا: ”میرے والد بہت خوش اعتماد ہیں۔ ممکن ہے کہ ہمارا نوکر

راستے میں پکڑا گیا ہو اور اس نے لالچ میں آکر یاد دھمکی سے مرعوب ہو کر انہیں سب کچھ بتا دیا

ہو۔ ایسے معاملات میں احتیاط ضروری ہے۔“

ربیعہ کے بچے میں نصیحت سے زیادہ التجا تھی۔ ایک مسلمان لڑکی کی تشویش اور ہمدردی

بدر کی توقع کے خلاف نہ تھی۔ اُس نے ربیعہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا: ”یہ قلعہ غرناطہ کی حدود

میں ہے اور جب تک نصرانی غرناطہ سے باقاعدہ جنگ چھیڑنے کا ارادہ نہیں کرتے وہ اس

پر حملہ نہیں کریں گے اور اگر انہیں یہ علم ہو جائے کہ میں کبھی کبھی یہاں پر قیام کرتا ہوں تو بھی

مجھے یقین نہیں کہ وہ فوری اقدام کی جرأت کریں گے۔ اگر آپ کو اپنے متعلق پریشانی ہے تو

بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہسپانیہ کے مسلمانوں کا خون اس قدر منجمد نہیں ہوا کہ وہ اپنے

مہانوں کی حفاظت نہ کر سکیں جب تک آپ لوگ فرناطہ نہیں پہنچ جاتے میرے سپاہی آپ کی حفاظت کریں گے۔“

ربیعہ نے مضطرب سی ہو کر کہا۔ ”آپ نے مجھے غلط سمجھا مجھے اپنے متعلق کوئی پریشانی نہیں میں صرف آپ کے متعلق سوچ رہی تھی اور صرف میں ہی نہیں قسطہ بلکہ اندلس کی ہر مسلمان لڑکی صبح و شام سرحدی عقاب کی سلامتی کی دعائیں مانگتی ہے۔ آپ اس بد نصیب قوم کا آخری سہارا ہیں۔“ ربیعہ کی آواز رگ گئی اور اس کی حسین آنکھوں میں آنسو لڑنے لگے۔

بدر بن مغیرہ نے قدرے متاثر ہو کر کہا۔ ”قوم کی بیٹیوں کو ایسے خدشات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جو مردوں کو عافیت پسند بنا دیتے ہیں۔ تاہم میں آپ کی ہمدردی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔“ یہ کہتے ہوئے بدر بن مغیرہ نے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھ دیا لیکن ربیعہ نے جلدی سے کہا۔ ”بھڑیئے۔“

بدر نے رکاب سے پاؤں نکالتے ہوئے کہا۔ ”شاید میں آپ کو تسلی نہیں دے سکا۔ دیکھئے نصرانیوں کا کوئی حملہ میرے لئے غیر متوقع نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی محاذ پر مجھے سویا ہوا نہیں پائیں گے۔ یہ قلعہ اتنا غیر محفوظ نہیں جتنا آپ خیال کرتی ہیں۔“

ربیعہ نے قدرے تامل کے بعد کہا۔ ”آپ خوابوں پر یقین رکھتے ہیں؟“

”ہاں میں بعض خوابوں کی حقیقت سے انکار نہیں کرتا۔ میں نے بچپن میں اپنے والد کے

متعلق ایک خواب دیکھا تھا اور وہ صحیح ثابت ہوا لیکن اس کے بعد میں نے اپنے ہر خواب کی تعبیر اپنی تلوار سے لکھی ہے۔ اگر آپ نے میرے متعلق کوئی خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کے لئے بھی میں اپنی تلوار پر بھروسہ کروں گا۔“

ربیعہ نے پُر امید ہو کر کہا ”مجھے آپ کی تلوار پر بھروسہ ہے۔ اندلس کے ہر مسلمان کو آپ کی

تلوار پر بھروسہ ہے اور میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر صرف آپ کی تلوار سے لکھی جاسکتی ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ دشمنوں نے اچانک آپ کے قلعہ پر حملہ کر دیا ہے۔ آپ کے

سپاہیوں کے مقابلہ میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میں رات کی تاریکی میں قلعے کے اندر اور باہر خوفناک نعرے سُن رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ قلعہ کی دیوار توڑ کر اندر داخل ہو چکے ہیں۔ خوف کے باعث میری آنکھ کھل گئی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خواب میرے توہمات کا نتیجہ ہو لیکن آپ سے اس کا ذکر کئے بغیر مجھے چین نہیں آ سکتا تھا۔“

بدر بن مغیرہ نے کہا: میں آپ کا شکریہ گزار ہوں۔ اگر آپ کا خواب صحیح ہو تو آپ انشاء اللہ قلعے کے اندر اُن کے نعرے سننے کی بجائے قلعے سے باہر ان کی چنچیں سنیں گی۔“

ربیعہ نے دبی زبان سے ”آمین“ کہا اور اس کا منموم چہرہ مسرت سے چمکنے لگا۔ بدر بن مغیرہ نے کہا: ”اس خواب کی تعبیر کے لئے شاید آپ کا چند دن اور یہاں ٹھہرنا ضروری ہو۔ میں آپ کے والد سے کہوں گا شاید وہ چند دن اور سفر کا ارادہ ملتوی کرنے پر رضامند ہو جائیں۔“

ربیعہ نے خوش گوار دھڑکنیں محسوس کرتے ہوئے اپنے دل میں کہا: ”آپ کی یہ عنایت شاید میرے کسی اور خواب کی تعبیر ہے۔“

بدر بن مغیرہ نے رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے کہا: ”آپ شاید اپنی بہن کا انتظار کریں گی۔ میں جاتا ہوں۔“

بدر نے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنا نیزہ تھام لیا۔ ربیعہ نے جھکتے ہوئے کہا: ”مجھے ڈر ہے کہ آپ میری باتوں کو کہیں مذاق نہ سمجھ لیں۔ میری سوتیلی ماں، اینجلا اور میرا والد بھی میری باتوں پر ہنسا کرتے ہیں۔ خدا کے لئے ان سے میرے خواب کا ذکر نہ کریں۔“

”شاید آپ کو تسلی دینے کے لئے الفاظ کافی نہ ہوں۔“ بدر نے یہ کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد چند بار بلیٹی بجائی۔ اس کے جواب میں اس پاس کے گھنے درختوں میں چھپے ہوئے چند پرے دار اُس کے گرد جمع ہو گئے۔

بدر نے ایک شخص سے مخاطب ہو کر کہا: ”سیلیمان! تم ابھی جنگل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔“

میں آج شام سے پہلے پہلے اپنی ادھی فوج کو اس پہاڑ کے عقب میں جمع دیکھنا چاہتا ہوں قلعہ کے سپاہیوں میں سے کسی کو ان کی آمد کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔“

بدر بن مغیرہ کے ہاتھ کا اشارہ پا کر پیر مدار جس طرح درختوں کی آڑ سے نمودار ہوئے تھے اسی طرح غائب ہو گئے۔ اُس نے مسکراتے ہوئے ربیعہ کی طرف دیکھا اور کہا: اب آپ کو اطمینان ہے؟ جب تک آپ یہاں ہیں میری ادھی فوج اس قلعہ کے گرد پہاڑوں کی؟

ربیعہ نے اضطرابی طور پر آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا: خدا کے لئے یہ نہ سمجھئے کہ مجھے اپنا خوف ہے۔ میرا اضطراب صرف آپ کے لئے ہے۔ آپ قوم کی پونجی ہیں۔ آپ اندلس کے مسلمانوں کا سرمایہ سحیات ہیں۔ کاش میں آپ کو اپنے خواب سے متاثر کرنے کی بجائے کچھ اور کر سکتی۔ کاش میں ان سرفروشنوں میں سے ایک ہوتی جو آپ کے دروازے پر پہرہ دیتے ہیں لیکن میں صرف ایک توہم پرست لڑکی ہوں جس کے پاس آپ کے لئے خوابوں اور دعاؤں کے سوا کچھ نہیں۔ ربیعہ کی آواز بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اُٹ آئے۔ بدر بن مغیرہ کے لئے دیر تک یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اُسے کیا کہنا چاہیے انتہائی سادگی، عجز اور انکسار کے باوجود ربیعہ کے چہرے پر ایک ایسی مسامت، سنجیدگی اور وقار تھا کہ بدر بن مغیرہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اُس نے نادم سا ہو کر کہا: مجھے افسوس ہے کہ آپ کو میرے الفاظ سے صدمہ پہنچا، میرا مقصد یہ نہ تھا۔ میں آپ کا شکریہ گزارا ہوں۔ اچھا خدا حافظ! ربیعہ گھوڑے کی باگ چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گئی۔ بدر نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر ندی میں ڈال دیا۔ ربیعہ اُس کی طرف دیکھتے ہوئے بار بار خدا حافظ! خدا حافظ! کہہ رہی تھی۔

(۴)

اینبلا ربیعہ کو راستے میں چھوڑ کر پہاڑی کی چوٹی پر پہنچی تو بشیر بن حسن اُسے سامنے چند قدم کے فاصلے پر بیٹھے اُتر آدکھائی دیا۔ وہ سانس درست کرنے کے لئے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔

جب بشیر قریب آیا تو وہ رومال سے اپنے چہرے کا پسینہ پونچھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بشیر نے اچانک اُس کی طرف دیکھا تو چند قدم کے فاصلے پر رُک گیا۔ پھر کچھ سوچ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔

بشیر نے کہا: "آج آپ اکیلی آگئیں؟"

اینبلا نے جواب دیا: "میرے ساتھ تھی وہ بچے رہ گئی ہے۔ میں اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچنا چاہتی تھی۔ مجھے اُمید نہ تھی کہ آپ یہاں ہوں گے۔ یہ چڑھائی بہت دشوار تھی۔"

"آپ نے بہت ہمت کی۔" بشیر کے الفاظ میں ایک روکھا پن تھا اور اینبلا محسوس کئے بغیر نہ رہ سکی۔ تاہم اس نے جھجکتے ہوئے کہا: "میری ہمت یہاں تک پہنچ کر جواب دے چکی ہے۔ یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ آپ مل گئے۔ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو چوٹی تک میرا ساتھ دیں۔"

"چلئے!"

"شکر ہے! مجھے ڈر تھا کہ کہیں واپسی پر راستہ نہ بھول جاؤں۔"

"یہ راستہ اس قدر پیچیدہ نہیں۔" بشیر نے بے پروائی سے جواب دیا۔

بشیر خاصی رفتار کے ساتھ اس کے آگے آگے جا رہا تھا اور سانس پھول جانے کے باعث اینبلا خواہش کے باوجود اس سے کوئی بات نہ کر سکی۔

پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اینبلا بڑی طرح ہانپ رہی تھی۔ اُس کا چہرہ پسینے سے سرالوہ تھا۔ بشیر بن حسن نے ایک بلند اخلاق طیب کی شان استغنا کے ساتھ ایک بار مڑ کر اس پر سیکر دینائی کی طرف دیکھا اور پھر منہ پھیر کر نیچے سرسبز وادی کی طرف دیکھنے لگا۔

اینبلا نے رومال سے پسینہ پونچھتے اور تنفس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا: "آپ کو شاید چڑھائی محسوس بھی نہیں ہوئی۔ میرا تو بُرا حال ہو رہا ہے۔"

بشیر نے بدستور نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا: "میں پہاڑوں پر چڑھنے کا عادی

ہوں۔ آپ نے شاید پہلی بار بہت آزمائی کی ہے۔“
 اینجلانے کہا۔ ”یہاں کھڑے ہو کر پنچے کی وادیاں کتنی دلفریب دکھائی دیتی ہیں افسوس
 ربیعہ میرے ساتھ نہ آسکی۔“

”اُسے ابھی اتنی ریاضت کرنی بھی نہیں چاہیے۔“
 اینجلانے ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ”اگر اجازت ہو تو تھوڑی دیر سٹالوں میں
 بہت تھک گئی ہوں۔“

بشیر نے جواب دیا۔ ”جلدی کیجئے آپ کی بہن انتظار کر رہی ہوگی۔“
 اینجلانے گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ”کتنا حسین ہے یہ منظر،
 آپ ہر روز یہاں آیا کرتے ہیں؟“

”ہاں۔ لیکن یہ محض اتفاق ہے کہ آج میں یہیں سے واپس جا رہا تھا۔ ورنہ میں سامنے
 اس پہاڑ کی چوٹی تک جایا کرتا ہوں۔“

”یہ اتفاق شاید اس لئے تھا کہ قدرت کو آپ کی رہنمائی میں میرا یہاں تک پہنچانا
 مقصود تھا۔“

”آپ میرے بغیر بھی یہاں آسکتی تھیں۔“
 ”نہیں۔ میں سچ سچ کہتی ہوں، میری بہت جواب دے چکی تھی۔ ہم پر سوں جا رہے
 ہیں۔ اگر آج آپ راستے میں نہ ملتے تو اس چوٹی پر پہنچنے کی حسرت شاید میں اپنے ساتھ
 لے جاتی۔“

”یہ کوئی ایسی حسرت نہ تھی جس کے پورا نہ ہونے کا آپ کو افسوس ہوتا۔“
 ”میں یہ حسین منظر کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ میں نے سنا ہے کہ سرحدی عقاب کے
 جنگل میں نہایت دلفریب مناظر ہیں۔“

”ہاں وہ علاقہ بہت خوبصورت ہے۔“

”اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ شہروں میں جانا پسند نہیں کرتے؟“
 ”انسان ہمیشہ ایسی جگہ کو پسند کرتا ہے جہاں وہ مفید کام کر رہا ہو۔“
 ”میرے خیال میں آپ ان پہاڑوں اور جنگلوں کی بجائے قسطلہ، اشبیلیہ اور قرطبہ
 جیسے شہروں میں زیادہ مفید کام کر سکتے ہیں۔ وہاں امراء گورنر اور بادشاہ تک آپ کے
 قدردان ہوں گے۔ اگر آپ بُرا نہ مانیں تو میں یہ کہوں گی کہ آپ یہاں اپنے جوہر ضائع کر رہے
 ہیں۔ آبا جان کہتے تھے کہ اگر آپ قسطلہ چلے جائیں تو بادشاہ کے دربار میں آپ کو پہلی
 کرسی ملے گی۔“

آپ کے والد یقیناً مجھے قسطلہ جانے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ میں بدر بن مغیرہ کے
 ایک معمولی سپاہی کا علاج کر کے تمہارے بادشاہ کے دربار میں بٹھنے سے زیادہ خوش رہ سکتا
 ہوں۔ یہ لوگ کبھی کبھی صرف جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کا علاج ہو سکتا ہے۔
 لیکن تمہارے بادشاہ اور امراء ہمیشہ روحانی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔“
 اینجلانے مسکراتے ہوئے بشیر کی طرف دیکھا اور کہا: ”آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ
 کو عیسائیوں سے نفرت ہے۔“

”ایک طبیب کی حیثیت میں ہر انسان کی خدمت کرنا میرا فرض ہے لیکن ایک مسلمان
 کی حیثیت سے میرا پہلا فرض یہ ہے کہ ان لوگوں کا ساتھ دوں جو آندلس میں مسلمانوں کی عزت
 اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کو انسانیت قسطلہ کے ان ایوانوں میں دکھائی دیتی
 ہے جہاں مسلمانوں کی غلامی کی زنجیریں تیار ہو رہی ہیں اور مجھے انسانیت ان جھوٹپڑوں میں
 دکھائی دیتی ہے جن میں رہنے والے غیروں کی غلامی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔“
 اینجلانے مغموم سی ہو کر کہا: ”کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ دیر تک ہمارے شہنشاہ کا
 مقابلہ کر سکیں گے۔“

مقابلہ صرف فتح کی امید پر ہی نہیں کیا جاتا۔ بعض حالات میں جنگ کمزور کے لئے ایک

فرضیہ بن جاتی ہے۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔
خیر اب چلے دیر ہو رہی ہے۔“

اینبلا نے کہا۔ ”میرے خیال میں اگر آپ قسطہ کے شاہی طبیب کے عہدے پر فائز ہوں تو
آپ بادشاہ کو خوش کر کے اُسے مسلمانوں کی آزادی پر حملہ کرنے سے باز رکھ سکتے ہیں۔“
”آزادی خوشامد سے نہیں بلکہ خون سے خریدی جاتی ہے۔“

اینبلا نے کہا۔ ”طبیب کی حیثیت میں آپ بادشاہ کے خوشامدی نہیں بلکہ محسن بن
سکتے ہیں۔“

بشیر نے قدرے ترش لہجے میں کہا۔ ”ہمارے لئے اب تمہارے مغرور بادشاہ کا محسن
بننے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ ہم اس کے ہاتھ سے استبداد کی تلوار چھین
لیں اور جب وہ ہمارے رحم و کرم پر ہو تو ہم اپنے بزرگوں کے اخلاق پر عمل کرتے ہوئے اس
کی خطائیں معاف کر دیں۔ میں اپنی قوم کی دائمی زندگی کے لئے ایک سپاہی بن کر لڑنے کو
اس سے عارضی زندگی کی بھیک مانگنے پر ترجیح دیتا ہوں۔ آپ یہاں مہمان ہیں۔ مجھے
افسوس ہے کہ آپ نے خواہ مخواہ یہ بحث شروع کر دی۔ ہسپانیہ اور قسطہ کا مقابلہ اب باتوں
سے نہیں تلوار سے ہوگا۔“

بشیر آہستہ آہستہ پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ اینبلا اٹھ کر اُس کے پیچھے چل دی۔
وہ بار بار اپنے دل میں کہہ رہی تھی۔ ”کاش میں یہ بحث نہ چھیڑتی۔“

دونوں دیر تک خاموش رہے لیکن جب وہ پہاڑی سے اتر کر درختوں میں سے گزر
رہے تھے اینبلا نے تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اُس کے قریب پہنچ کر کہا۔ ”مجھے معلوم
نہ تھا کہ آپ اس قدر خفا ہو جائیں گے۔ خدا جانتا ہے کہ میں آپ کی دشمن نہیں آپ خواہ
کچھ کریں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ مجھے معاف کر دیجئے۔“

بشیر بن حسن نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اُس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔

اُس نے متاثر ہو کر کہا۔ "نادان لڑکی تم رو رہی ہو؟"

"مجھے معاف کر دیجئے۔" اُس نے پھر کہا۔

"لیکن میں ان افسوسوں کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ اگر یہ نصرانیوں کی طرف سے ایک فاتح کی دوستی کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ یہ موتی رائیگاں جائیں گے اور اگر یہ اس لئے ہیں کہ تم ہماری جدوجہد کو بے فائدہ سمجھتی ہو تو بھی ہمدردی کا یہ پیغام قبل از وقت ہے اور اگر تم یہ خیال کرتی ہو کہ بشیر بن حسن کی جان اس قدر قیمتی ہے کہ وہ موت و حیات کی اس کشمکش میں اپنی قوم کا ساتھ نہ دے تو بھی تم غلطی پر ہو۔"

اینبلا نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا۔ "مجھے عیسائیوں یا مسلمانوں اور ان کے بادشاہوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں صرف آپ کی خیر چاہتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو میری باتوں سے صدمہ پہنچا۔ میں نادان ہوں۔ آپ میری باتوں کو کوئی اہمیت نہ دیں۔"

"اینبلا! اینبلا! ربیعہ کی آواز آئی۔"

اینبلا کی خاموشی پر بشیر بن حسن نے جواب دیا۔ "آپ کی بہن یہاں ہے۔" پھر وہ اینبلا سے مخاطب ہوا۔ چلو اینبلا! تمہاری بہن بلاتی ہے۔"

اینبلا بشیر کے آگے آگے چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اینبلا، ربیعہ اور بشیر قلعے کا رخ کر رہے تھے۔

ندی عبور کرنے کے بعد انہیں بوداؤد ملا اور اس نے اینبلا اور ربیعہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ "تم نے آج بہت دیر لگائی۔"

ربیعہ نے کہا۔ "ابا جان! ہم نے آج پہاڑی پر چڑھنے کا ارادہ کیا تھا۔ میں زیادہ دُور نہ جاسکی۔ اینبلا اکیلی چوٹی پر سے ہو آئی ہے۔"

ربیعہ کے خواب کی تعبیر

(۱)

جمعہ کے دن کا بیشتر حصہ بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن نے ابوداؤد کی صحبت میں گزارا۔ ان کی باتوں سے ابوداؤد کو یہ اطمینان ہو چکا تھا کہ وہ رات اس قلعہ میں گزاریں گے لیکن گزشتہ دو دن سے وہ اس بات پر حیران تھا کہ قلعہ کے بہت سے سپاہی اچانک غائب ہو چکے ہیں۔

دوپہر کے وقت جب وہ بدر اور بشیر کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے کہا "قلعہ میں سپاہیوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے جب آپ یہاں ہوں تو آپ کی حفاظت کا پورا انتظام ہونا چاہیے۔"

بدر نے بے پردائی سے جواب دیا۔ "اپنے لئے ہم نے کبھی سپاہیوں کی ضرورت محسوس نہیں کی۔"

"آپ کی شجاعت میں کلام نہیں لیکن اس قلعے کی حفاظت کے لئے بھی سپاہیوں کی اچھی خاصی تعداد کا ہونا ضروری ہے۔ نصرانیوں کی طرف سے اچانک حملے کا خدشہ نہ ہو

تو بھی آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے۔“

بلد بن مغیرہ نے جواب دیا۔ آپ فکر نہ کریں خطرے کے مقابلے کے لئے آپ یہاں کافی سپاہی موجود پائیں گے۔ اس قلعے میں میرا قیام بالکل عارضی تھا۔ کل آپ غرناطہ روانہ ہوں گے اور میں انشاء اللہ اپنے پہاڑوں اور جنگلوں میں پہنچ جاؤں گا۔“

”تو شاید اسی خیال سے آپ نے سپاہیوں کو دو دن پہلے روانہ کر دیا ہے۔“

”ہاں یہاں وہ بیکار پڑے تھے۔“

اس کے بعد دیر تک مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی رہی۔

مغرب کی نماز کے بعد جب یہ لوگ مسجد سے باہر نکل رہے تھے ایک سوار گھوڑا بھگاتا ہوا قلعے میں داخل ہوا اور مسجد کے دروازے کے سامنے آ کر بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھ کر وہ گھوڑے سے اترا اور تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھا۔

بلد بن مغیرہ نے اس کی بات کا انتظار کئے بغیر پوچھا۔ ”کہو خیر تو ہے۔ تم بہت

پریشان ہو۔“

سپاہی نے کہا۔ ”بادشاہ کے بھائی اور ان کے ساتھ غرناطہ کی فوج کے چند عہدیدار آپ سے ملنے کے لئے آئے تھے اور آپ کی قیام گاہ میں ٹھہر کر آپ کا انتظار کرنے کی بجائے وہ اس طرف آرہے ہیں۔“

”وہ یہاں سے کتنی دُور ہوں گے؟“

”یہاں سے آٹھ دس کو س دُور ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ رات کا کھانا

آپ کے ساتھ کھائیں گے۔“

بدر بن مغیرہ نے بشیر بن حسن کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ ”آپ ان کے قیام اور

طعام کا بندوبست کریں۔ میں ان کی پیشوائی کے لئے جاتا ہوں۔“

گھوڑی دیر بعد جب بدر بن مغیرہ گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا قلعے سے باہر

نکل رہا تھا۔ ابو داؤد تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ کچھ دیر گہری سوچ میں کمرے کے اندر ٹھٹھا رہا۔ پھر اُس نے درمیانی دروازہ کھول کر میریا کے کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میریا ذرا ادھر آؤ۔“

میریا کرسی سے اٹھ کر اُس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اُس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔

ربیعہ اور ایخلا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ ربیعہ نے آہستہ سے کہا۔ ایخلا! آبا جان آج صبح سے پریشان ہیں۔“

ایخلا نے ربیعہ کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ”اُن کی پریشانی کی وجہ شاید کل کا کھٹن سفر ہو لیکن ربیعہ مجھے تم اُن سے زیادہ پریشان دکھاتی دیتی ہو۔ جب ہم قسطلہ سے غرناطہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تو تم بہت خوش تھیں لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں غرناطہ کی نسبت یہ ویران قلعہ زیادہ پسند ہے۔“

”مجھے غرناطہ سے محبت ہے۔ مجھے فکر ہے کہ آبا جان کہیں کل غرناطہ جانے کا ارادہ بدل نہ دیں۔“

”تمہیں معلوم ہے کہ آبا جان غرناطہ جانے کا ارادہ تبدیل نہیں کریں گے۔ سرحدی عقاب نے ہمارے لئے غرناطہ سے نئی بگھی منگوائی ہے۔ تمہاری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے۔ ربیعہ تم مجھ سے اپنے دل کی بات نہیں چھپا سکتیں۔ سچ کہو تمہیں اس بات کا غم نہیں، کہ سرحدی عقاب کا نشیمن غرناطہ سے بہت دور ہوگا۔“

ربیعہ کے چہرے پر حیا کی سرخ و سفید لہریں رقص کرنے لگیں، وہ ایخلا کو کوئی جواب نہ دے سکی۔ ایخلا نے پھر کہا۔ ”ربیعہ ہم دونوں ایک کشتی میں سوار ہیں لیکن میں بشیر بن حسن کا نام لیتی ہوں تو تم مجھے ملامت کرتی ہو اور تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ یہاں سے رخصت ہونے کے تصور سے تمہارا چہرہ مر چھایا جاتا ہے۔ سچ کہو ربیعہ! تمہیں

سرحدی عقاب سے محبت نہیں؟“

”اینجلا! میں یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ مجھے اس سے نفرت ہے لیکن میری دنیا اس کی دنیا

سے مختلف ہے۔ بدر بن مغیرہ اندلس کے آسمان پر چودھویں رات کا چاند ہے اور میں اُن لاکھوں تاشائیوں میں سے ایک ہوں جو اُس کی آب و تاب سے متاثر ہونے کے باوجود اُسے آسمان سے اُتار کر اپنے بھونپڑے کی زینت بنانے کا خیال دل میں نہیں لا سکتے بشر بن حسن بھی اندلس کے آسمان کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے اور تمہاری دلچسپی اگر اُسے دیکھنے تک محدود رہتی تو میں یقیناً اعتراض نہ کرتی۔ لیکن اینجلا! تم اس ستارے کو آسمان سے نوج کر اپنے دامن کی زینت بنانا چاہتی ہو اور ان بلندیوں سے آنکھیں بند کر لیتی ہو جو تمہارے اور اُس کے درمیان حائل ہیں۔ میں تمہاری آنکھیں کھول دینا اپنا فرض سمجھتی ہوں۔“

اینجلا کا خوبصورت چہرہ مرجھا گیا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ ”اپنی گزشتہ بدسلوکیوں کے باوجود میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ دنیا میں تم سے زیادہ میرا خیر خواہ کوئی نہیں۔ لیکن برانہ ماننا تم ایک شاعرہ ہو۔ میں نے اُسے آسمان پر نہیں اسی زمین پر دیکھا ہے اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میں اُسے چاہتی ہوں۔ میں اگر اُسے اپنے دامن کی زینت نہ بنا سکی تو بھی میں اس کے دامن کی طرف ہاتھ بڑھاتے جھجک محسوس نہیں کروں گی۔ ربیعہ! جب میں نے اُسے پہلی بار دیکھا تھا تو میرے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ میرا ہے۔ جب میں نے اس کی آواز سنی تھی تو میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے کان اس آواز سے مانوس ہیں۔ جب تک میری آنکھیں اُسے دیکھتی رہیں گی اور میرے کان اُس کی آواز سنتے رہیں گے، میرا دل یہ کہتا رہے گا کہ وہ میرا ہے، وہ میرا ہے۔ ربیعہ! سچ کہو تم بدر بن مغیرہ کے متعلق ہی کچھ محسوس نہیں کرتیں کہ وہ ایک مرد ہے اور تم ایک عورت ہو۔“

ربیعہ نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ”اینجلا! تم یہ محسوس نہیں کرتیں کہ تم عیسائی ہو اور وہ ایک مسلمان ہے اور اندلس میں عیسائیت اور اسلام کی جنگ جاری ہے۔“

اینبلا نے جواب دیا "مجھے اس کی پروا نہیں۔ میں اُسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کروں گی اور اگر میں اُسے اپنی طرف نہ لاسکی تو مجھے اُس کی طرف جانے میں کوئی تامل نہ ہوگا" ربیعہ نے کہا "اینبلا! فرض کرو۔ اگر آج ہی غرناطہ اور قسطلہ کی سلطنتوں میں باقاعدہ جنگ پھڑپھڑ جائے تو تمہارے اور بشیر بن حسن کے درمیان تمام راستے مسدود نہیں ہو جائیں گے۔"

"ہو سکتا ہے کہ عارضی وقفہ کے لئے ہمارے درمیان تمام راستے مسدود ہو جائیں لیکن اس جنگ کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ تمام اُندلس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے اور ہمارے درمیان مسافت کی رہی سہی دیواریں نابود ہو جائیں"

ربیعہ نے کہا "اینبلا! کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ بشیر بن حسن جیسا سپاہی اپنی قوم کی شکست اور تباہی کے بعد تم سے عشق کرنے کے لئے زندہ رہے گا؟"

اینبلا کے چہرے پر اُداسی چھا گئی۔ اُس نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا "ربیعہ! فرض کرو اگر حالات اُسے قسطلہ جانے پر مجبور کر دیں اور اُس کے لئے اپنی زندگی کے باقی دن ہاں گزارنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہو تو کیا پھر بھی میرے اور اُس کے درمیان مسافت کی دیواریں حائل رہیں گی؟"

ربیعہ نے جواب دیا "یہ اُسے قسطلہ جانے پر مجبور کر دینے والے حالات پر منحصر ہے۔ ایک قیدی کی حیثیت میں وہ اپنی دشمن قوم کی کسی لڑکی کی سفارش پر رہا ہو کر ذلت کی زندگی بسر کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ البتہ ایک فاتح کی حیثیت میں شاید وہ تمہاری محبت کی زنجیریں ہینا منظور کر لے لیکن تم نے یہ کیسے معلوم کیا کہ حالات اُسے قسطلہ جانے پر مجبور کر دیں گے۔"

اینبلا نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا "ایک پھول کا صحیح مقام باغ ہے۔ شاید وہ خود ہی زیادہ عرصہ اس دیرانے میں رہنا پسند نہ کرے۔"

ربیعہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور ابو داؤد اور میریا ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ابو داؤد کے ہاتھ میں دو جلتی ہوئی شمعیں تھیں جب اُس نے دونوں

دریچوں میں یہ شمعیں رکھ دیں تو ربیعہ نے معصومانہ انداز میں کہا: "ابا جان! کمرے میں فانوس سے پہلے ہی کافی روشنی ہے۔ یہ شمعیں جلانے سے کیا فائدہ؟"

ابوداؤد نے پریشان ہو کر کہا: "ربیعہ تمہیں زیادہ روشنی سے نفرت ہے؟"

"نہیں ابا جان! لیکن یہ ہوا سے بجھ جائیں گی۔ اگر آپ کہیں تو میں کھڑکیاں بند کر دوں؟"

"نہیں تازہ ہوا کے لئے کھڑکیوں کا کھلا رہنا ضروری ہے۔" پھر اُس نے میریا کی طرف متوجہ

ہو کر کہا: "اگر یہ بجھ جائیں تو انہیں فوراً دوبارہ جلا دینا۔ میرے کمرے میں اور شمعیں بڑی ہیں جب

یہ ختم ہو جائیں تو ان کی جگہ اور لا کر رکھ دینا۔" ابوداؤد یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔

(۲)

عشاء کی نماز کے وقت بدر بن مغیرہ، شاہ غرناطہ کے بھائی الزغل اور غرناطہ کی فوج کے

دونامور سالار موسیٰ اور الزغیری کے ہمراہ قلعے میں داخل ہوئے۔ غرناطہ کے پندرہ سپاہی اور معمولی عمدہ دار بھی ان کے ساتھ تھے۔

چونکہ قلعے کی مسجد میں مؤذن اذان دے رہا تھا اس لئے یہ لوگ گھوڑوں سے اترتے ہی

مسجد میں داخل ہوئے۔ ابوداؤد اور بشیر بن حسن نے مسجد کے دروازے پر انہیں خوش آمدید کہا۔

الزغل نے بشیر بن حسن کے ساتھ گرجوئی سے مصافحہ کرتے ہوئے ابوداؤد کی طرف دیکھا۔

بدر بن مغیرہ نے کہا: "یہ ابوداؤد ہیں۔ میں راستے میں آپ کے سلمنے ان کا ذکر کر

چکا ہوں۔"

الزغل نے ابوداؤد کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا: "بدر نے آپ کی بہت سی خوبیاں

بیان کی ہیں لیکن میرے نزدیک آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارا سرحدی عقاب آپ

کا عقیدت مند ہے۔"

ابوداؤد نے مسکراتے ہوئے کہا: "میری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں ایک انتہا درجہ کے

فیاض طبع نوجوان کا مہمان ہوں جس نے اپنے بے کس مہمان کی بے جا تعریف بھی مہمان نوازی کے فرائض میں شامل کر لی ہے۔ وہ عادت جس کے باعث مجھے چند دن کے لئے سرحدی عقاب کی ہم نشینی نصیب ہوئی ہے میری زندگی کا ایک انتہائی خوش گوار واقعہ ہے۔ غرناطہ کا وہ راجل عظیم جسے میں دُور سے دیکھ لینا بھی اپنی خوش قسمتی خیال کرتا آج میرے سامنے ہے۔ اگر یہ گستاخی نہ ہو تو میں اس مقدس ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں جسے صدیوں کے بعد موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی تلوار اٹھانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔“

الزغل ان باعمل انسانوں میں سے تھا جو خوشامد سے بہت پریشان ہوتے ہیں لیکن ابوداؤد کا لب و لہجہ اُسے متاثر کئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش نہ کی۔ ابوداؤد نے نہایت گرمجوشی کے ساتھ اُس کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور اس کے ساتھ ہی دو گرم گرم آنسو جو ابوداؤد کی آنکھوں سے انتہائی ضرورت کے وقت پڑکا کرتے تھے الزغل کے ہاتھ پر گر پڑے۔

قریباً اسی قسم کے جذبات کا اظہار ابوداؤد نے موسیٰ اور الزغیری سے متعارف ہوتے وقت بھی کیا۔ یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے۔ امامت کے فرائض ابوداؤد نے انجام دئے۔ نماز کے بعد جب یہ لوگ بالائی منزل کے ایک کمرے میں کھانا کھا رہے تھے ابوداؤد اُن پر اثر ڈالنے کے لئے اپنے دماغ اور زبان کی تمام صلاحیتوں سے کام لے رہا تھا۔ الزغل جو خود بھی بہت سے علوم میں غیر معمولی استعداد رکھتا تھا، ابوداؤد کے تبحر علمی سے بہت متاثر ہوا اور جب اس نے اپنی ان خفیہ سرگرمیوں کا ذکر کیا جن کا مقصد قسطہ کی ظالم حکومت کا تختہ الٹنا تھا تو الزغل نے کہا "خدا کا شکر ہے کہ آپ نے اپنی سرگرمیوں کے لئے وہ جگہ منتخب کی ہے جہاں آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ غرناطہ میں آپ ہمارے لئے بہت کچھ کر سکیں گے۔ بدر بن مغیرہ نے آپ کے متعلق جو کچھ مجھے بتایا ہے اس سے میرا اندازہ ہے کہ آپ نوجوانوں کو متاثر کرنا جانتے ہیں۔ میں غرناطہ میں ایک ایسا نوجوان آپ کے سپرد کروں گا جسے راہِ راست پر

لانا ہمارے لئے اندلس کی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے سے کم نہیں۔ میری مراد اپنے بھتیجے اور اندلس کے ولی عہد عبداللہ سے ہے۔ وہ پرلے درجے کا وہابی، ڈرپوک، خوشامد پسند اور جلد باز نوجوان ہے۔ وہ تعمیر سے زیادہ تخریب میں خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی اصلاح کر سکیں تو یہ قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔“

ابو داؤد نے اپنی مسرت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ ”غرناطہ کے نوجوانوں کی اصلاح کے لئے آپ کی آنکھ کا اشارہ کافی ہے۔ تاہم جو خدمت میرے سپرد کی جائے گی میں اسے بخوشی سرانجام دوں گا۔“

الزغل نے کہا۔ ابو عبداللہ کو آنکھ کے اشارے کی جگہ چابک کی ضرورت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چابک آپ کے پاس ہے۔ آپ غرناطہ کب جا رہے ہیں؟

”انشار اللہ ہم کل روانہ ہو جائیں گے۔“

”تو جب تک آپ وہاں پہنچیں گے میں بھی آ جاؤں گا۔ میرا بھائی آپ جیسے باکمال آدمی کو اپنے بیٹے کا اتالیق بنانے پر اعتراض نہیں کرے گا لیکن ابو عبداللہ پر یہ ظاہر نہ کیجئے کہ آپ نے یہ ذمہ داری میرے ایما پر قبول کی ہے۔ وہ میری ہر بات کو شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔“

”آپ اس بات کی فکر نہ کریں۔“

اس کے بعد الزغل، موسیٰ اود الزغریری ابو داؤد سے قسطلہ کی فوجی تیاریوں کے متعلق سوالات پوچھتے رہے اور وہ انہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کی بجائے خوش کرنے کے ارادے سے جوابات دیتا رہا۔

ادھی رات کے قریب جب یہ لوگ اٹھنے کا ارادہ کر رہے تھے قلعے کے چاروں طرف نقاروں کی گونج سنائی دی اور یہ لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ الزغل نے جواب طلب نگاہوں سے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھا اور باقی لوگوں کی نگاہیں بھی اس کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔

بدر بن مغیرہ کے چہرے پر حیرانی یا اضطراب کا شائبہ تک نہ تھا۔ آپ گھبرائیں نہیں۔ اس نے اطمینان کے ساتھ اٹھتے ہوئے کہا۔ "میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔" بشیر بھی اٹھا لیکن بدر بن مغیرہ نے کہا۔ "آپ مہمانوں کے پاس بیٹھیں میں ابھی آتا ہوں۔"

بدر بن مغیرہ دروازے کے قریب پہنچا تو ایک پریدار بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اُس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ "نصرانیوں نے حملہ کر دیا ہے۔"

یہ سنتے ہی سب نے اٹھ کر تلواریں نکال لیں لیکن بدر بن مغیرہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ "نصرانیوں نے گزشتہ بیس برس میں اس سے بڑی حماقت نہ کی ہوگی۔ آپ اطمینان سے بیٹھے رہیں۔ رات کے وقت ان کی بڑی سے بڑی فوج بھی اس قلعے کے قریب نہیں آسکتی۔ میں اپنی گزشتہ تمام زندگی میں شاید کسی غیر متوقع حملے کے لئے اس قدر تیار نہ تھا۔"

ابوداؤد نے کہا۔ "لیکن قلعے میں تو آج میں نے بیس بچپس سے زیادہ سپاہی نہیں دیکھے۔" "قلعے کی حفاظت اس کی چار دیواری سے بہت دور کی جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے آج میرے نصف سے زیادہ سپاہی یہاں موجود ہیں۔ میں ابھی آتا ہوں۔"

"موسیٰ نے کہا۔" میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔"

بدر بن مغیرہ نے جواب دیا۔ "مجھے ڈر ہے کہ آپ میرے ہی کسی سپاہی کے تیر کا نشانہ نہ بن جائیں۔ میں شاید خود بھی باہر لڑنے والوں کی راہنمائی کے لئے نہ جاسکوں۔ میں صرف قلعے کے پریداروں کو حید ہدایات دینا چاہتا ہوں۔"

الزغل نے مطمئن ہو کر کہا۔ "تو آپ کو اس حملے کی توقع تھی۔"

اس سوال پر ابوداؤد چونک کر بدر کی طرف دیکھنے لگا۔ بدر نے جواب دیا۔ "مجھے قدرت کی طرف سے ایک اشارہ ہوا تھا اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے اسے وہم نہیں سمجھا۔"

بشیر بن حسن نے بدر کے ساتھ جانے پر اصرار کیا لیکن میں نے اُسے یہ کہہ کر روک دیا کہ میرے بہت سے سپاہی صرف اس لئے تیروں کی بارش میں کھڑے ہو سکتے ہیں کہ تم ان کے

زخموں کا علاج کر سکتے ہو۔ تم یہیں ٹھہرو اور زخمی ہونے والوں کے لئے مرہم پٹی کا سامان تیار کرو۔“
 بدر بن مغیرہ باہر نکل گیا۔ ایک ساعت کے بعد وہ واپس آیا اور بولا۔ ”آپ اگر چاہیں تو
 بے فکر ہو کر سو سکتے ہیں۔ نصرانی اس قلعہ سے دو کوس کے فاصلہ پر غیر متوقع استقبال دیکھ کر
 بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر ان میں دس آدمی بھی بچ کر نکل گئے تو یہ ایک معجزہ ہوگا۔
 میں آپ میں سے کسی کو اس شاندار فتح میں حصہ دار بننے سے نہیں روکنا چاہتا لیکن پو پھٹنے
 سے پہلے آپ کا باہر نکلنا مناسب نہیں۔ صبح کی روشنی میں آپ قیدیوں کو اکٹھا کرتے اور بھاگنے
 والوں کو تیروں کا نشانہ بنانے میں میرے ساتھیوں کی مدد کر سکیں گے۔“

یہ کہہ کر بدر بن مغیرہ ابو داؤد کی طرف متوجہ ہوا۔ ”آپ ذرا اپنے کمرے میں جا بیٹیں اور باہر
 کھلنے والے دریچے بند کر وادیں، ورنہ روشنی بھجادیں اور بچوں کو ہدایت کریں کہ کوئی درپچے کے
 سامنے کھڑا نہ ہو۔ مجھے پریداروں نے اطلاع دی ہے کہ حملہ آوروں کی ایک بھٹکی ہوئی ٹولی قلعہ
 کے قریب دیکھی گئی ہے۔ اگرچہ قلعہ کو ان لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں تاہم یہ اندیشہ ضرور ہے کہ
 ان میں سے کوئی روشنی دیکھ کر تیر چلا دے۔“

”مجھے اُمید نہ تھی کہ وہ ایسی غلطی کریں گی۔“ یہ کہہ کر ابو داؤد بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔
 الزغل نے ہنستے ہوئے کہا۔ ”ایک اچھا عالم شاذ و نادر ہی ایک اچھا سپاہی ثابت

ہوتا ہے۔“

(۳)

ابو داؤد تھوڑی دُور جا کر سوچ میں پڑ گیا اور اُس کی رفتار کم ہونے لگی۔ بدر بن مغیرہ کی
 باتوں سے اُسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی دعوت پر حملہ کرنے والوں کی تباہی یقینی ہے اس لئے
 روشنی جلانے یا بھانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں یہ
 خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں حملہ آوروں کے ساتھ اس کا نوکر بھی نہ ہو جسے اُس نے سرحد کے گونڈے کے

پاس ایچی بنا کر بھیجا تھا۔ بظاہر اس بات کا امکان بہت کم تھا تاہم اُسے تشویش تھی اور اس سے زیادہ تشویش اُسے اس بات کی تھی کہ کہیں حملہ آور فوج کا سپہ سالار گرفتار ہونے پر بد بن مغیرہ کے سامنے اس کا بھانڈا نہ پھوڑ دے۔ اس مرحلہ پر وہ اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے رہا تھا کہ سرحد کے گورنر نے اُسے فرڈیننڈ کا خاص آدمی سمجھ کر اس کی ہدایات پر ضرور عمل کیا ہوگا اور کسی فوجی عہدہ دار پر اس کا راز افشا نہیں کیا ہوگا۔

وہ ہر قدم پر طرح طرح کے خدشات محسوس کرتا اور انہیں جھٹلاتا اپنے کمرے کے قریب پہنچا تو ایک نئے خیال نے اُس کے حسم پر کپکپی طاری کر دی۔ اُس نے سوچا: "کیا یہ ممکن نہیں کہ سرحد کا گورنر شہرت اور ناموری کے شوق میں خود ہی اس فوج کے ساتھ چلا آیا ہو اور وہ گرفتار ہونے کے بعد بدر بن مغیرہ اور الزغل کے سامنے یہ کہہ دے کہ تمہارا مجرم میں نہیں ہوں، ابوداؤد ہے جس نے مجھے اس قلعہ پر حملہ کرنے کی دعوت دی ہے؟"

وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں اپنے بچاؤ کے مختلف طریقے سوچ رہا تھا کہ اُسے کسی کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ ساتھ والے کمرے سے ایک اور چیخ کے بعد کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ اتنی دیر میں وہ عقبی کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ ایک لمحہ کے لئے اس کا خون منجمد ہو کر رہ گیا۔ اینجلا اور میریا فرس پر بے ہوش پڑی تھیں۔ اینجلا کے سینے میں ایک تیرہ یوست تھا۔ ربیعہ سکتے کے عالم میں اُس کے قریب کھڑی تھی۔ ابوداؤد نے انتہائی پریشانی کے عالم میں ربیعہ کی طرف دیکھا اور اس نے اضطراری حالت میں ذریعہ کی طرف اشارہ کیا۔ ابوداؤد نے سمجھیں اٹھا کر ایک طرف پھینکتے ہوئے کھڑکیاں بند کر دیں۔ اور اینجلا اور میریا کی طرف متوجہ ہوا۔ "میریا! اینجلا! اُس نے دونوں کو یکے بعد دیگرے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔

اینجلا نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں لیکن میریا بے ہوش تھی۔

ربیعہ نے کہا: "ابا جان! طبیب کو بلا لیجئے۔ اینجلا زخمی ہے اور اتنی جان صدمے سے ہوش

ہو گئی ہیں۔ اینجلا درتپے کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ باہر سے کسی نے تیر چلا دیا۔ آپ جلدی کریں۔ اینجلا کا خون بہہ رہا ہے۔“
 ابو داؤد اٹھ کر بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔

(۴)

تھوڑی دیر بعد ابو داؤد کے ساتھ بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن مکہ میں داخل ہوئے۔ بشیر نے اینجلا اور میریا پر ایک سرسری نظر ڈالنے کے بعد دونوں کو یکے بعد دیگرے اٹھا کر ان کے بستروں پر لٹا دیا۔ اتنی دیر میں ایک نوکر اس کے دو اوٹوں کا تھیلا لے کر پہنچ گیا۔ بشیر نے تھیلا کھول کر ایک شیشی نکالی اور دوا کے چند قطرے اپنے رومال پر چھڑک کر ابو داؤد کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا: ”آپ اپنی بیوی کو یہ دوا سونگھا دیجئے۔ وہ ابھی ہوش میں آجائے گی۔“

اس کے بعد وہ اینجلا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بشیر بن حسن نے زخم کا جائزہ لینے کے بعد تیر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اینجلا دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر چلانے لگی: ”نہیں نہیں۔“

بشیر بن حسن نے کہا: ”دیکھو یہ تیر جتنی دیر سے نکالا جائے گا اتنی ہی تم کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ تم ڈرو نہیں۔ میرا ہاتھ مت پکڑو ورنہ مجھے بے ہوش کرنے کی دوا دینی پڑے گی۔“

بشیر بن حسن نے بدر بن مغیرہ اور اپنے نوکر کی طرف اشارہ کیا۔ اینجلا نے چلا کر کہا نہیں نہیں، میرے ہاتھ پاؤں مت پکڑیے۔ میں کچھ نہیں کروں گی۔“
 بشیر نے کہا: ”میرا پہلے ہی خیال تھا کہ تم بہادر لڑکی ہو۔ صرف ایک لمخہ کے لئے آنکھیں بند کر لو۔ گھبراؤ نہیں۔“

لیکن اینجلا اطاعت، محبت اور عقیدت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔
اب کے بشیر بن حسن نے تیر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اُس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ اُس نے اپنے ہونٹ
بچھینچ لئے اور ایک ہلکی سی جھجھری کے بعد بے اختیار اُس کے ہاتھ زخم کی طرف بڑھے لیکن بشیر
کے ہاتھ کی ایک ہی جنبش میں تیر زخم سے باہر آچکا تھا۔ بشیر بن حسن نے اطمینان کا سانس لیتے
ہوئے کہا: "زخم زیادہ گہرا نہیں۔ انشاء اللہ بہت جلد آرام آجائے گا۔"

اس اشارہ میں میریا کو ہوش آچکا تھا۔ اُس نے ایک لمحہ کے لئے آنکھیں کھولنے کے بعد
پھر بند کر لیں اور پھر چیخ مار کر اپنے بستر سے اٹھیں۔ "میری بیٹی! میری اینجلا! کہتی ہوئی اینجلا
کے بستر کی طرف بھاگی۔ اینجلا تم ٹھیک ہونا! میری بیٹی بچ جائیگی نا، بتائیے خدا کے لئے بتائیے!"
وہ نیم دیوانگی کی حالت میں بشیر بن حسن کو بازو سے پکڑ کر گھنٹھوڑ رہی تھی؟

بشیر بن حسن نے کہا: "دیکھئے مجھے پٹی باندھنے دیجئے۔ آپ کی یہ بہمدردی اس کی تکلیف
میں اضافہ کر رہی ہے۔"

بشیر بن حسن کو چھوڑ کر میریا بدر بن مغیرہ کی طرف متوجہ ہوئی: "خدا کے لئے میری لڑکی کی
جان بچائیے!"

ابو داؤد نے آگے بڑھ کر میریا کا بازو پکڑ لیا اور اسے کھینچ کر زبردستی بستر پر لٹاتے
ہوئے کہا: "میریا دیوانی نہ بنو۔ صبر سے کام لو۔ اینجلا بہت جلد تندرست ہو جائے گی۔ زخم
بہت معمولی ہے۔"

میریا نے چلا کر کہا: "تمہارے سینے میں دل نہیں پھر ہے۔ اینجلا زندہ رہے یا مر جائے
تمہیں اس سے کیا، تمہیں تو غرناطہ"

میریا "غرناطہ" کہہ کر رُک گئی۔ ابو داؤد نے محسوس کیا کہ قضا کا ہاتھ اُس کے گلے تک پہنچ
کر رُک گیا ہے۔ وہ سر پالتجا بن کر اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا اور میریا کی نگاہیں یہ نظر
کرتے لگیں کہ وہ اس خطرناک موضوع پر مزید روشنی نہیں ڈالے گی تو ابو داؤد نے بلند آواز میں

کہا۔ "ہاں ہاں! مجھے غرناطہ کی فکر ہے۔ غرناطہ کو ایسے وحشیوں کی بلغار سے بچانا ہر مسلمان کا فرض ہے جو لڑکیوں پر تیر چلانے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے اور اینجلا کے زخمی ہونے کا میرے غرناطہ جانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تمہیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جب باہر سے حملے کا خطرہ ہو تو روشن کمرے کی کھڑکیاں نہیں کھولی جاتیں اور تم سے یہ بھی نہ ہو سکا کہ تم اینجلا کو کھڑکی کے سامنے کھڑی ہونے سے منع کر دو اور ربیعہ تم کو ایک عمل مند لڑکی ہو۔ تم نے ہی اینجلا کو منع کو دیا ہوتا ہے"

ربیعہ نے برحجابی ہونی آواز میں کہا۔ "ابا جان! اینجلا میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی میرے بستر سے اٹھ کر یہ اپنے بستر کی طرف جا رہی تھی کہ اُسے کھڑکی میں سے تیر آگیا۔"

ابو داؤد کی تمام شاطرانہ صلاحیتیں سمٹ کر اس کی آنکھوں میں آچکی تھیں۔ پیریا کو اس کی آنکھوں کی ایک خوفناک چمک اکثر مرعوب کر دیا کرتی تھی۔ وہ خاموش تھی لیکن یہ واقعہ معمولی نہ تھا۔ وہ اپنی سہمی ہوئی آنکھوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میں صرف میدان خالی ہونے کا انتظار کر رہی ہوں۔ جس انہماک کے ساتھ بشیر بن حسن اینجلا کے زخم کی مرہم پیٹی کر رہا تھا اس سے کہیں زیادہ گہری توجہ کے ساتھ ابو داؤد اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا۔

بدربن مغیرہ نے اس کا دروائی کے دوران میں چند بار رہبیر کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک سراسیمگی کی حالت میں اینجلا کے بستر کے قریب کھڑی تھی اور اینجلا کے زخمی ہونے سے زیادہ وہ اس بات سے متاثر تھی کہ دشمن کے اچانک حملے کے باوجود بدربن یا بشیر کے چہرے پر ذرہ بلا بر خوف یا اضطراب نہ تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے دہی آواز میں کہا۔ "معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلعہ دشمن کے تیروں کی زد میں آچکا ہے۔"

بدربن مغیرہ خود اس سے کچھ کہنے کے لئے بیقرار تھا۔ ربیعہ کی آواز نے اُسے فوراً متوجہ کر لیا اور اُس نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ "معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کا کوئی بھٹکا ہوا سپاہی رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر یہاں تک پہنچا اور اپنی موت کو یقینی سمجھ کر اُس نے اس طرف تیر ملا دیا ہے۔"

اگر وہ اب تک مارا نہیں جا چکا تو گرفتار ضرور ہو چکا ہوگا۔ تھوڑی دیر پہلے مجھے اطلاع ملی تھی کہ دشمن کے سواروں کی ایک ٹولی قلعے کے قریب دیکھی گئی ہے ممکن ہے کہ یہ انہی میں سے ایک ہو۔ مجھے آپ کی بہن کے زخمی ہونے کا بہت افسوس ہے۔ اگر میری طرف سے تھوڑی سی کوتاہی نہ ہوتی اور میں بروقت آپ کے کمرے کی کنٹرولنگ بند کروا دیتا تو شاید یہ حادثہ پیش نہ آتا آپ بیٹھ جائیں، گھبراہٹ میں نہیں آپ کی بہن بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔

ربیعہ چند قدم پیچھے ہٹ کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ بدر نے بشری کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔

”میں ذرا مہمانوں کو تسلی دے آؤں۔“

بشری نے کہا: ”بس میں بھی قریباً قارغ ہو چکا ہوں۔ اب صرف انہیں دوا پلانی ہے۔“

(۵)

مکرے کے نکلنے وقت بدر بن معیرہ، ربیعہ کے بستر کے قریب رکھا اور دبی زبان میں بولا۔

”آج کی فتح ایک شریف خاتون کے خواب کی تعبیر ہے۔ اگر اجازت ہو تو بادشاہ کے بھائی کے سامنے اس کا نام ظاہر کر دوں۔“

ربیعہ نے گھبرا کر پہلے مکرے کے دوسرے کونے میں اپنے ماں باپ اور پھر طہنجی نگاہوں سے بدر بن معیرہ کی طرف دیکھا اور گھٹی ہوئی آواز میں کہا: ”نہیں، نہیں۔ خدا کے لئے نہیں۔“

پھر وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی جو دنیا و مافیہا سے بے خبر میر یا کی طرف اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے سانپ اپنے شکار کی طرف دیکھ رہا ہو۔

بدر نے کہا: ”تو مجھے الزغل کے سلسلے میں جھوٹ بولنا پڑے گا۔ مجھے اس غیر متوقع حملے کے لئے اتنی بڑی تیاری کی کوئی اور وجہ بتانی پڑے گی۔“

ربیعہ نے قدرے جرات سے کام لیتے ہوئے آنکھیں اُپر اٹھائیں اور اس کے منہ سے بے اختیار یہ نکل گیا: ”میرا خواب صرف آپ کے لئے تھا۔“

اس ایک فترے میں ربیعہ نے تمام وہ رنگین داستانیں بیان کر دیں جو ابتدائے آفرینش سے حوا کی بیٹیاں فرزندِ آدم کو سنا تی چلی آئی ہیں۔ بولتے وقت اسے ان الفاظ کی گہرائیوں کا اندازہ نہ تھا لیکن دل کو لطیف اور خوش گو اور دھڑکنوں نے اُسے فوراً آگاہ کر دیا کہ وہ ایک بہت بڑی چھلانگ لگا چکی ہے۔ اُس کی آنکھیں جھبک گئیں، اس کا چہرہ حیلے سے تمٹما اُٹھا۔

بارہ جا چکا تھا لیکن وہ یہی محسوس کر رہی تھی کہ وہ ابھی تک اس کے سامنے کھڑا اس کی طرف گھور رہا ہے اور صرف وہی نہیں مگرے کی ہر شے اس کی طرف گھور رہی ہے۔ اپنے رگ و پے میں ایک ارتعاش محسوس کرتے ہوئے وہ بستر سے اُٹھی اور اینچلا کے بستر کے قریب آکھڑی ہوئی۔

بشیر بن حسن نے پیالی میں دوا ڈالی تو اس نے کہا: "لائیے میں پلا دیتی ہوں۔"

بشیر بن حسن اور اُس کا نوکر باہر جانے لگے تو ابو داؤد نے کہا: "کھڑیٹے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔"

بشیر نے کہا: "آپ آرام کریں۔"

"نہیں اب صبح ہونے والی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ علی الصباح حملہ کریں گے۔"

اگرچہ میری تربیت سپاہیانہ نہیں لیکن میرے جیسے آدمی کو سرحدی عتاب کی قیادت میں لڑنے کا موقع بار بار نہیں ملے گا۔ اگر میں نیر سے اور تلوار کا صحیح استعمال نہ کر سکوں تو کم از کم قیدیوں کو گننے میں آپ کے ضرور کام آسکوں گا۔"

بشیر نے کہا: "میرے خیال میں ابھی ان کے جانے میں کچھ دیر ہے۔ آپ اتنی دیر بچوں کا

دل بہلائیں۔ میں آپ کو وقت پر بلالوں گا۔"

اتنی دیر میں الزغل کی صحبت میں بیٹھیوں گا۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا بار بار نصیب

نہیں ہوتا۔"

دراصل ابو داؤد الزغل کی صحبت میں بیٹھنے سے زیادہ اپنی بیوی کی تہراؤدنگاہوں سے

دور رہنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ مکرہ خالی ہونے کا انتظار کر رہی ہے اور اس کے بعد قسطہ کی عام فہم زبان کے تیروں کی بارش رکنے کا نام نہیں لے گی۔ میرا نے نگاہوں کے جال بچھائے لیکن جب وہ اٹھ کر چل ہی پڑا تو اُس نے کہا: "تمہیں اینجلا کا بھی خیال نہیں۔ وہ زخم سے کراہ رہی ہے اور تمہیں سیر کا شوق چرایا ہے۔"

اینجلا بھی اپنی ماں کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ اس کی نگاہوں میں آنے والے طوفان کے ابتدائی جھونکے دیکھ چکی تھی۔ اُس نے کہا: "ابا جان آپ جائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔"

ابو داؤد نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا: "ربیعہ بیٹی تم اندر سے دونوں مکروں کے دروازے بند کر لو۔"

بشیر بن حسن نے کہا: "دروازے بند کرنے کی ضرورت نہیں۔ برآمدے میں کافی سپاہی گشت لگا رہے ہیں۔ میں انہیں ہدایت کر جاتا ہوں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ اندر سے آواز دے دیں۔ ہاں کھڑکیاں ضرور بند کر لیں اور تسلی رکھیں کہ حملہ آوروں کے قلعے تک پہنچنے کا کوئی امکان نہیں۔ انہیں بہت دور روکا جا چکا ہے۔"

ابو داؤد چلا گیا تو میرا ربیعہ کی طرف بھوکے بھڑیے کی طرح دیکھنے لگی۔ اینجلا فوراً صورت حال کی نزاکت بھانپ گئی اور اُس نے کولہتے ہوئے کہا: "ربیعہ! ذرا میرا سر دبا دو۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔"

ربیعہ اٹھ کر اُس کے سر ہانے بیٹھ گئی تو میرا بھی اٹھ کر اینجلا کے بستر کے قریب پہنچی اور کہنے لگی: "میری بیٹی! کہاں ہوتا ہے تمہیں درد؟" اور پھر ربیعہ کو بازو سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑ کر بولی: "جاؤ تم۔"

اینجلا نے کہا: "نہیں نہیں امی جان! ربیعہ ایک دُعا پڑھتی ہے جس سے میرا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔"

ماتانے فوراً ہتھیار ڈال دئے۔ میریانی نے طعنی ہو کر کہا۔ بیٹی ربیعہ تمہاری دعائیں اثر ہے۔

دعا کرو اینجلا کا زخم اچھا ہو جائے۔ میں تمہارا احسان نہیں بھولوں گی۔“

ربیعہ ایسے الفاظ سے فوراً نرم ہو جایا کرتی تھی۔ اُس نے کہا۔ ”اتنی جان! کیا اینجلا کے لئے

دعا کرنا بھی آپ پر احسان ہے۔ کیا اینجلا میری بہن نہیں۔“

”ربیعہ تم فرشتہ ہو۔ اچھا بیٹھ جاؤ اپنی بہن کے پاس۔“ اُس نے ایک طرف سمٹتے ہوئے

کہا۔

اینجلا نے کہا۔ ”اتنی جان! آپ آرام کریں۔“

”بیٹی جب تک تم تندرست نہیں ہو جاتیں مجھے آرام کہاں؟“

”نہیں اتنی آپ جائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔“

میریانی نے کہا۔ ”میں جانتی ہوں کہ تم اپنی بہن کے ساتھ پھر کوئی نہ ختم ہونے والی داستان

شروع کرنا چاہتی ہو۔“

ربیعہ نے کہا۔ ”اتنی جان آپ سو جائیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ قلعہ بالکل محفوظ ہے۔“

میریانی نے اٹھ کر اپنے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ”خدا کرے کہ وہ واپس جانے پر مجبور ہو

جائیں۔ ورنہ ہمیں اینجلا کے ساتھ اس حالت میں سفر کرنا پڑے گا۔“

ربیعہ نے کہا۔ ”وہ کہتے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی شاید زندہ بچ کر نہ جاسکے۔“

میریانی نے مایوس ہو کر کہا۔ ”کون کہتا تھا؟“

”سرحدی عقاب نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ میں آپ کو تسلی دوں۔“

تھوڑی دیر بعد جب اُونگھتے اُونگھتے بستر پر لیٹ گئی تو اینجلا نے سرگوشی کے انداز میں

کہا۔ ”ربیعہ تمہیں یقین ہے کہ یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا۔“

ربیعہ نے کہا۔ ”مجھے یقین ہے۔“

”ربیعہ ہم شاید چند دن اور یہیں رہیں۔“

”جب تک سفر کے قابل نہیں ہوتیں ہمیں یہیں رہنا پڑے گا۔“
 ایجنلانے یہ جاننے کے لئے کہ اُس کی ماں جاگ رہی ہے یا نہیں اُسے اہستہ سے آواز
 دی اور اُس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر ربیعہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی ”میں نے سردرد
 کا بہانہ کیا تھا۔“

ربیعہ نے جواب دیا۔ ”مجھے معلوم ہے۔“
 ”تمہیں کیا معلوم ہے؟“
 ”تم مجھے ماں کے غصے سے بچانا چاہتی تھیں۔“
 ”خدا کا شکر ہے کہ اباجان باہر نکل گئے ورنہ اتنی آسمان سر پر اٹھالیتیں۔“
 ربیعہ نے کہا۔ ”ایجنلا تمہیں زخم کی وجہ سے تکلیف تو ہوگی؟“
 ”نہیں جس زخم پر اُن کے ہاتھ مرہم رکھیں وہاں درد نہیں ہو سکتا۔ ربیعہ سچ کہو تمہیں
 اس بات کی خوشی نہیں کہ ہمارا سفر ملتوی ہو جائے گا۔“
 اُس نے جواب دیا۔ ”مجھے تمہارے زخمی ہونے کا افسوس ہے۔“
 ”کیا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ نہیں تھی کہ کل کا سفر ملتوی ہو جائے؟“
 ”یہ بیہودہ باتیں ہیں۔ میں کیسے یہ خواہش کر سکتی تھی کہ تم زخمی ہو جاؤ۔“
 ایجنلانے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا۔ ”ربیعہ جب وہ تمہارے علاج کے لئے آیا کرتا تھا
 تو میں یہ محسوس کیا کرتی تھی کہ تم میرا حق چھین رہی ہو۔ سچ پوچھو تو مجھے زخمی ہونے کا کوئی افسوس
 نہیں۔ وہ آج بہت پریشان تھا اور میں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے لئے
 پریشان ہو۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ میرا زخم اچھا ہوتا دیکھ کر اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔“
 ”میرے خیال میں اس کی پریشانی دلچسپی میں تبدیل ہو جائے گی۔“
 ”لیکن تم تو کہا کرتی ہو کہ میرے اور اس کے راستے مختلف ہیں۔“
 ”آئندہ میں یہ نہیں کہوں گی۔“

”ربیعہ میں تمہیں اس وقت دیکھ رہی تھی جب تمہارا عقاب آہستہ آہستہ تم سے کچھ کہہ رہا تھا اور تمہاری آنکھیں نہیں میں گڑھی جا رہی تھیں۔ تمہارا چہرہ حیا سے سرخ ہو رہا تھا۔“

”تو تم اس حالت میں بھی میری طرف ہی دیکھ رہی تھیں؟“

”ہاں! کیا کہہ رہا تھا وہ؟“

”کچھ نہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ قلعہ محفوظ ہے۔“

”نہیں وہ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ میرے کان بہت تیز ہیں۔ بتاؤں وہ کیا کہہ رہا تھا؟“

”بتاؤ؟“

وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ”خدا کا شکر ہے تمہیں چند دن اور یہاں رہنا پڑے گا۔“

”جھوٹی کہیں کی۔“ ایجنڈا منس پڑی۔

(۶)

الزغل، موسیٰ اور الزلیغری صبح کی روشنی میں محاذ جنگ کا نقشہ دیکھ کر بدر بن مغیرہ کے انتظامات پر حیران تھے۔ حملہ آوروں میں سے بہت کم ایسے تھے جنہیں جان بچا کر بھاگنے کا موقع ملا۔ بدر بن مغیرہ کے تیراندازوں نے حملہ آوروں کو وادیوں اور کھڈوں میں گھیر رکھا تھا۔ عیسائی اگر تیروں کی بارش میں کسی وادی سے نکلنے کی بہت کرتے اور کسی دوسری وادی میں پہنچ کر ایک لمحے کے لئے اطمینان کا سانس لیتے تو دوسرے لمحے انہیں تیروں کی زیادہ خطرناک بارش کا سامنا کرنا پڑتا۔ پو پھٹتے ہی جب بدر بن مغیرہ اپنے مہمانوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر قلعے سے باہر نکلا تو قلعے کے نغارے پر چوٹ پڑی اور آن کی آن میں چاروں طرف بیسیوں نغارے بجنے لگے۔ پھر آس پاس کے جنگلوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں اور آن کی آن میں کوئی تین ہزار سوار قلعے کے دروازے کے سامنے جمع ہو گئے۔

الزغل نے کہا: ”اگر میں جادو کا قائل ہوتا تو یہ کہتا کہ تم بہت بڑے جادوگر ہو۔ یہ فوج کہاں

سے آئی:-

”یہ سواریاں کے وقت محفوظ مقامات پر چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے رات کی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ان کا کام اب شروع ہوگا۔ میرے تیراندازوں نے مختلف جگہوں پر حملہ آوروں کے ریوڑ گھیر رکھے ہیں اور یہ نیزہ باز اب انہیں ایک جگہ جمع کریں گے۔“

دوپہر تک بدر بن مغیرہ کے ساتھی دشمن کے بقیۃ السیف آدمیوں کو گھیر کر ایک وادی میں جمع کر چکے تھے۔

ابو داؤد بھی زہرہ اور خود ہیں کر اپنی سپاہیانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کر چکا تھا۔ اُسے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ حملہ آور فوج کا سپہ سالار مارا جا چکا ہے اور سرحد کا گورنر اس حملہ میں شریک نہیں تھا تاہم اُسے ایک پریشانی اب بھی تھی اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لئے وہ بے تحاشا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اور اس بھاگ دوڑ میں دشمن کے تین آدمیوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار چکا تھا۔

جب قیدیوں کو لمبی لمبی قطاروں میں کھڑا کیا گیا تو اس نے ایک ایک آدمی کو اچھی طرح دیکھا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر نیزہ بازوں کے ایک گروہ میں شامل ہو گیا۔

ایک وادی کے گھنے جنگل میں سے گزرتے ہوئے اچانک اُسے چند پیادہ سپاہی قیدیوں کی ایک ٹوٹی کو گھیرے میں لئے آتے دکھائی دئے۔ وہ اپنے دستہ سے الگ ہو کر گھوڑا بھگاتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ پندرہ بیس قیدیوں پر نگاہ دوڑانے کے بعد اس کی نگاہ ایک شخص پر مرکوز ہو کر رہ گئی اور اس نے جلدی سے خود کا نقاب ڈرا اور تپتے کھسکا لیا۔ یہ قیدی اس کا کوچوان تھا۔ سپاہی اُس کے ہاتھ کا اشارہ پا کر رُک بیٹھے۔ اس نے ایک نوجوان سے جو اس گروہ کا افسر معلوم ہوتا تھا سوال کیا۔ ”کیا آپ نے اس شخص کو دشمن کی فوج کے ساتھ گرفتار کیا ہے؟“

”ہاں؟ اُس نے جواب دیا۔“ یہ ایک درخت پر چڑھ کر چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔“

”بڑا ملعون ہے یہ۔“ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑے سے نیچے اتر پڑا۔ گھوڑے کی باگ ایک سپاہی کے ہاتھ میں دے کر کوچوان کی طرف بڑھا اور قریب پہنچ کر بلند آواز میں بولا۔ ”مجھے یہ خیال بھی نہیں آسکتا تھا کہ میرا اپنا نوکرا اتنا ناک حرام اور منافق ہو سکتا ہے۔ کہو اس قلعے کی طرف تم نے دشمن کی فوج کی راہنمائی نہیں کی؟ تم زخمی تھے اور انہوں نے تمہیں اپنے قلعے میں پناہ دی اور تمہارا علاج کیا اور تم ان کے احسانات کا یہ بدلہ دے رہے ہو۔ اب کیا منہ لے کر ان کے سامنے جاؤ گے؟ تم نے مجھے بھی شرمسار کیا۔“

کوچوان جو خود کے باعث اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا اس کی آواز پہچان کر بھونچکا سا رہ گیا۔ یہ آواز اس کے آقا کی تھی لیکن الفاظ کسی اور کے تھے۔ معاً اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید مصلحت اسی میں ہو۔ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ ”میرے آقا آپ جانتے ہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ میں۔۔۔۔۔“

وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن ابو داؤد نے اچانک پوری قوت کے ساتھ اس پر تلوار کا وار کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔

نوجوان افسر نے اُسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا: ”تم کون ہو؟ قیدی کو قتل کرنا ہمارے دستور کے خلاف ہے۔ تمہیں سرحدی عقاب کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا۔“ ابو داؤد نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ ”آپ فکر نہ کریں میں اس کا جواب دے لوں گا۔“ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا خود اتار دیا اور پھر کہا: ”شاید آپ مجھے پہچانتے ہوں؟“

نوجوان افسر نے کہا: ”میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ آپ ہمارے امیر کے مہمان ہیں۔ میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے اس شخص کو کسی معقول وجہ کے بغیر قتل نہیں کیا ہوگا لیکن اس وقت وہ جنگی قیدی تھا۔“

ابو داؤد نے کہا: ”یہ شخص بیس سال سے میرا ملازم تھا۔ میں انتہائی مصیبت کی حالت میں قسطلہ سے فرار ہوا۔ وہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے تو سرحدی عقاب نے ہماری جانیں بچائیں۔ چند

دن یہ بھی ہمارے ساتھ ان کا مہمان رہا۔ میں نے اُسے گھر جانے کی رخصت دے دی تو یہ نصراہوں کی فوج کی راہنمائی کرتا انہیں یہاں تک لے آیا۔ مجھے پکڑوا کر یہ زیادہ سے زیادہ چند درہم حاصل کر سکتا تھا لیکن اگر خدا نخواستہ آپ ممانعت کے لئے تیار نہ ہوتے تو اس شخص کی جان بھی خطرے میں تھی جو اندلس کے مسلمانوں کا آخری سہارا ہے۔ اگر یہ عیسائی ہوتا تو میں یقیناً اُسے قتل نہ کرتا لیکن یہ مسلمان تھا۔ ایسے شخص کے لئے دنیا کے کسی قانون میں رحم کی گنجائش نہیں۔ بتائیے اگر آپ میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کرتا؟

نوجوان افسر نے لاجواب سا ہو کر کہا۔ ”معاف کیجئے مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان تھا۔ بیشک ایسے آدمی کی سزا یہی ہو سکتی ہے۔“

ابوداؤد ان سپاہیوں سے پہلے بدر بن مغیرہ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اپنے نوکر کے قتل کا واقعہ اس انداز سے اس کے سامنے بیان کیا کہ وہ اس کی نیک نیتی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ لیکن جب بشیر بن حسن کو اس واقعہ کا پتہ چلا تو وہ تھوڑی دیر کے لئے ایک فہمی کش مکش میں مبتلا رہا۔ تاہم ابوداؤد نے خود اس کے ساتھ یہ قصہ چھپر کر اس کے شکوک رفع کر دیئے۔

(۷)

بدر بن مغیرہ نے تمام قیدیوں کو ایک تنگ وادی میں جمع کر کے ان کے گرد تیر اندازوں کا پہرہ بٹھا دیا اور ایک دستہ کے سوا جو اسیروں اور زخمیوں کے گھوڑے جمع کرنے میں مصروف تھا باقی تمام سواروں کو جو ابی حملہ کے لئے تیاری کا حکم دیا۔

ظہر کی نماز کے بعد اُس نے الزغل سے کہا: ”میرا تھوڑا سا کام باقی ہے۔ آپ قلعہ میں آرام کریں میں انشاء اللہ فارغ ہوتے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس چھوٹی سی مہم کی راہنمائی کے لئے میں آپ کی شخصیت بہت بڑی سمجھتا ہوں۔ اس لئے آپ کو تکلیف نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ غرناطہ نے ابھی تک قسطہ کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ نہیں کیا ہے۔“

میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو تیاری کے لئے زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے اور دشمن کو یہی غلط فہمی رہے کہ اُن کی جنگ سرِ دست ہمارے ساتھ ہے۔“

الزغل نے کہا: تم کس جگہ حملہ کرنا چاہتے ہو۔“

بدر نے جواب دیا: میں نے کوئی خاص مقام معین نہیں کیا۔ دشمن کا خیال تھا کہ ہم سو رہے ہیں۔ ہم نے انہیں یقین دلادیا ہے کہ ہم جاگ رہے تھے۔ ہماری اس مہم میں لڑائی کم ہوگی اور سفر زیادہ ہوگا۔“

الزغل نے اپنی قبا اور عمامہ اتار کر ایک سپاہی کو دیتے ہوئے کہا: ”مجھے ایک سپاہی کے لباس کی ضرورت ہے۔ ہم سب تمہارے ساتھ جائیں گے۔ آج کے دن تم ہمارے سپہ سالار ہو۔ وہ دن آنے والا ہے جب تم غرناطہ کا جھنڈا اٹھاؤ گے لیکن آج میں سرحدی عتاب کا جھنڈا اٹھاؤں گا۔ بدگھبرؤ نہیں میں صرف حکم دینا ہی نہیں جانتا حکم ماننا بھی جانتا ہوں۔“

موسیٰ اور الزغیری اور اُن کے ساتھیوں نے الزغل کی تقلید کی اور بدر کے سپاہیوں کا لباس پہن کر اس کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو گئے۔

تھوڑی دیر بعد بدر بن مغیرہ تین ہزار سواروں کے ساتھ قلعہ سے باہر نکلا اور اپنا امتیازی نشان قائم رکھنے کے لئے سفید قبا اور سفید عمامہ پہنے ہوئے تھا۔

شام کے وقت فرطینینڈ کی مملکت کے سرحدی شہروں اور قصبوں کے باشندے اپنے فاتح سپاہیوں پر پھول پھیلا کر کرنے کی بجائے سرحدی عتاب کے طوفانی حملے کا سامنا کر رہے تھے۔

اگلی صبح سورج نکلنے سے تھوڑی دیر بعد یہ فوج سرحد کے ایک وسیع و عریض علاقے کو تاخت و تاراج کر کے واپس عتابوں کی وادی میں پہنچ چکی تھی۔ بعض سواروں کے آگے ہاشیوں کے ریوڑ تھے اور بعض اپنے گھوڑوں پر مالِ غنیمت لادے ہوئے تھے اور یہ فوج تاجروں کا ایک بہت بڑا قافلہ معلوم ہوتی تھی۔

بدر بن مغیرہ نے اپنے مستقر پر پہنچ کر اعلان کیا کہ اس مال غنیمت کا پانچواں حصہ غرناطہ کے بیت المال میں بھيجا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے پانچ سو تازہ دم سواروں کو ایک فوج کی قیادت میں سرحدی قلعہ کی طرف کوچ کرنے کے لئے تیار کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ قیدیوں کو ہانک کر سرحد کے پار پہنچائیں اور ایک خاص ایلچی کو بشیر بن حسن کے نام یہ پیغام دے کر بھیج دیا کہ دشمن کے وہ زخمی جو چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوں گھوڑوں پر سرحد کے پار پہنچا دئے جائیں اور جن کی حالت زیادہ خراب ہے ان کا علاج کیا جائے۔ میں ایک دو دن یہیں رہوں گا۔

اس کے بعد جب بدر بن مغیرہ، الزغل، موسیٰ اور الزغیری کے ساتھ غرناطہ کے آئندہ اقدامات پر بحث کر رہا تھا تو الزغل نے کہا: "فرڈیننڈ باقاعدہ لڑائی شروع کرنے میں تاخیر نہیں کرے گا۔ اور اگر وہ اس قلعہ پر قبضہ کر لیتا تو باقاعدہ لڑائی چھڑ چکی ہوتی۔ اُسے مزید تیاری کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ تمہاری اس شاندار فتح کی خبر سن کر غرناطہ کے لوگوں کے حوصلے بہت بلند ہو جائیں گے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں خود غرناطہ کے لوگوں کو تمہاری اس شاندار فتح کی خبر سناؤں۔ اس کے بعد غرناطہ پہنچ جاؤ۔ اہل غرناطہ نے برسوں سے اپنی قوم کے کسی فاتح سپاہی کا استقبال نہیں کیا اور غرناطہ کے شعراء زندوں سے مایوس ہو کر قبروں میں سونے والے سپاہیوں کے متعلق قصائد لکھتے ہیں، تمہیں دیکھ کر وہ یقیناً یہ خیال کریں گے کہ قدرت نے ان کے لئے حوادث کے سیلاب کا رخ بدلنے والا سپاہی بھیج دیا ہے اور عوام کا جوش و خروش دیکھ کر میرا بھائی فوراً اعلان جنگ کر دے گا۔ وہ پہلے ہی سردھڑکی بازی لگانے کے لئے تیار ہے۔ لیکن اُسے ڈر ہے کہ قوم اس کا ساتھ نہیں دے گی۔"

بدر بن مغیرہ نے کہا: "گزشتہ ملاقات کے بعد سے میں اپنے آپ کو غرناطہ کی فوج کا ایک سپاہی سمجھتا ہوں۔ اس محاذ پر میری بہیم جنگ کا مقصد صرف ایک تھا اور وہ یہ کہ جب تک اہل غرناطہ خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے ہم فرڈیننڈ کی توجہ اپنی طرف مبذول رکھیں لیکن اب مجھے وہ دن دور نظر نہیں آتا جب وہ پوری قوت کے ساتھ غرناطہ پر حملہ کر دے گا۔"

ارغون کی ملکہ اور قسطلہ کے بادشاہ نے اپنی شادی کے دن یہ حلف اٹھایا تھا کہ وہ غرناطہ فتح کئے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے اور اب تک تیاریوں میں مصروف ہیں۔ غرناطہ کو بچانے کی واحد صورت یہ ہے کہ ان کے حوصلے ہمیشہ کے لئے پست کر دئے جائیں۔“

الزغل نے کہا: ”حقیقت یہ ہے کہ ہم صخرہ پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور میں اس مقصد کے لئے آپ کو لینے کے لئے آیا تھا۔“

بدر نے کہا: ”میری فوج کے تمام سپاہی حاضر ہیں۔ میں ابھی آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں۔“

الزغل نے کہا: ”نہیں آپ کے سپاہیوں کا اس محاذ پر رہنا ضروری ہے۔ سر دست آپ انہیں کسی قابل اعتماد آدمی کی قیادت میں سوئپ کر غرناطہ پہنچ جائیں۔ شاید آپ کے پہنچنے سے ایک دو دن بعد ہی ابوالحسن جنگ کے اکھاڑے میں کودنے کے لئے تیار ہو جائے۔“

موسیٰ نے کہا: ”میرے خیال میں اگر یہ اپنی فوج کے چند دستوں کے ساتھ غرناطہ پہنچیں تو لوگوں پر اس کا خوشگوار اثر ہوگا اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ابتدائی جنگوں میں غرناطہ کی فوج کے طرفانی دستوں کی قیادت ان کے سپرد کر دی جائے۔ ان کی موجودگی میں لوگوں کا حوصلہ بہت بڑھ جائے گا۔ اس کے بدلے ہم اس سرحد کی حفاظت کے لئے اپنی فوج کے کچھ سپاہی یہاں بھیج دیں گے۔“

بدر نے کہا: ”ہمارا مقصد دشمن پر فتح پانا ہے اور میں ہر اس محاذ پر پہنچتا ہوں گا جہاں میری ضرورت ہوگی۔ سر دست مجھے یہ اطمینان ہے کہ اگر میں دو ہزار سپاہی بھی یہاں سے لے جاؤں تو بھی ہمارا یہ مورچہ کمزور نہیں ہوگا۔ تاہم مجھے آپ کی اس تجویز سے اتفاق ہے کہ یہاں سپاہیوں کی تعداد میں کمی نہ آئے۔ اگر یہاں سے ایک ہزار تجربہ کار سپاہی نکالے جائیں تو ان کی جگہ غرناطہ سے اتنے ہی نئے سپاہی بھرتی کر کے بھیج دئے جائیں۔ اس صورت میں یہ علاقہ ہمیں ایک دفاعی مرکز کا کام دے گا اور دوسرے ہم سرحد پر چھوڑ چھاڑ جاری رکھ کر فریڈنڈ کی توجہ ایک

سے زیادہ محاذوں پر بانٹ سکیں گے۔“

الزغیری نے سوال کیا۔ آپ کو یقین ہے کہ فرڈیننڈ اس تازہ شکست کے بعد غرناطہ سے پہلے اس علاقے کو فتح کرنا ضروری خیال نہیں کرے گا؟“

بدر بن مغیرہ نے جواب دیا۔ ”مجھے یقین ہے کہ گزشتہ تجربات نے اُسے بہت ڈورا ندیش بنا دیا ہوگا۔ اُسے یہ یقین ہو چکا ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ باقی تمام اندلس پر قبضہ کر لے تو بھی اُسے برسوں تک ان چٹانوں کے ساتھ سر ٹکرانا پڑے گا۔ تاہم اگر وہ ایسا فیصلہ کرے تو یہ مسلمانانِ اندلس کے لئے ایک نیک شگون ہوگا۔ ہم کم از کم دس برس تک اس کی تمام قوت اس محاذ پر مبذول رکھ سکیں گے اور اگر اہل غرناطہ خود کشتی کا پورا ارادہ نہیں کر چکے تو اتنی مدت میں وہ کروٹ ضرور بدلیں گے۔“

الزغیری نے سوال کیا: ”اگر گستاخی نہ ہو تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کتنی فوج ہے؟“

بدر بن مغیرہ نے جواب دیا: ”اب تک جتنے سپاہی آپ نے دیکھے ہیں اتنے ہی اور ہوں گے۔“

موسیٰ نے کہا: ”فرض کیجئے کہ حالات ہماری یا آپ کی توقع سے زیادہ آپ کو غرناطہ میں ٹھہرنے پر مجبور کر دیں تو آپ کے سالاروں میں سے کوئی ایسا ہے جو آپ کی غیر حاضری میں اسی قدر ہوشیاری سے کام لے سکے جو آپ نے کل دشمن کے غیر متوقع حملہ کا مقابلہ کرنے میں دکھائی ہے۔ میرا مطلب ہے کوئی ایسا شخص جس کی موجودگی میں آپ کے سپاہیوں کو آپ کی غیر حاضری کا احساس نہ ہو۔“

”اس میں شک نہیں کہ میرے سپاہی مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ میرے پاس دس سے زیادہ آدمی ایسے ہیں جن میں سے ہر ایک میری جگہ لے سکتا ہے۔“

الزغلی نے کہا: ”آپ کی نظر میں باقی میں سے بہترین کون ہے؟“

”میرا نائب منصور بن احمد“

”منصور بن احمد وہ نوجوان تو نہیں جو آپ کے ساتھ مُشکی گھوڑے پر سوار تھا؟“

”نہیں وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے۔ وہ قرطبہ گیا ہوا ہے۔“

”قرطبہ؟ کیا وہ قرطبہ کا باشندہ ہے؟“

”نہیں وہ اشبیلیہ کا باشندہ ہے اور قرطبہ دورے پر گیا ہوا ہے۔“

”دورے پر؟“

”نئے سپاہی بھرتی کرنے کے لئے۔“

”اور وہ اشبیلیہ سے خود یہاں کیسے پہنچا؟“

”جس طرح دوسرے سپاہی پہنچے ہیں اسے بشیر بن حسن لایا تھا۔“

انگلے دن الزغل اور اس کے ساتھیوں نے بد بن مغیرہ سے یہ وعدہ لے کر کہ وہ ایک

ہفتہ کے بعد ایک ہزار سپاہیوں کے ساتھ غرناطہ پہنچ جائے گا وہاں سے کوچ کیا۔

قوم اور اس کا سپاہی

(۱)

سرحدی عقاب ایک ہزار سواروں کے ہمراہ غرناطہ میں داخل ہوا۔ اس کی تازہ فتح کی خبر سلطنت کے ہر شہر میں پہنچ چکی تھی۔ اہل غرناطہ کو برسوں کی آندوؤں کے بعد اس کی صورت دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ برسوں کے بعد انہوں نے ایک فاتح کا جلوس نکالا۔ موسیٰ اور غرناطہ کی فوج کے چند بڑے بڑے عہدہ دار جنہوں نے غرناطہ سے ایک منزل آگے پہنچ کر بادشاہ کی طرف سے اس کا استقبال کیا تھا اس کے ہمراہ تھے۔ غرناطہ کا ماجد ابو الحسن، اس کا ولی عہد ابو عبد اللہ محمد اور بادشاہ کا بھائی ابو عبد اللہ الزغل شاہی محل کے دروازے کے برج پر کھڑے اس کا شاندار جلوس دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کا جوش و خروش اس زمانے کی یاد تازہ کر رہا تھا جب اندلس کے مجاہد شمال میں شاندار فتوحات حاصل کرنے کے بعد واپس آیا کرتے تھے۔

لوگ مکانوں کی چھتوں سے پھولوں کی بارش کر رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ حسب معمول سفید قبائیں طبوس تھا۔ لیکن آج اس کے چہرے پر نقاب نہ تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ موسیٰ اور بائیں ہاتھ الزغری سوار تھا۔ غرناطہ کی فوج کے ایک اور جانباز سپاہی نعیم رضوان نے اس کے گھوڑے

کی باگ تھام رکھی تھی اور سب سے آگے ایک مجاہد اپنے ہاتھ میں سرحدی عقاب کا ہلالی پرچم اٹھائے چل رہا تھا۔

یہ جلوس پھولوں کی سیج روندتا ہوا قلعے کے دروازے کے سامنے رکا۔ ابو الحسن نے الزغل کی طرف دیکھا اور مسرت کے آنسو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا: "مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ وہ ہمارا ہے۔" پھر وہ ابو عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ "بیٹا تمہیں اس کے استقبال کے لئے جانا چاہیے تھا۔"

"مجھے؟" ابو عبداللہ نے حیران ہو کر کہا۔

"ہاں تمہیں۔ یہ تمہارا فرض تھا کہ سب سے پہلے تم اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے۔"

"لیکن شاہی گھرانے کا وقار۔"

ابو الحسن نے کہا: "شاہی گھرانے کا وقار ہمیشہ ایسے مجاہدوں کی تلوار کا شرمندہ احسان ہوا کرتا ہے۔"

الزغل نے کہا: "آپ دربار میں جائیں۔ اسے وہاں لانے کے لئے میں خود جاتا ہوں۔" ابو الحسن نے کہا: "نہیں اب جب ابو عبداللہ نے شاہی گھرانے کے وقار کا سوال اٹھایا ہے۔ اس کا قائم رہنا ضروری ہے۔ بدر بن مغیرہ کی پیشوائی کے لئے میں خود چلتا ہوں۔ آپ دربار میں جمع ہونے والے تمام اُمراء کو حکم دیجئے کہ وہ بھی باہر آجائیں اور میرے لئے پھولوں کا ایک ہار بھی بھیج دیجئے اور موسیٰ کو یہ کہلا بھیجئے کہ وہ تھوڑی دیر اور جلوس کو دروازے پر روکے۔" لوگ قلعے کے دروازے کے سامنے بدر بن مغیرہ کے گرد گھیر ڈالے فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ موسیٰ نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر راستہ صاف کیا۔ لیکن پیشتر اس کے کہ یہ جلوس آگے روانہ ہو شاہی ایوان کا ناظم بھاگتا ہوا قلعہ سے باہر نکلا اور موسیٰ کے قریب پہنچ کر بولا: "شاہی سردمان ہے کہ معزز مہمان کو تھوڑی دیر کے لئے یہاں روکا جائے۔"

تھڑی دیر بعد ابو الحسن امرائے سلطنت کے ساتھ دروازے سے نمودار ہوا اور لوگ تصویرِ حیرت بنے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ابو الحسن کو سیرٹھیوں سے نیچے اترتا دیکھ کر موسیٰ اور الزیغری گھوڑوں سے اتر پڑے۔ نعیم رضوان نے جو بدر بن مغیرہ کے گھوڑے کی باگ تھامے ہوئے تھا اس کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا: "بادشاہ سلامت خود تشریف لارہے ہیں۔" بدر بن مغیرہ نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی۔

(۲)

اتنی دیر میں ابو الحسن اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اُس نے مصافحہ کرنے کی بجائے اُسے گلے لگانے کے بعد اُس کی گردن میں پھولوں کا ہار ڈال دیا اور پھر علمبردار کے ہاتھ سے جھنڈا لیکر اُسے بوسہ دیتے ہوئے بولا: "موسیٰ! اہلِ غرناطہ کو خوشخبری دو کہ آج سے ہمارے محل پر سرحدی عقاب کا پرچم لہرائے گا۔ ہمارے پرچم بوسیدہ ہو چکے تھے۔ بدر بن مغیرہ ہمارے لئے ایک نیا پرچم لے کر آیا ہے۔ ہماری تلواریں زنگ آلود ہو چکی تھیں قدرت نے انہیں نئی چمک عطا کرنے والا بھیج دیا۔ ہم اپنے معزز مہمان کی تشریف آوری کے لشٹان کے شکر گزار ہیں۔"

موسیٰ سیرٹھیوں پر کھڑا ہو کر عجم کی طرف متوجہ ہوا۔ لوگ ایک دوسرے کو خاموشی کی تلقین کرنے لگے۔ وہ موسیٰ کو غرناطہ کی زبان سمجھتے تھے۔ جب اس نے ہاتھ بند کئے تو لوگ دم بخود ہو کر

سہ موسیٰ بن ابی غصان کی شعلہ بانی اور آتش نوائی کے قصے اب تک مشہور ہیں۔ جہاں تک شجاعت کا تعلق ہے اس کی شخصیت ہندوستان کے سلطانِ ٹھپو اور ترکی کے انور پاشا سے مختلف نہیں اسپین کے مؤرخین نے اس کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ جب اندلس میں مسلمانوں کی کشتی طوفانِ حوادث میں ڈگمگا رہی تھی موسیٰ کی شخصیت ان کے لئے روشنی کا معیار تھی۔ اندلس کے مسلمانوں کے زوال کی داستان اس وقت مکمل ہوتی جب اس اولوالعزم مجاہد کی تلوار ٹوٹ چکی تھی۔ دارالحمراہ کی دیواریں (باقی ص ۱۴۱ پر)

اُس کی طرف دیکھنے لگے۔ موسیٰ نے تقریر شروع کی :-

"غزناطہ کے لوگو! آج تمہارے درمیان وہ اولوالعزم مجاہد کھڑا
 جس نے اندلس کی تاریخ میں اپنا نام نوکِ شمشیر سے لکھا ہے جس
 نے مٹھی بھر مجاہدین کے ساتھ کئی بار فرڈینیٹڈ کی ٹڈی دل افواج
 کو شکست دی ہے۔ بددین مغیرہ تمہارا سرحدی عقاب، تمہارے
 لئے ایک پیغام لے کر آیا ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ وہ جماعت
 جو اپنی عزت اور آزادی کے لئے خون میں نہانے اور آگ میں
 کوٹنے کے لئے تیار ہو اُسے دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی۔
 قرطبہ اشبیلیہ اور طلیطلہ میں ہماری عظمت کے جھنڈے اس
 لئے مہرنگوں ہو گئے کہ ہم خود وہ راستہ اختیار کر چکے تھے جو قوموں
 کو اوجِ کمال سے قعرِ مذلت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف
 نے لٹن شہروں میں اپنے خون سے جو نقش و نگار بنائے تھے،
 انہیں ہم نے اپنے آنسوؤں سے دھو ڈالا۔ مسلمانو! اگر تم نے
 اہلِ قرطبہ کے انجام سے عبرت حاصل نہ کی تو یاد رکھو مستقبل کے
 مورخ صرف ہامنی کے کھنڈروں میں تمہاری داستان کے
 بکھرے ہوئے لوراق تلاش کیا کریں گے۔

قرطبہ اور اشبیلیہ کی عظیم الشان سلطنتیں کسی دشمن کی قوت نے
 ہمارے ہاتھ سے نہیں پھینیں، انہیں ہم نے خود کھویا ہے۔ ہماری

(بقیہ صفحہ ۱۴۲) اس وقت متزلزل ہوئیں جب یہ آہنی ستون گر چکا تھا۔ اس کی ولولہ انگیز تقریروں نے
 کئی بار غزناطہ کے لوگوں کو خوابِ غفلت سے جگایا۔ اس کی تلوار انہیں بار بار فتح اور آزادی کی شاہراہ تک
 لے گئی لیکن وہ اس قوم کو تباہی سے نہ بچا سکا جس کے اکابرین میں سے اکثر خودکشی کا فیصلہ کر چکے تھے۔

ترقی اور فلاح کا راز اس شاہراہ عظیم پر چلنے میں تھا جو ہمیں
 محمد مصطفیٰ نے دکھائی تھی۔ اس شاہراہ پر چلتے ہوئے ہم عرب
 کے ریگزاروں سے نکل کر ہسپانیہ کے مرغزاروں تک آ پہنچے۔
 اسی شاہراہ پر چلتے ہوئے ہم نے قیصر اور کسریٰ کے تاج پاؤں
 تلے روند ڈالے۔ یہ شاہراہ ہمیں افریقہ کے تپتے ہوئے صحلوں
 اور کوہ البرز کی برفانی چوٹیوں تک لے گئی۔

ہمارا منزل اس وقت شروع ہوا جب ہم یہ شاہراہ چھوڑ
 چکے تھے۔ اسلام نے ہمارے لئے قدرت کے انعامات کا دروازہ
 کھولا تھا لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے رحمت کا یہ دروازہ بند
 کر دیا۔ اسلام نے ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا تھا لیکن ہم
 خانہ جنگیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اسلام نے ہمیں ایک ہونے کی
 تعلیم دی تھی لیکن ہم جماعتوں اور فرقوں میں بٹ گئے۔ اسلام نے
 نسلیت کے بت توڑ کر اسلامی اخوت کی بنیاد ڈالی تھی اور عربی
 اور عجمی کو ایک صف میں کھڑا کیا تھا لیکن ہم اس بت کو دوبارہ اپنی
 آستینوں میں جگہ دی۔ ہم نے خدا کی رسی چھوڑ دی اور نسلیت اور
 وطنیت کے بتوں کے سامنے سر جھکا دیا۔ دنیا کے ہر گوشے میں ایک
 نسل اور وطن کے مسلمانوں کی تلواریں اور دوسری نسل اور وطن کے
 مسلمانوں کی تلواریں کے ساتھ ملکر اٹیں۔ عربی نے عجمی اور عجمی نے عربی
 کا گلا کاٹا۔ ترکی اور ایرانی ایک دوسرے کے مقابلہ میں صف آرا ہوئے
 اور اسلام کی چٹان ریت کا انبار بن کر رہ گئی۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہماری
 اجتماعی قوت ایک ایسا سیلاب تھا جو مزاحمت کی ہر دیوار کو بہا کر لے

گیا لیکن جب ہم میں نسلیت کا فتنہ بیدار ہوا، ہمیں دنیا کی حقیر ترین اقوام کے ہاتھوں بدترین شکستیں دکھنی پڑیں۔ اس کے باوجود ہم نے ان واقعات سے عبرت حاصل نہ کی۔

غرناطہ کے مسلمانو! میں تم سے پوچھتا ہوں کیا صدیوں کی حکومت کے بعد قرطبہ، اشبیلیہ اور اندلس کے دوسرے شہروں کا ہمارے ہاتھ سے چھین جانا اس لئے نہ تھا کہ ہم میں نسلیت کا فتنہ بیدار ہو چکا تھا۔ مقام عبرت ہے کہ جب عیسائیوں کی افواج ان شہروں کا محاصرہ کر رہی تھی اندلس کے مسلمانوں میں عربی ہسپانوی اور بربری ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے اندلس کے شہر ایک ایک کر کے ہمارے قبضہ سے نکل گئے مسلمان اس قوم کے غلام بنا دئے گئے جس پر انہوں نے صدیوں حکومت کی تھی۔ آج صرف غرناطہ کی چھوٹی سی سلطنت ہمارے قبضہ میں رہ گئی ہے۔ یہ ہمارا آخری حصار ہے اور دشمن اس پر بھی قبضہ کرنے کی فکر میں ہے لیکن ہمیں ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ ہم میں ابھی تک نسلیت کا فتنہ موجود ہے۔ ہم اب بھی ہسپانوی، عربی اور بربری کا فرق مٹانے کے لئے تیار نہیں۔

اندلس کے وہ مسلمان جو عیسائیوں کی غلامی میں بدترین اذیتیں برداشت کر رہے ہیں اس امید پر زندہ ہیں کہ غرناطہ کے مسلمان ان کی مدد کے لئے پہنچیں گے۔ تم ان کا آخری سہارا ہو لیکن اگر خدا نخواستہ تم اپنی حفاظت بھی نہ کر سکتے تو اندلس کے مسلمانوں کی تاریخ آنے والی نسلوں کے لئے ایک عبرتناک داستان بن کر رہے

جائے گی اور سیاح ان اُحمری ہوتی عمارات کو دیکھ کر یہ کہیں گے
کیا انہیں تعمیر کرنے والے واقعی مسلمان تھے۔

فرطی نینڈ نے ہم سے خراج مانگا ہے اور ہم نے اُسے یہ جواب
دیا ہے کہ ہمارے دارالضرب میں صرف تلواریں بنتی ہیں اور یہ جواب
اس یقین کے ساتھ ہم نے دیا ہے کہ ہماری تلواریں ہماری آزادی کی
حفاظت کر سکتی ہیں۔“

موسیٰ کی تقریر کے بعد لوگ شور مچانے لگے کہ ہم سرحدی عتاب سے کچھ سُننا چاہتے ہیں۔
ابوالحسن نے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: ”آپ ضرور کچھ کہیں میرے محل کے سامنے کبھی
اتنے آدمی اکٹھے نہیں ہوئے۔“

بدر بن مغیرہ تذبذب کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ موسیٰ نے بازو سے پکڑ کر
اُسے یہ پٹیوں پر کھڑا کر دیا۔

بدر بن مغیرہ کے لئے اتنے آدمیوں کے سامنے تقریر کرنا ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔
چند لمحات کے لئے وہ تذبذب کی حالت میں لوگوں کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اُس نے جھکتے ہوئے ابتدا کی:-

”زندہ دلائل غرناطہ! موسیٰ بن ابی غسان کی تقریر کے بعد میں کسی
اور تقریر کی ضرورت نہیں سمجھتا اور شاید تم بھی خوابِ غفلت سے
جاگنے کے لئے صوبہ امرا فیل کے بعد کسی اور ہنگامے کی ضرورت
محسوس نہ کرو۔ میرا یہ دعوئے ہے کہ جو قوم اپنے دورِ انحطاط میں بھی
بہو موسیٰ جیسا مجاہد پیدا کر سکتی ہے اُسے کوئی نہیں مٹا سکتا لیکن یہ
ضروری ہے کہ تم جس شخص کو اپنا راہنما سمجھو اس کی آواز پر صدقہ سے
لبیک کہو۔ وہ جو کہے اس پر عمل کرو۔ یاد رکھو! دنیا کا بڑے سے بڑا
طبیب ایسے مریض کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جو مرنے پر تلا ہوا ہو۔“

تم اپنے گرد و پیش سے اچھی طرح واقف ہو تمہارے اُفق پر چاروں طرف مصائب کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں۔ قرطبہ اور اشبیلیہ میں ہماری سطوت کے محل مسامرہ ہو چکے ہیں۔ اس ملک میں آٹھ سو برس کی حکومت کے بعد ہماری قوم کے لاکھوں افراد ایک ایسے دشمن کی غلامی کی چکی میں پس رہے ہیں جس کے دل میں ہمارے لئے نہ رحم ہے اور نہ انصاف۔ آج صرف غرناطہ ہمارا آخری حصار رہ گیا ہے اور اگر ہم نے ان غلطیوں کا اعادہ کیا جو قرطبہ، اشبیلیہ اور طلیطلہ وغیرہ میں ہمارے بھائیوں سے سرزد ہو چکی ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ کسی دن یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا جب شمال کے عیسائی اُمراء ہمارے خلاف متحد ہو رہے تھے۔ ان شہروں میں ہمارے اُمراء ایک دوسرے سے برسرِ پیکار تھے۔ ایک کافر دوسرے کافر کو گلے لگا رہا تھا لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلہ لگا رہا تھا۔ ہمارے دشمنوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ تمام کفر ایک ہے لیکن ہم یہ ثابت نہ کر سکے کہ اگر تمام کفر ایک ہے تو تمام اسلام بھی ایک ہے۔ وہ فتوحات کے شوق میں متحد ہو گئے لیکن ہمیں اپنی شکست کا خوف بھی متحد نہ کر سکا۔ مراکشی مسلمان بربریں مسلمان کا دشمن بنا رہا۔ اور بربری مسلمان اندلسی مسلمان کے خون کا پیاسا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شہر ایک ایک کر کے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔

دشمنانِ اسلام پھر ایک بار متحد ہو رہے ہیں۔ اب ان کی نظر غرناطہ پر ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم غرناطہ کی حفاظت بھی نہ کر

سکے تو اندلس میں مسلمانوں کا صرف نام رہ جائے گا۔ یہ سب باتیں
 ابو موسیٰ تم سے کہہ چکا ہے۔ میں صرف ایک بات تم سے کہنا چاہتا
 ہوں کہ اب الفانسو کی بجائے فرٹینڈ ہمارے ساتھ تلوار کی
 زبان سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ مسلمان
 آج بھی تلوار کی زبان بولنا جانتا ہے۔ اہل غرناطہ! قوموں کی زندگی
 میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب قلم کی بجائے تلوار کی زبان
 زیادہ صحیح ہوتی ہے اور تمہارے لئے وہ وقت آچکا ہے۔“

بدر بن مغیرہ کی تقریر کے بعد جب لوگ نعرے لگا رہے تھے ابو الحسن نے اُس سے
 کہا۔ ”میں آپ کے ساتھ باتیں کرنے کے لئے بے قرار ہوں۔ جلوس کے اختتام پر ابو موسیٰ آپ
 کو میرے پاس لے آئے گا۔“

(۳)

سرحدی عتاب کی آمد سے دس دن بعد غرناطہ کے باشندے ہزاروں کی تعداد میں
 شہر سے باہر کھڑے ہو کر ابو الحسن کی فوج کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ برسوں کے بعد غرناطہ کی
 فوج پہلی بار اپنی سلطنت کے کسی امیر کی سرکوبی کی بجائے دشمن کے خلاف کسی محاذ پر جارہی
 تھی۔ برسوں کے بعد ہسپانوی، بربری اور عربی مسلمان لڑا اور سپاہی ایک امیر کے جھنڈے
 تلے جمع ہوئے تھے۔

ابو الحسن نے کوچ کا حکم دینے سے پہلے فوج کا معائنہ کرنے کے بعد بدر بن مغیرہ سے
 کہا۔ بدر! تم نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا ہے۔ خدا کی قسم! اگر عربی، بربری اور ہسپانوی
 مسلمان اسی طرح دوش بدوش کھڑے رہے تو کوئی وجہ نہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اپنے
 اسلاف کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہم پھر ایک بار فرانس تک پہنچیں گے۔“

بدربین مغیرہ نے جواب دیا "مجھے یقین ہے کہ جب تک آپ کی تلوار نیام سے باہر رہے گی۔ اہل غرناطہ میں انتشار پیدا نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو ایک صف میں کھڑا کرنے کے لئے ایک متحدہ محاذ کی ضرورت تھی۔ جب تک ہماری تلواریں نصرانیوں کے ساتھ ٹکراتی رہیں گی اس وقت تک مسلمان گھریلو جھگڑوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔"

الزغل اس مہم میں اپنے بھائی کا ساتھ دینے پر مصر تھا لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ابوالحسن نے دارالسلطنت کی حفاظت اور اس سے زیادہ اپنے بیٹے کی نگرانی کے لئے اپنے بھائی کو دارالخلافہ میں چھوڑنا مناسب خیال کیا۔

ابوالحسن نے اس مہم کے لئے اپنے لشکر میں پیادہ سپاہ کو شامل نہ کیا اور ایک حیرت انگیز رفتار سے یلغار کرتا ہوا ولدی لکھ تک جا پہنچا۔

موسى ابن ابی غسان اس کا نائب سالار تھا اور ہراول کے طوفانی دستوں کی قیادت بدربین مغیرہ کے سپرد تھی۔

ابوالحسن نے سرحد کے چند علاقے مستحکم کرنے کے بعد صخرہ کا محاصرہ کر لیا اور جب غرناطہ میں اس شہر کے محاصرہ کی خبر پہنچی تو عوام میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ صخرہ کا عیسائی حاکم مسلمانوں پر اپنے وحشیانہ مظالم کے باعث فرڈیننڈ کے تمام عمال سے زیادہ بدنام تھا۔ اہل غرناطہ برسوں سے صخرہ سے بھاگ کر غرناطہ میں پناہ لینے والے مسلمانوں کی مظلومیت کی داستانیں سن رہے تھے صخرہ کے محاصرہ کی خبر سن کر انہوں نے مساجد میں ابوالحسن کی فتح اور دلازٹی عمر کے لئے دعائیں کیں۔

ابوالحسن کا خیال تھا کہ صخرہ کا محاصرہ طویل کھینچے گا لیکن چار دن کے بعد رات کے تیسرے پہر شہر کے باغی مسلمانوں کی ایک جماعت نے پہر یادیوں پر حملہ کر کے شہر کا ایک دروازہ کھول دیا اور ابوالحسن کی فوج جسے وہ پہلے ہی اپنے اس ارادے سے باخبر کر چکے تھے معمولی مزاحمت کو کھینچنے کے بعد شہر پر قابض ہو گئی۔

اس جنگ میں زخمیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ انہیں ابو الحسن کے حکم سے گورنر کے محل کے ایک کشادہ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ دوپہر کے وقت ابو الحسن، موسیٰ، بدر اور چند اور سالاروں کے ساتھ زخمیوں کو دیکھنے کے لئے آیا۔ چند جراح جو ان زخمیوں کی مرہم پی کر رہے تھے ادب سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے لیکن ایک شخص جو انتہائی انہماک کے ساتھ ایک سپاہی کے سر اور گردن کے زخموں پر پیٹی باندھ رہا تھا، ابو الحسن کے قریب پہنچنے پر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ بال سے بھی وہ ایک طبیب یا جراح کی بجائے سپاہی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی زرہ چمک رہی تھی۔ ابو الحسن نے ایک ثانیر کے لئے زخمی کی طرف دیکھا اور طبی دستہ کے سالار کو آواز دے کر کہا: "اس آدمی کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔"

طبی دستے کا سالار بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور زرہ پوش کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے بولا۔
"میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ بیمار کام ہے۔"

جب زرہ پوش نے اس پر بھی سنی ان سنی کر دی تو اس نے ذرا ترش ہو کر کہا: "اگر آپ کو میرا لحاظ نہیں تو کم از کم بادشاہ سلامت کی موجودگی کا لحاظ ضرور ہونا چاہیے۔ سپاہی کا مقام میدان جنگ ہے یہ جگہ نہیں۔"

زرہ پوش نے ایک ثانیر کے لئے گردن اوپر اٹھائی اور جواب دیا۔

"آپ میرا وقت ضائع نہ کیجئے۔ زخمی کی حالت بہت نازک ہے۔"

بدر بن مغیرہ زرہ پوش کی آواز سن کر چونک پڑا لیکن چونکہ آنکھوں کے سوا اس کا چہرہ

خود میں چھپا ہوا تھا اس لئے وہ زرہ پوش کو فوراً نہ پہچان سکا۔ طبی دستے کا سالار سٹپٹا گیا اور اس نے کہا: "اگر آپ کو پیٹی باندھنے کا شوق ہے تو باہر جا کر دشمن کے کسی مقتول پر طبع آزمائی کریں۔"

زرہ پوش نے پیٹی کو آخری گره دیتے ہوئے کہا: "مجھے پیٹی باندھنے کا شوق نہیں زخمیوں

کا علاج کرنے کا شوق ہے۔"

ابو الحسن کی حیرت دل چسپی میں تبدیل ہو چکی تھی لیکن طبیب کی قوت برداشت جو اب دے چکی تھی۔ اس نے زخمی کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک اور طبیب کو آواز دے کر کہا۔
"اسے باہر لے جاؤ۔ یہ کوئی جنونی قسم کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔"

دوسرا طبیب آگے بڑھا لیکن ابو الحسن کا اشارہ پا کر اس نے اپنے افسر کے حکم کی تعمیل نہ کی۔

طبی دستہ کے سالار نے زخمی کی پٹی کھولنے کی کوشش کی لیکن زہر پوش نے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا: اگر آپ نے پٹی کھول دی تو اس کی موت یقینی ہے۔ میں آپ کے کام میں دخل نہ دیتا لیکن آپ کو شاید یاد نہیں کہ آپ نے اُسے ناقابل علاج سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔
اس دوران میں بدین مغیرہ کے تمام شکوک دُور ہو چکے تھے۔ آواز کے علاوہ وہ زہر پوش کا تھیلا بھی پہچان چکا تھا۔ وہ ان ہاتھوں سے مانوس تھا جو کئی بار اس کے اپنے زخموں پر مرہم رکھ چکے تھے۔ اُس کی حیرانی مسرت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے طبی دستہ کے سالار سے مخاطب ہو کر کہا: "آپ پریشان نہ ہوں۔ میں اُنہیں جانتا ہوں۔ بشیر! تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟"

زہر پوش نے خود کا نقاب اوپر سر کا دیا اور اٹھ کر ادب کے ساتھ ابو الحسن کے سامنے کھڑا ہو گیا۔

موسیٰ نے چونک کر کہا: "بشیر بن حسن! — آپ یہاں کب آئے؟"

اس نے جواب دیا: "میں آج ہی یہاں پہنچا ہوں۔"

موسیٰ نے ابو الحسن سے مخاطب ہو کر کہا: "یہ بشیر بن حسن ہیں۔ یہ ہمارے عقاب کے پروں کی رکھوالی کرتے ہیں۔"

ابو الحسن نے گرم جوشی کے ساتھ بشیر بن حسن سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا: "میں آپ کی تعریف سن چکا ہوں۔"

بشیر بن حسن نے ابو الحسن کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے کہا: "معاف کیجئے میری طرف سے
آداب بجالانے میں کوتاہی ہوئی۔ زخمی کی حالت خراب تھی۔"

طبی دستے کا سالار پریشانی، ندامت اور بے کسی کی حالت میں کھڑا تھا۔ بشیر بن حسن
نے اس سے مخاطب ہو کر کہا: "میں بے جا مداخلت کا مجرم ہوں لیکن یہ شخص بازار میں بیہوش
پڑا تھا اور سپاہی اُسے مردہ سمجھ کر چھوڑ آئے تھے۔ مجھے اس میں زندگی کے آثار دکھائی دئے
اور اسے یہاں اٹھالایا۔ آپ چونکہ بے حد مصروف تھے اس لئے آپ اس پر توجہ نہ دے سکے۔"

طبی دستے کے سالار نے مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا: "بشیر بن حسن کے
سلنے اپنی کمتری کا اعتراف کرنا بھی میرے لئے باعثِ فخر ہے جب آپ اسے یہاں لائے
تھے تو میری نگاہ میں اُس کی حالت مایوس کن تھی۔ اسے طبیب سے زیادہ معجزہ کرنے والے
کی ضرورت تھی اور اندلس میں فقط بشیر بن حسن کے نام کے ساتھ ایسے معجزات وابستہ کئے
جاتے ہیں۔ ہمارے پاس چند اور زخمی بھی آپ کی توجہ کے محتاج ہیں۔"

ایک اور نوجوان جراح نے آگے بڑھ کر کہا: "میں نے آپ کو قرطبہ میں دیکھا تھا لیکن خود
کے باعث آج میں پہچان نہ سکا۔"

بشیر بن حسن نے کہا: "مجھے ڈر تھا کہ خود کے بغیر آپ کو میری اجنبیت اور زیادہ محسوس ہوگی۔
اس کے علاوہ زخمیوں میں ہمارے چند ساتھی بھی ہیں۔ مجھے خطرہ تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر شور مچائیں
گئے اور آپ میں سے بعض زخمیوں کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو جائیں گے اور میں بھی اُس
زخمی کی حالت پر پوری توجہ نہیں دے سکوں گا۔"

ابو الحسن نے کہا: "ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے اس بات کا احساس نہیں کیا۔ آپ
دوسرے زخمیوں کو دیکھیں اور فارغ ہو کر مجھ سے ضرور ملیں۔"

ابو الحسن، بدر بن مغیرہ اور موسیٰ چلے گئے اور بشیر بن حسن دوسرے زخمیوں کی مرہم پٹی
میں مشغول ہو گیا۔ اندلس کے باقی شہروں کی طرح غرناطہ میں بھی اس کے نام کی شہرت پہنچ چکی تھی۔

طبی دستہ کے تمام افراد اس کے ساتھ مصافحہ کرنے، ہمکلام ہونے اور اس کے حکم کی تعمیل کرنے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ ان کے احساسِ مرعوبیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بشیر بن حسن سرحدی عقاب کا ساتھی تھا۔

طبی دستے کا سالار دیر تک اپنے طرزِ عمل پر پریشان رہا۔ بالآخر اس نے بشیر بن حسن سے کہا: "میں ابھی تک معدلت کے لئے موزوں الفاظ سوچ رہا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ نے میرے متعلق بہت بُری رائے قائم کی ہوگی۔"

بشیر نے جواب دیا: "آپ پریشان نہ ہوں ممکن ہے کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو ایک اجنبی کے ساتھ زیادہ سختی سے پیش آتا۔"

تھوڑی دیر کے بعد وہ زخمی جس کی بشیر بن حسن نے سب سے پہلے مرہم مٹی کی تھی، نیم بے ہوشی کی حالت میں آہستہ آہستہ کراہنے لگا۔ بشیر بن حسن نے اپنے تھیلے سے ایک دوا نکال کر پیالی میں ڈالتے ہوئے ایک طبیب سے کہا: "یہ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آ جائے گا۔ جب آنکھیں کھولے آپ فوراً اسے یہ دوا پلا دیں۔ دوا پیتے ہی اسے نیند آجائے گی۔" شام کے وقت میں خود آکر اس کی حالت دیکھوں گا۔ اس وقت آپ یہ خیال رکھیں کہ کوئی اسے جگانے یا اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش نہ کرے۔"

(۴)

دوپہر کے وقت جب بدر بن مغیرہ کو تنہائی میں بشیر کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا تو اس نے اپنے دوست کی غیر متوقع آمد کی وجہ پوچھی۔ بشیر بن حسن نے جواب دیا: "میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں غرناطہ سے ابو الحسن کی فوج کی روانگی کا منتظر اپنی آنکھوں سے دیکھوں لیکن مجھے اس وقت اطلاع ملی جب یہ فوج غرناطہ سے کوچ کر چکی تھی۔ تاہم میں نے خیال کیا کہ میں جنگ کے دوران میں ضرور پہنچ جاؤں گا۔" ابو داؤد بھی مجھے غرناطہ تک

اپنے ساتھ لے جانے پر لبند تھا۔ منصور بن احمد نے میری درخواست اور ابوداؤد کی سفارش پر مجھے اجازت دے دی۔ غرناطہ پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ آپ صحرہ کا محاصرہ کر چکے ہیں۔ میں بلغار کرتا ہوا آج صبح یہاں پہنچا تو یہ شہر فتح ہو چکا تھا۔“

بدر بن مغیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا: ”اور میں زخمی نہ تھا اس لئے تمہاری ادویات دوسروں کے کام آئیں۔ سچ کہو تمہاری یہ بھاگ دور میری وجہ سے نہ تھی۔“
”تمہاری سلامتی میری زندگی کا ایک مقصد ہے۔“

”ایک فرد کی سلامتی میرے خیال میں ایسا بلند مقصد نہیں جس پر فخر کیا جاسکے۔“
بشیر بن حسن نے محبت بھری نگاہوں سے اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
”بدر؟ تم میرے لئے ایک فرد نہیں ایک قوم ہو۔ اور اگر میں ایک طبیب کی زبان استعمال کروں تو میں یہ کہوں گا کہ تم ہسپانیہ کے جسدِ ناتواں میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہو۔“
بدر نے کہا: ”یہ ایک شاعر کی زبان ہے۔“

بشیر نے جواب دیا: ”خدا کا شکر ہے کہ میں شاعر نہیں۔ میں نے الزغل کے دسترخوان پر غرناطہ کے چند شعرا سے ملاقات کی ہے۔ وہ تمہاری تعریف میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔“

”کیا کہتے تھے میرے متعلق وہ؟“

”بس یہی کہ تم ہوا میں اڑ سکتے ہو، پانی پر چل سکتے ہو، تمہیں دیکھ کر سمندر کی طوفانی لہروں میں سکون آجاتا ہے اور دریا۔۔۔۔۔۔“

”دریا کیا۔۔۔۔۔۔؟“

”مجھے یاد نہیں رہا، شاید وہ یہ کہتے تھے کہ دریا پہاڑوں کی طرف واپس ہو

جاتے ہیں۔“

بدر نے کہا: ”احتمالاً کہیں کے۔“

بشیر بن حسن نے ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا: "نہیں وہ سب کے سب
 احمق نہیں تھے۔ ایک نے عقل کی چند باتیں بھی کہی تھیں۔"
 "وہ کیا؟"

"وہ یہ کہ سرحدی عقاب کا گھوڑا کوہ سیرانوادا کی برف سے زیادہ سفید ہے جب
 وہ چلتا ہے تو زمین پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس کی تلوار کی چمک سے سورج کی آنکھیں
 خیرہ ہو جاتی ہیں۔"

بدر بن مغیرہ نے کہا: "بشیر اس زندہ دلی کا باعث یہ فتح ہے یا کچھ اور؟"
 بشیر نے جواب دیا: "بدر میں واقعی بہت خوش ہوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ برسوں
 کے خوابوں کی تعبیر کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔"
 بدر نے سوال کیا: "ایچلا کیسی ہے؟"

بشیر نے جواب دیا: "وہ ٹھیک ہے لیکن تم نے ربیعہ کے متعلق نہیں پوچھا۔"
 "اُسے کیا ہوگا؟"

"واہ تمہیں یہ خبر بھی نہیں۔" بشیر نے سنجیدہ ہو کر کہا۔
 "بشیر! تم اس کے متعلق کوئی بڑی خبر تو نہیں لائے۔"
 بشیر ہنس پڑا۔

بدر نے کہا: "تم بڑے مسخرے ہو۔"
 بشیر نے کہا: "ربیعہ تمہیں سلام کہتی تھی۔"
 "جھوٹ؟"

"اچھا بھائی یہی سمجھ لو کہ وہ تمہاری سلامتی کے لئے دعا کرتی تھی۔"
 "مجھے یہ مان لینے میں کوئی اعتراض نہیں۔ خیراب مذاق چھوڑو۔ ابو داؤد کا حال
 کیا ہے؟"

”وہ بہت خوش ہے۔ غرناطہ پہنچتے ہی الزغل نے اسے شہزادہ ابو عبد اللہ کا مصاحب
 خاص بنا دیا ہے۔ اسے رہنے کے لئے قصر الحمراء میں ایک مکان دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں
 وہ شہزادے کو بہت جلد اپنا گرویدہ بنا لے گا۔“
 موسیٰ کی آمد پر ان کی گفتگو کا رخ بدل گیا۔ اُس نے اطلاع دی کہ ابو الحسن آپ کو
 بلاتے ہیں۔

نئے عزم

(۱)

صحزہ کی فتح کے بعد ابو الحسن نے عیسائیوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لئے وسیع پیمانے پر تیاریاں شروع کر دیں۔ سلطنت کے وہ بااثر سردار اور قبائل کے رہنما جو اب تک ہماری عربی اور ہسپانوی مسلمانوں کے اندرونی جھگڑوں میں الجھے ہوئے تھے مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہونے لگے۔ ہسپانوی اور بربری سرداروں کے لئے ابو الحسن ایک حکمران کی بجائے ایک مسلم حکمران بن چکا تھا۔ اس نے صلیب کے پرچم کے مقابلہ میں ہلال کا پرچم بلند کیا تھا۔ علماء کا ایک بااثر طبقہ اس جنگ کو جہاد قرار دے چکا تھا۔ صحزہ کی فتح کے بعد جب ابو الحسن غرناطہ لوٹا تو اُس نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ وہ صحیح معنوں میں غرناطہ کا حکمران بن چکا ہے۔ عوام نے فوجی مستقر سے لے کر الجھڑا تک اس کے راستے میں پھولوں کی سیج بچھا رکھی تھی۔ رات کے وقت اُس نے قصر الجمرا کے بلند مینار پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ تمام شہر میں چراغاں تھا۔ بگ گلیوں اور بازاروں میں مسرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ ابو الحسن نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی:

”رب العزت! میرے کمزور بازوؤں کو طاقت عطا کر۔ مجھے طارق بن زیاد کا عزم اور موسیٰ بن نصیر کا حوصلہ عطا کر۔ میری قوم کو پھر ایک بار ان مجاہدین کا ولولہ عطا کر جن کے گھوڑے ایک طرف فرانس اور دوسری طرف چین کے دریاؤں کا پانی پسیا کرتے تھے۔ ہماری نافرمانی کو اتفاق میں بدل دے۔ اس ریت کے انبار کو تو ایک چٹان بنا سکتا ہے۔ میرے مولیٰ! ان لوگوں کو مایوس نہ کیجئے جو اس معمولی سی فتح پر اس قدر شادمان ہیں۔ میں اس کام کا اہل نہ تھا لیکن اگر تو نے مجھے اس کے لئے منتخب کیا ہے تو مجھے ہمت، عزم اور استقلال دے اور اگر میں اپنی زندگی میں اسلاف کی کھوتی ہوئی سلطنت کو واپس نہ لے سکوں تو ابو عبد اللہ کو یہ توفیق دے۔ ورنہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں غرناطہ کی سلطنت کے لئے کوئی صحیح جانشین منتخب کر سکوں۔“

جب ابو الحسن مینار پر کھڑا یہ دُعا مانگ رہا تھا، اس کا ولی عہد شہزادہ ابو عبد اللہ اپنے نئے اتالیق ابو داؤد کے ساتھ محل کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ چند دن میں اُستاد اور شاگرد ایک دوسرے کے ساتھ بہت مانوس ہو چکے تھے اور ابو عبد اللہ کا چچا الزغل جس نے ابو داؤد کو اس منصب تک پہنچایا تھا اس بات پر پھولانہ سماتا تھا کہ اس کا آوارہ مزاج بھتیجا اپنے بالکمال اتالیق کے اشاروں پر چلتا ہے اور اس سے ایک لمحہ کے لئے بھی جُدا ہونا پسند نہیں کرتا۔ ابو داؤد فطرتاً محتاط تھا۔ اُسے یہ احساس تھا کہ اس کے شاگرد کی رگوں میں عربی خون ہے۔ اس لئے اس نے اپنے عزائم اور مقاصد کے اظہار میں عجلت سے کام لینا مناسب نہ سمجھا۔ وہ ایک بے تکلف مصاحب بن کر ابو عبد اللہ کے خیالات سے واقفیت حاصل کرتا رہا اور چند ہی دنوں میں یہ معلوم کر چکا تھا کہ وہ وقت آنے پر غرناطہ کے ولی عہد کو اپنا آلہ کار بنا سکے گا۔

ابو عبد اللہ سے تنہائی میں پہلی ملاقات کے بعد وہ اسے اپنا گرویدہ بنا چکا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ دیکھا اور متھیلی کی چند لکیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: "شہزادے! تم غرناطہ کی حکمرانی کے لئے پیدا نہیں ہوئے۔"

ابو عبد اللہ کے چہرے پر اضطراب کے آثار پیدا ہوئے تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ لکیریں تمہارے لئے سکندر کے بخت اور عبدالرحمن اعظم کے جاہ و جلال کی شہادت دیتی ہیں۔ اگر میرا علم مجھے دھوکا نہیں دیتا تو پرغیزہ سے لے کر جبل الطارق تک تمہاری سطوت کے پرچم لہرائیں گے مراکش اور فرانس کے حکمران تمہارے باجگزار ہوں گے۔"

ابو عبد اللہ کچھ دیر تک اپنے ہاتھ کی طرف دیکھنے کے بعد بولا: "لیکن میرا چچا مجھے نالائق کہتا ہے۔"

"شہزادے! بھل پکھنے اور پھول کھلنے کے لئے ایک وقت معین ہوتا ہے۔ جب تک تمہارے عروج کا وقت نہیں آئے گا تمہارے عزیز اور خیر خواہ ایسی ہی باتیں کرتے رہیں گے لیکن ان کا مقصد تمہاری بہتری ہے برائی نہیں۔ وقت کا انتظار کرو۔"

اس دن سے ابو عبد اللہ اپنے آپ کو سکندر اور اپنے اتالیق کو اسطو سمجھا کرتا تھا۔ یوں اپنے اپنے خیال کے مطابق کسی موقع کے منتظر تھے۔ چند ملاقاتوں کے بعد استاد کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا شاگرد کون سے وقت کا انتظار کر رہا ہے لیکن شاگرد کو اپنے استاد کے ارادوں کے متعلق کوئی علم نہ تھا اور آج ابو عبد اللہ کا پیغام سن کر ابو داؤد اپنے مکان سے نکل کر اس کے پاس پہنچا تو اس نے ایک ہی نظر میں یہ بھانپ لیا کہ اس کا شاگرد کسی نئی پریشانی میں مبتلا ہے۔

(۲)

ابو عبد اللہ نے اپنے استاد کی تعظیم کے لئے اٹھتے ہوئے خواجہ سرا کو حکم دیا کہ وہ

دروازہ بند کر دے۔ اُستاد اور شاگرد آبنوس کی کرسیوں پر جو مخمل کے گدیوں سے آراستہ تھیں بیٹھ گئے۔

ابوداؤد نے کہا: "شہزادے! مجھے توقع تھی کہ تم اس وقت غرناطہ کے بازاروں میں مسرت کے ساتھ نعرے لگا رہے ہو گے۔ وہ کون سا خیال ہے جس نے اس وقت غرناطہ کے ولی عہد کو پریشان کر رکھا ہے؟"

ابو عبداللہ نے کہا: "کیا میرے اُستاد کا بھی یہی حکم ہے کہ میں موسیٰ، الزیغری اور بدر بن مغیرہ کی فتح کے نعرے لگاؤں۔ کیا اس کام کے لئے میرے سوتیلے بھائی کافی نہیں جو آج کے جلوس میں نوکروں کی طرح اُن کے گھوڑوں کے آگے آگے پھیل جا رہے تھے؟ یہ سب کچھ اس لئے ہو رہا ہے کہ وہ میرے متعلق جانتے ہیں کہ میں اس قسم کی خوشامد نہیں کر سکتا اور وہ میرے والد کو ایک بار پھر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نالائق ہوں۔"

ابوداؤد نے کہا: "تمہارے سوتیلے بھائیوں کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا لیکن الزغل کے متعلق میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ تمہارا بدخواہ نہیں اور اگر وہ بدخواہ بھی ہو تو تمہیں تدبیر سے کام لینا چاہیے۔ تم غرناطہ کے ولی عہد ہو اور ولی عہد پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ تاج پہننے تک اپنے بدترین دشمنوں کو بھی دوست بنائے رکھے۔ ایک بادشاہ اپنے مخالفین کو تلوار سے مرعوب کرتا ہے لیکن ایک ولی عہد یہ نہیں کر سکتا اور اس صورت میں جب کہ تخت کے دعویدار اور بھی موجود ہوں اُسے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اگر تمہارا یہ ارادہ ہو کہ تم کل حکمران بن کر اپنے مخالفین کی گردنیں اُڑا دو تو آج یہ ضروری ہے کہ اپنی مرضی کے خلاف بھی ان کے گلے میں پھولوں کے ہار پہناؤ تاکہ ان کی رگوں میں سختی نہ آنے پائے۔ تاہم الزغل کے متعلق مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا مخالف نہیں۔"

ابو عبداللہ نے کہا: "آپ میرے چچا کے متعلق ہمیشہ حُسن ظن سے کام لیتے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ وہ اقسد دار چاہتا ہے۔ اس نے میرے باپ کو بھی اپنے ہاتھوں میں کھلونا بنا

رکھا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں اس کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی نہیں بن سکتا۔ اس لئے اس کی خواہش یہی ہوگی کہ میرے سوتیلے بھائی کو تخت پر بٹھا کر خود حکومت کرے۔“

”لیکن خدا سلطان کی عمر دراز کرے، میرا دل تو گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی ہی میں تمہارے جیسے ہونہار بیٹے کو غرناطہ کا تخت و تاج سونپ دیں گے۔“

ابو عبداللہ نے کھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا: ”میں نہیں جانتا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ کیا تو چچا کے مشورے کے بغیر نہیں ہوگا اور چچا کا مشورہ کبھی میرے حق میں نہ ہوگا۔“

ابو داؤد نے کچھ دیر سر جھبکا کر سوچنے کے بعد کہا: ”شہزادے! تمہارا ہاتھ دیکھ کر میں نے تمہیں ایک بات نہیں بتائی۔ مجھے ڈر لگتا تھا۔“

ابو عبداللہ نے کہا: ”خدا کے لئے ضرور بتائیے۔“

ابو داؤد نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا: ”مجھے ڈر ہے کہ یہ بات اگر کسی تیسرے آدمی کے کانوں تک پہنچ گئی تو آپ کے ساتھ مجھے بھی مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔“

ابو عبداللہ نے کہا: ”آپ فکر نہ کریں یہاں کوئی سننے والا نہیں۔“

”میرا علم یہ گواہی دیتا ہے کہ تم اپنے باپ کی زندگی میں غرناطہ کا تخت و تاج سنبھالو گے اس کی مرضی کے خلاف۔ قدرت تمہیں موقع دے گی۔ یہ فیصلہ بہت تلخ ہوگا لیکن تمہیں کرنا پڑے گا۔ اندلس کی تسخیر ابوالحسن کے مقدر میں نہیں تمہارے مقدر میں ہے۔“

ابو عبداللہ نے مسرت، اضطراب اور خوف کے ملے جلے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا: ”وہ وقت کب آئے گا؟“

ابو داؤد نے جواب دیا: ”بہت جلد، لیکن میری نصیحت یاد رکھو۔ وقت آنے سے پہلے تمہارا فرض ہے کہ تمہارے باپ اور چچا کے دل میں تمہارے متعلق کوئی شک پیدا نہ ہووے الزغل کو یہاں کیوں چھوڑ گئے تھے؟“

ابو عبد اللہ نے جواب دیا: "میں جانتا ہوں۔ انہیں مجھ پر اعتبار نہ تھا۔"

"تو تمہارے لئے یہ ضروری ہے کہ تم ان کا کھویا ہوا اعتماد دوبارہ حاصل کرو۔ تاج اور تخت کے لئے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر کسی وجہ سے سلطان یا تمہارے چچا کو تمہارے متعلق کوئی شبہ ہو گیا ہے تو تم ہمیشہ کے لئے میری اعانت سے محروم ہو جاؤ گے۔"

ابو عبد اللہ نے کہا: "میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا۔"

"تو میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ ابھی اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ اگر وہ سو نہیں گئے تو انہیں فتح کی مبارکباد دو اور یہ بھی کہو کہ تمہیں اس جنگ میں شریک ہونے کی سعادت سے محروم رہنے کا افسوس ہے۔ اس کے بعد علی الصباح فوج کے تمام بڑے بڑے عہدہ داروں سے ملو اور ہو سکے تو ان میں انعامات تقسیم کرو۔ سلطان اس بات پر خوش ہو گا اور ان لوگوں میں سے بعض تمہارے کام آئیں گے۔"

"میں ابھی ابا کے پاس جاتا ہوں۔"

اگلے دن ابو الحسن نے الزغل سے کہا: "آپ نے عبد اللہ کے لئے جو تالیق مقرر کیا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں وہ کوئی قابل آدمی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے آج ابو عبد اللہ کے خیالات میں کافی تبدیلی محسوس کی ہے۔ وہ اس بات پر ناراض ہو رہا تھا کہ میں اسے جنگ میں ساتھ کیوں نہیں لے گیا۔"

الزغل نے جواب دیا: "خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ایسا آدمی مل گیا ہے۔"

ان واقعات کے تیسرے دن بدر بن مغیرہ کو اطلاع ملی کہ عیسائیوں نے سرحد پر دوبارہ چھڑ چھاڑ شروع کر دی ہے اور اس نے اپنے سپاہیوں کو فوراً کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔

خصت سے پہلے جب وہ ابو الحسن سے بلا تو اس نے کہا: "میں نے پوری تیاری سے پہلے صخرہ پر اس لئے حملہ کیا تھا کہ لوگ خوابِ غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ اب اس فتح کا یہ فائدہ

ہوا ہے کہ میں چند ماہ میں انہیں فیصلہ کن جنگ کے لئے تیار کر لوں گا۔ اتنی دیر آپ اپنے محاذ پر ڈٹے رہیں۔ میں اشد ضرورت کے بغیر آپ کو نہیں بلاؤں گا۔ اگر آپ سرحد پر چھڑ چھاڑ جاری رکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں تیاری کے لئے زیادہ موقع مل جائے گا اور فرٹینڈ کی توجہ بھی دو محاذوں پر بٹ جائے گی۔“

ابوالحسن سے ملاقات کے بعد جب بدر بن مغیرہ قصر الحمر سے باہر نکل رہا تھا ایک لونڈی نے کاغذ کا ایک پُرزہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ بدر بن مغیرہ نے دیکھا تو کاغذ پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے:

”آپ کو نئی فتح مبارک ہو۔۔۔ ربیعہ!“

ایک لمحہ کے لئے بدر بن مغیرہ کے دل میں لطیف دھڑکنیں پیدا ہوئیں اور ایک جانی پہچانی صورت اس کی نظروں کے سامنے آسمو جود ہوئی۔ بدر بن مغیرہ نے لونڈی کی طرف متوجہ ہو کر کہا: ”میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کر دیجئے اور کہئے میرے لئے دعا کیا کریں۔“

شام کے وقت ربیعہ کو اپنے باپ سے یہ معلوم ہوا کہ سرحدی عقاب اپنے نشیمن کی طرف جا چکا ہے۔

(۳)

فرٹینڈ سرحدی عقاب سے انتقام لینے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ اُسے صحرہ پر ابوالحسن کے قابض ہو جانے کی خبر ملی۔ اس نے اپنے تمام گورنروں اور سرداروں کو تیاری کا حکم دیا۔ یہودی تاجروں کے بھیس میں اس کے جاسوس اسے ابوالحسن کے عزائم سے باخبر کرتے رہتے اس لئے ایک بہت بڑی صلیب اپنے محل کے دروازے پر نصب کرائی اور قسطلہ کے عوام کے سامنے یہ حلف اٹھایا کہ جب تک میں یہ صلیب قصر الحمر کے دروازے پر نصب کروں گا دم نہ لوں گا۔ سلطنت کے تمام اُمراء نے اس کی تقلید کی۔ اس کے بعد سلطنت کے ہر گوشے سے

لوگ قسط لہنے چھوڑتے اور اس صلیب کے سامنے یہ عہد کرتے کہ وہ غرناطہ کو فتح کئے بغیر اپنی تلواریں
نیام میں نہیں ڈالیں گے۔“

ایک دن غرناطہ کا ایک یہودی فرڈیننڈ کے پاس پہنچا اور اس نے ایک خط پیش کیا۔ خط
پڑھ کر فرڈیننڈ نے ایلچی سے کہا: ”تم نے ہماری بہت بڑی خدمت سرانجام دی ہے اور اگر
اس خط کا جواب غرناطہ پہنچا سکو تو تمہیں بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔“

یہودی نے جواب دیا: ”میں یہ خدمت خوشی کے ساتھ سرانجام دوں گا۔“
فرڈیننڈ نے کہا: ”اگر تم تحریری پیغام لے جانے میں خطرہ محسوس کرو تو ہم کل تمہیں ایک
زبانی پیغام دیں گے۔“

یہودی نے کہا: ”میں تحریری پیغام لے جانے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ غرناطہ سے
آتے ہوئے کئی چوکیوں پر تلاشی لینے کے باوجود وہ یہ خط نہیں دیکھ سکے۔“
فرڈیننڈ نے کہا: ”تم ہوشیار آدمی معلوم ہوتے ہو لیکن تلاشی کے وقت تم نے یہ خط کہاں
چھپا رکھا تھا؟“

یہودی نے جواب دیا: ”یہ خط ابو داؤد نے میرے جوتے کے اندر سی دیا تھا۔“
”بہت اچھا کل ہم سے ملو۔“ یہ کہتے ہوئے فرڈیننڈ نے ایک سپاہی کو بلا کر حکم دیا کہ وہ
ایلچی کو شاہی مہمان خانہ میں لے جائے۔

ایلچی کے چلے جانے کے بعد فرڈیننڈ نے دوبارہ غور کے ساتھ خط پڑھا اور کچھ دیر سوچنے
کے بعد اٹھ کر ملکہ کے کمرے میں پہنچا۔

”ملکہ تم ہار گئیں۔“ اس نے اپنی بیوی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔
”آپ کا مطلب؟“

”تم نے ابو داؤد کے متعلق شرط لگائی تھی کہ ہمارے ساتھ وہ غداری کر رہا ہے۔ لہذا
خط پڑھ لو، تمہارے تمام شکوک رفع ہو جائیں گے۔“ بادشاہ نے خط ملکہ کو پیش کر دیا۔

ملکہ نے خط پڑھ کر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ "اس خط سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق ہمارے شکوک بے بنیاد تھے لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ لکھنے والا ابو داؤد ہے اور وہ جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اُس نے ہمیں الحمرہ پر اچانک حملہ کی ترغیب دی ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس میں بھی کوئی خطرناک چال نہ ہو۔"

قرظینا نے جواب دیا۔ "ابو الحسن کے ارادوں اور تیاریوں کے متعلق مجھے اپنے جاسوسوں کی زبانی بھی بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ مجھے ابو داؤد کی اس بات سے اتفاق ہے کہ ہمیں صحرہ کے نقصان کی تلافی کے لئے غرناطہ کی سرحد کے کسی اہم شہر پر اچانک قبضہ کر لینا چاہیے۔ اس سے مسلمانوں کا جوش و خروش کچھ عرصہ کے لئے ٹھنڈا پڑ جائے گا اور ہمارے سپاہیوں کے جوصلے بند ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں قادم کا گورنران پر بے خبری کی حالت میں حملہ کر دے تو جس قدر آسانی کے ساتھ انہوں نے صحرہ پر قبضہ کر لیا ہے اسی قدر آسانی کے ساتھ ہم الحمرہ پر قبضہ کر سکیں گے۔"

"لیکن آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ بے خبر ہوں گے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ابو داؤد نے غرناطہ پہنچ کر اپنی قسمت مسلمانوں کے ساتھ وابستہ کر دی ہو اور یہ خط اس نے ابو الحسن کے ایما سے بھیجا ہو۔"

"میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تمہارے خدشات بے بنیاد ہیں۔ لیکن اگر یہ ہو بھی تو وہ ہمارے ارادوں سے باخبر ہونے کے لئے اس خط کے جواب کا انتظار کریں گے اور میں یہ احتیاط کر سکتا ہوں کہ جب تک حاکم قادم الحمرہ پر قبضہ نہ کر لے وہ ہمارے خط کا انتظار کرتے رہیں۔ ابو داؤد کا یہ کہنا غلط نہیں کہ الحمرہ غرناطہ کی کنجی ہے اور اس پر قابض ہو کر ہم ادھی جنگ جیت جائیں گے۔ میں آج ہی قادم کے گورنر کو پیغام بھیجتا ہوں اور خود کل لوشہ کی طرف کوچ کر دوں گا۔ ان کی ساری توجہ میری طرف ہوگی اور قادم کی فوج کو الحمرہ پر قبضہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میں قرطبہ اور اشبیلیہ کی افواج کو بھی پیش قدمی کا حکم دیتا ہوں۔ اگر ہم کسی محاذ سے نقصان اٹھائیں گے

(۴)

ابو الحسن کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ فرٹینڈ اپنے لشکر حرار کے ساتھ قسطلہ سے روانہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اُسے قرطبہ اور اشبیلیہ کی افواج کی نقل و حرکت کی اطلاع بھی ملی۔ اس نے اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ الزغل کی قیادت میں دے کر اشبیلیہ کی فوج کا راستہ روکنے کا حکم دیا، دوسری فوج کی قیادت کے لئے اسے موسیٰ سے زیادہ کوئی آدمی موزوں نظر نہیں آتا تھا، لیکن بعض اُمراء کے مشورے پر اس نے موسیٰ کو غرناطہ میں ابو عبداللہ کے پاس چھوڑ دیا اور فوج کی قیادت کے لئے بدر بن مغیرہ کو بلا بھیجا۔

بدر بن مغیرہ اپنی فوج کے نصف سے زیادہ سپاہی لے کر غرناطہ پہنچا اور قرطبہ کی سرحد کی طرف پیش قدمی کرنے والی فوج کی قیادت سنبھال لی۔

باقی فوج کی قیادت ابو الحسن نے اپنے ہاتھ میں لی۔ روانہ ہونے سے پہلے اس نے ابو عبداللہ کو بلا کر کہا: "بیٹا! میری اور الزغل کی غیر حاضری میں تم پر ایک بہت بڑی فہم داری عائد ہوتی ہے۔ تم اپنی عمر کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ دارالسلطنت کا انتظام سنبھال سکو۔ تاہم میں موسیٰ کو تمہاری مدد کے لئے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری نگاہ میں اس کا درجہ الزغل سے کم نہیں۔ اس کے مشورہ کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا۔ اگر مجھے کوئی حادثہ پیش آجائے تو یہ یاد رکھنا کہ جیت تک تم اندلس کا کھوئی ہوئی سلطنت واپس نہ لے لو گے، میری روح بے چین رہے گی۔"

ابو عبداللہ نے کہا: "یہ میری بد قسمتی ہے کہ مجھے اس موقع پر بھی آپ کی فوج کا ایک سپاہی بننے کی سعادت نصیب نہیں تاہم جو فرض آپ نے مجھ پر عائد کیا ہے میں اپنے

آپ کو اس کا اہل ثابت کرنے کی کوشش کروں گا لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کو ہر محاذ پر
موسیٰ جیسے تجربہ کار جرنیل کی ضرورت ہوگی۔ اس کا آپ کے ساتھ رہنا ضروری تھا۔ میری مدد
کے لئے آپ کسی اور کو چھوڑ سکتے ہیں۔“

ابوالحسن نے جواب دیا: تمہارا خیال درست ہے لیکن موسیٰ کو یہاں چھوڑنے کی ایک
وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ملک کے لئے نئے سپاہی بھرتی کر سکے گا۔“

غرناطہ سے کوچ کرنے کے بعد ابوالحسن نے سرحد کے ایک شہر کے پاس پڑاؤ ڈال دیا
اور فرٹینینڈ کی افواج کا انتظار کرنے لگا۔ موسیٰ کی جگہ لینے کے لئے غرناطہ کی فوج کے دو بہترین
سالار الزغلی اور نعیم رضوان اُس کے ساتھ تھے۔

دو ہفتے گزر گئے اور ابوالحسن کو پتہ چلا کہ فرٹینینڈ کی افواج سرحد کے پار ایک مقام پر
اکر رک گئی ہیں۔ الزغلی اور بدر بن مغیرہ کی طرف سے بھی اسی قسم کی اطلاعات ملیں کہ اشبیلیہ
اور قرطبہ کی طرف سے پیش قدمی کرنے والی افواج سرحد کے قریب رک گئی ہیں۔

لیکن تیسرے ہفتے اُسے اچانک یہ اطلاع ملی کہ حاکم قادس نے فوری پیش قدمی کے بعد
الحمدہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس خبر سے اُسے یہ احساس ہوا کہ سرحد کے پار تین محاذوں پر قسطلہ،
قرطبہ، اشبیلیہ کی افواج کے رک جانے کی کیا وجہ تھی۔ الحمدہ کی فتح کے ساتھ ہی ابوالحسن کو اس
قسم کی اطلاعات ملیں کہ حاکم قادس نے اس شہر کے ہزاروں باشندوں کو موت کے گھاٹ
اتار دیا ہے۔

الحمدہ غرناطہ کے دفاع کے لئے اہم ترین قلعہ تھا۔ وہاں سے دشمن کی افواج کسی وقت
بھی غرناطہ پر چڑھائی کر سکتی تھیں۔ غرناطہ کے طول و عرض سے ”میرا الحمدہ“ کی صدا بلند ہوئی۔ سب
یہ کہتے تھے کہ غرناطہ کی کنجی دشمن کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔

ابوالحسن نے محسوس کیا کہ فرٹینینڈ اب اس کی توجہ الحمدہ کی طرف مبذول کر کے کسی شہر
پر حملہ کر دے گا اس لئے اس نے الزغلی اور بدر بن مغیرہ کو حکم بھیجا کہ وہ اپنے اپنے محاذ پر

پر ہیں اور خود اپنی نصف فوج الزغری کو دے کر الحجہ کی طرف روانہ کر دیا۔
 الزغری نے الحجہ کو محاصرہ میں لے لیا اور باہر سے رسد و کمک کے تمام راستے بند
 کر دئے۔ فرطینہ کو الحجہ کے محاصرے کی خبر ملی تو اس نے اپنے لشکر کو تینوں اطراف سے پشیدی
 کا حکم دیا۔

سب سے پہلے بدر بن مغیرہ کے ساتھ قرطبہ کی افواج کا تصادم ہوا۔ بدر بن مغیرہ نے انہیں
 سرحد میں داخل ہونے کا موقع دینے کی بجائے خود سرحد عبور کر کے حملہ کر دیا قرطبہ کے لشکر کے
 مقابلہ میں اس کی فوج کی تعداد بہت کم تھی لیکن اس کے طریق جنگ کے سامنے قرطبہ کی افواج
 کی پیش نہ گئی۔ بدر بن مغیرہ کسی میدان میں اپنی فوجی قوت کی نمائش کرنے کی بجائے چند دن
 اپنی فوج کے طوفانی دستوں کے عقبی حملوں سے قرطبہ کی فوج کو سخت نقصان پہنچاتا رہا اس کے
 سواروں کے چند دستے اچانک دشمن کے ہراول کے سامنے نمودار ہوتے اور باقی مہینہ، مہینہ
 اور عقب کی صفیں درہم برہم کرنے کے بعد غائب ہو جاتے اور یہ عمل دن میں کئی بار دہرایا جاتا۔
 قرطبہ کے سپاہیوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ غرناطہ کی فوج کا سالاد سرحدی عتاب ہے۔
 اور وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ وہ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، دونوں صورتوں میں ان کی تباہی ناگزیر ہے۔
 دوسری طرف الزغل کی فوج کے ساتھ اشبیلیہ کے لشکر کی پھیر چھاپڑ شروع ہو چکی تھی۔
 فرطینہ کو قرطبہ کے سالار کی پریشانی کا علم ہوا تو اس نے لوشہ پر چڑھائی کر دی ابو الحسن
 اس کا ارادہ بھانپتے ہی لوشہ کے نواح میں جا پہنچا۔ لیکن جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ
 فرطینہ کی افواج اس کے اندازے سے بہت زیادہ ہیں۔ ابو الحسن کو غرناطہ کے کسی بھاری
 کمک کی توقع نہ تھی اس لئے اس نے الزغل کو بلا بھیجا۔ الزغل نے بھی لوشہ کے محاذ کی اہمیت
 معلوم کی لیکن بھائی کی مدد کو پہنچنے سے پہلے اس نے اشبیلیہ کی فوج پر زوردار حملہ کیا اور اسے
 کافی نقصان پہنچانے کے بعد لوشہ کا رخ کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے الزغری کو یہ حکم بھیج
 دیا کہ اگر اشبیلیہ کی افواج الحجہ کا رخ کریں تو تم محاصرہ اٹھا کر لوشہ پہنچ جاؤ۔

الزغیری ایک مقام سے الحمد کی فصیل توڑ چکا تھا کہ اشبیلیہ کی ٹڈی دل فوج پہنچ گئی۔ اب شہر کو فتح کرنے کی بجائے اس کے سامنے اہم ترین مسئلہ اپنے سپاہیوں کو بچا کر نکالنا تھا جن کے گز چاروں طرف اشبیلیہ کی فوجوں کا گھیراؤ ہو رہا تھا۔ الزغیری نے یوسی کے عالم میں بھی ہتھیار ڈالنے کی بجائے لڑنے کو ترجیح دی اور فوج کو منظم کر کے ایک طرف بھاوا بول دیا۔ سب سے آگے نیزہ بازوں کی قطاریں تھیں اور ان کے پیچھے پیادہ فوج تھی۔ نیزہ بازوں نے گھیراؤ توڑ کر پیادہ فوج کے لئے راستہ صاف کیا اور الزغیری کے سپاہی کسی نقصان کے بغیر لڑتے بھڑتے ایک ندی کے پل تک پہنچ گئے لیکن دشمن کی فوج کا ایک دستہ اس پل کے دوسرے سرے پر پہلے ہی تاک لگاٹے بیٹھا تھا۔ الزغیری کی فوج پھر ایک بار دشمن کے ترغے میں تھی اور ان پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی لیکن اچانک ندی کی دوسری طرف سے اللہ اکبر کا نعرہ سنائی دیا اور ان کی آن میں پانچ سو سوار گروہ کے بادلوں سے نمودار ہوئے اور انہوں نے پل کے دوسرے سرے پر الزغیری کا راستہ روکنے والے دستے پر حملہ کر کے پل بھر میں ان کا صفایا کر دیا۔

جب الزغیری کے پیادہ اور سوار سپاہی ندی کے دوسرے کنارے ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئے تو اُسے پتہ چلا کہ اس کے مادگار غرناطہ سے آتے تھے، اس نے دستے کے سالار کے ساتھ ملنے کی خواہش ظاہر کی تو ایک نقاب پوش نے گھوڑا آگے بڑھا کر حکمانہ لہجے میں کہا: "یہ باتوں کا وقت نہیں تم فوراً لوٹو پہنچ جاؤ۔"

الزغیری نے نقاب پوش کی آواز پہچانتے ہوئے چونک کر کہا: "میرے ساتھ اس طرح بات کرنے والا موسیٰ بن ابی غسان کے سوا اور کون ہو سکتا ہے۔"

نقاب پوش نے کہا: "لیکن میرے یہاں آنے کا کسی کو علم نہیں ہوتا چاہیے سلطان بہت ناراض ہوگا۔ ان سے میرا ذکر نہ کرنا۔ میرے لئے غرناطہ چھوڑنا خطرے سے عالی نہ تھا لیکن ابو عبد اللہ کو یہی خیال ہے کہ میں فوجی مستقر میں موجود ہوں۔"

یہ کہہ کر موسیٰ نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ الزغریری کے سپاہیوں نے جس طرح ان پانچ سو سواروں کو گرد کے بادلوں سے نمودار ہوتے دیکھا تھا اسی طرح انہیں غائب ہوتے دیکھ رہے تھے۔

(۵)

بدر بن معیرہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ غرناطہ کی باقی تمام فوج فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لئے لوشہ کے فوج میں جمع ہو رہی ہے تو اس نے قرطبہ کے لشکر پر آخری ضرب لگانے کا فیصلہ کیا اور اپنے نائب منصور بن احمد کو پیغام بھیجا کہ وہ دو ہزار سواروں کے ہمراہ قرطبہ کے لشکر کے عقب میں پہنچ جائے۔

منصور بن احمد اپنے راستے کے شہروں اور بستیوں کو تاراج کرتا ہوا ایک حیرت انگیز رفتار کے ساتھ قرطبہ کے لشکر کے عقب میں جا نکلا۔ بدر بن معیرہ نے اس کی اطلاع ملتے ہی اپنی پیادہ فوج کو چند میل بٹا دیا اور سواروں کو دشمن کے میمنہ اور میسرہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ قرطبہ کے سپہ سالار نے مسلمانوں کی پیادہ فوج کے پیچھے ہٹنے سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سرحدی عقاب بھی الزغل اور الزغریری کی طرح لوشہ کی جنگ میں حصہ لینے کے لئے یہ محاذ خالی کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ فرڈیننڈ کی طرف سے اُسے حکم مل چکا تھا کہ وہ لوشہ کی جنگ کا فیصلہ ہونے تک اس محاذ پر دشمن کی فوج کو مصروف پیکار رکھے۔ ابھی تک وہ منصور بن احمد کی آمد سے بے خبر تھا۔ اس نے قلب لشکر کے سواروں کو پیچھے ہٹنے والی پیادہ فوج کا تعاقب کرنے کا حکم دیا لیکن اتنی دیر میں پیادہ فوج کے تیر انداز ایک خندق کے پیچھے نوپے بنا کر بیٹھ گئے تھے۔ قرطبہ کے نیزہ بازوں کو خندق کے تریب پہنچ کر تیروں کی بارش کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے سپہ سالار کو پیچھے ہٹنے کے سوا کوئی راستہ نظر نہ آیا لیکن اتنے میں منصور بن احمد عقب سے حملاً کر چکا تھا اور قرطبہ کے عقبی دستے پیچھے سے مار کھا کر اپنے قلب لشکر کو آگے دھکیل رہے

تھے۔

دائیں اور بائیں بازو سے بدر بن مغیرہ اور عقب سے منصور بن احمد کے سوار قرطبہ کی فوج کو ایک تنگ گھیرے میں لے چکے تھے اور ان کے سامنے وہ خندق تھی جس کے پار تیر اندازوں کے مورچے تھے۔ قرطبہ کی فوج کی حالت اس کشتی سے مختلف نہ تھی جسے سمندر کی طوفانی لہریں ساحل کی چٹانوں کی طرف دھکیل رہی ہوں۔

افرا تفری کے عالم میں قرطبہ کے سینکڑوں سپاہی اپنی فوج کے باجوہ اس گھوڑوں کے پاؤں تلے روندے گئے۔ سینکڑوں سوار گھوڑوں سمیت خندق میں جا گئے۔ سپاہی اپنے افسروں اور افسر اپنے سپاہیوں سے بے خبر تھے۔ قرطبہ کی فوج جو فتح کی اُمید انتہائی بہادری کے ساتھ لڑ سکتی تھی، مایوسی کے عالم میں ہمت ہار چکی تھی۔ صرف چند ایسے تھے جنہیں بھاگنے کا راستہ ملا۔ دو پہر تک میدان میں قرطبہ کے سپاہیوں کی لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے، اور بچے کھچے سپاہی ہتھیار پھینک چکے تھے۔

(۶)

لوشہ کے محاذ پر ابوالحسن تیس ہزار سپاہیوں کے ساتھ فرڈیننڈ کی پچاس ہزار فوج کے مقابلہ میں صف آرا ہو چکا تھا۔ دو دن سے فرڈیننڈ کے ٹائٹ اور غرناطہ کے چابنازا انفرادی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ فرڈیننڈ کی فوج سے ایک ٹائٹ جو سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق تھا گھوڑا بھگاتا ہوا میدان میں اکھڑا ہوا۔ اس نے تلوار بلند کی۔ نعیم بن رضوان جو سر پر خود اور تسم پر ملکی چمکدار زرہ پہنے ہوئے تھا گھوڑا بھگا کر آگے بڑھا۔

دونوں سواروں کی تلواریں ٹکرائیں۔ قسطلہ کا ٹائٹ اپنے بھاری آہن کے باعث نعیم بن رضوان کی سسی پھرتی نہ دکھایا لیکن اس کی بھاری زرہ سے نعیم کی تلوار بار بار اچھٹ کر رہ گئی۔

اس کے چند وار اپنی ڈھال پر روکنے کے بعد نعیم نے پوری قوت کے ساتھ اس کے کندھے پر
 تلوار ماری۔ زردہ کی وجہ سے زیادہ زخم نہ آیا لیکن ضرب کی شدت کے ساتھ اس کا جسم ایک طرف
 جھٹک گیا۔ نعیم نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور پے در پے چند وار کئے۔ اس کا گھوڑا اچھلا
 اور وہ اسلحہ کے بوجھ کے باعث سنبھل نہ سکا۔ گھوڑے سے گرنے کے بعد وہ اٹھنے کی کوشش
 کر رہا تھا کہ نعیم نے فوراً اپنے گھوڑے سے کود کر اس کا خود اتارا اور تلوار سے سر قلم کر دیا۔ ابوالحسن
 کی فوج نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ فریٹینڈ کا دوسرا سپاہی میدان میں آیا تو الزغیری نے نیزہ سنبھالا
 کہ گھوڑے کو ایڑ دی۔ قسطہ کے نائٹ نے زردہ کے علاوہ اپنے سینے پر آہنی خول بھی
 پہن رکھا تھا۔ دونوں حریف ایک دوسرے کی طرف نیزے تان کر بڑھے۔ الزغیری نے اپنے
 آپ کو بچاتے ہوئے اس کے سینے پر نیزہ مارا۔ نیزے کی آئی آہنی خود سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔
 لیکن عیسائی سپاہی زبردست دھکا لگنے کے سبب زمین پر آ رہا اور الزغیری نے گھوڑے
 سے کود کر اس کا کام تمام کر دیا۔

اپنے دو بہادروں کا یہ انجام دیکھ کر فریٹینڈ نے عام حملے کا حکم دیا۔ شام تک گھمان
 کی لڑائی ہوتی رہی۔ رات کی تاریکی میں دونوں لشکر اپنے اپنے پڑاؤ میں چلے گئے۔
 دوسرے دن بھی اسی طرح لڑائی کی ابتدا ہوئی۔ دونوں طرف سے چند بہادروں نے
 یکے بعد دیگرے میدان میں آکر اپنے جوہر دکھائے اور اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی۔
 شام تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ دونوں طرف قتل اور زخمی ہونے والوں کی تعداد پہلے دن سے
 زیادہ تھی۔ تیسرا دن دونوں فوجوں کے لئے تشویش کا دن تھا لیکن ابوالحسن اپنے دشمن کی نسبت
 کہیں زیادہ پریشان تھا۔ غرناطہ سے موسیٰ دو ہزار سپاہیوں کی کمک بھیج چکا تھا لیکن گزشتہ دو
 دن میں اس کے پانچ ہزار سپاہی قتل اور زخمی ہو چکے تھے۔ ابوالحسن کی فوج کے افسروں
 کے اندازے کے مطابق عیسائی مقتول اور زخمی سپاہیوں کی تعداد بیس ہزار سے کم نہ تھی۔
 لیکن جنگ کے دونوں میں اس کے پاس اندلس کے مختلف شہروں سے پندرہ ہزار کے قریب

تازہ دم سپاہی پہنچ چکے تھے۔

بدر بن مغیرہ کے متعلق ابوالحسن کو پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ قرطبہ کے لشکر کا ایک بہت بڑا سیلاب رو کے ہوتے ہے لیکن ان سب باتوں کے باوجود ابوالحسن کا حوصلہ پست نہ ہوا۔ اس کی فوج کا ہر سپاہی فتح و شکست سے بے نیاز ہو کر لڑنے پر تلا ہوا تھا۔ انہیں یہ احساس تھا کہ اگر وہ میدان سے منہ موڑ کر بھاگے تو دشمن چند دن تک غرناطہ کی دیواروں تک پہنچ جاتے گا۔

تیسرے دن جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو قسطلہ کی فوج سے ایک نائٹ نے جس کے تمام جسم پر لوہے کا غلاف چڑھا ہوا تھا میدان میں آکر مقابلے کی دعوت دی۔ اس کے خود کی شکل بیل کے چہرے سے مشابہ تھی۔ اس کے ہتھیار اس قدر بھاری تھے کہ گھوڑے کی مکر دوہری ہو رہی تھی۔ ایک بربری نوجوان اس کے مقابلے کے لئے نکلا اور اس کے نیزے کی ضرب کھا کر گھوڑے سے گر پڑا۔ اس کے بعد ایک قوی، سیکل ہسپانوی مسلمان آگے بڑھا لیکن اس کی تلوار اور نیزے کی ضربیں اس آہن میں چھپے ہوئے نائٹ پر بے کار ثابت ہوئیں۔ گھوڑی دیر میں یہ نائٹ اپنے دوسرے مد مقابل کو بھی قتل کر چکا تھا اور فرڈینینڈ کے سپاہی مسرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ آہن پوش نے اپنی تلوار بلند کرتے ہوئے میدان میں ایک چھوٹا سا چکر لگایا اور غرناطہ کی فوج کی طرف منہ کر کے اپنے نئے مد مقابل کا انتظار کرنے لگا۔

نعیم بن رضوان ابوالحسن سے اجازت لینے کے لئے آگے بڑھا لیکن اتنی دیر میں ایک طرف سے ایک سوار نمودار ہوا۔ اس کا پسینے میں بھیکا ہوا گھوڑا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے آرہا ہے۔ اس کا لباس بھی غرناطہ کے سپاہیوں سے مختلف تھا۔ زرہ کی بجائے جسم پر سفید قبائلی اور خود کی بجائے سر پر عمامہ تھا اور آنکھوں کے سوا اس کا باقی چہرہ سرخ رنگ کے نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے غرناطہ کی فوج کی صفوں سے آگے نکل کر ایک لمحہ کے لئے

اپنا گھوڑا روکا اور اپنی جھپکتی ہوئی تلوار نیام میں ڈال لی۔ لوگوں کو خیال پیدا ہوا کہ وہ نیزے سے حملہ کرے گا لیکن اس نے نیزہ بھی زمین میں گاڑ دیا۔ دونوں طرف تماشاخی اس کی اس حرکت پر حیران تھے۔

نقاب پوش نے اچانک گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ عیسائی آہن پوش نیزہ تان کر اس کی طرف بڑھا لیکن وہ کتر آگے نکل گیا۔ اپنے تیز رفتار گھوڑے کو ایک چھوٹا سا چکر دینے کے بعد نقاب پوش دوبارہ اپنے مد مقابل کی طرف متوجہ ہوا اور وہ لوگ جنہوں نے ایک لمحہ پیشتر اسے خالی ہاتھ دیکھا تھا اب اس کے ہاتھ میں کمنہ دیکھ رہے تھے۔ قبل اس کے آہن پوش گھوڑا موڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتا اس نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر پھندا اس کے گلے میں ڈال دیا۔

ہسپانیہ کا یہ ٹائٹ جو طاقت اور بہادری میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، جسے بھاری اسلحہ کے باعث چار آدمیوں نے مشکل سے گھوڑے پر لادنا تھا ایک چٹان کی طرح گھوڑے سے گرا، کمنہ کا دوسرا سر نقاب پوش کے گھوڑے کی زمین کے ساتھ منسلک تھا۔ غرناطہ کی فوج قسطہ کے آہنی انسان کی بے بسی پر مسترت کے تہقے لگا رہی تھی۔ نقاب پوش نے آن کی آن میں اسے گھسیٹ کر ابوالحسن کے پاؤں میں لا ڈالا اور چہرے سے نقاب اتارتے ہوئے کہا: "میں قرطبہ کے محاذ سے فتح کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔"

ابوالحسن مسترت سے بے خود ہو کر چلا اٹھا۔ بدر! جس فتح کا تم پیغام لے کر آئے ہو وہ یقیناً شاندار ہوگی لیکن مجھے فتح سے زیادہ تمہارے آنے کی خوشی ہے۔ میں تائید غیبی کا منظر تھا۔ کتنی فوج بچا کر لائے ہو۔"

"صرف پانچ سو سپاہیوں کا نقصان ہوا ہے لیکن ساتھ ہی فوج میں دو ہزار کا اضافہ ہو گیا ہے۔ منصور بھی پہنچ چکا ہے۔"

ابوالحسن نے اچانک پریشان سی صورت بناتے ہوئے کہا: "لیکن فوج کو ساتھ کیوں

لائے۔ آج کا دن فیصلہ کن ہے۔“

بدر نے جواب دیا۔ ”آپ فکر نہ کریں وہ تھوڑی دیر تک پہنچ جائیں گے۔“
الزغل نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے کہا۔ ”مسلمانو! آج کا دن تمہارے لئے مبارک
ہے۔ قرطبہ کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ چکی ہے اور تمہارا سرحدی عقاب تمہاری مدد کے لئے
پہنچ گیا ہے۔“

”سپاہیوں نے سنتے ہی مسرت کے نعرے بلند کئے۔ بدر نے الزغل سے مخاطب ہو کر
کہا۔ ”معاف کیجئے۔ آپ نے انہیں پوری خبر نہیں سنائی۔ ہم نے قرطبہ کی فوج کو بھاگنے
کا موقع نہیں دیا۔ وہ تقریباً تمام کی تمام میدان میں پڑی ہے۔ صرف پانچ یا چھ سو سپاہی بچ
نکلے ہوں گے۔“

نعیم بن رضوان نے ”اللہ اکبر“ کا نعرہ لگا کر اپنے گھوڑے کی باگیں درست کیں اور
کہا۔ ”اس فتح کی خوشی میں آج قسطہ کے پندرہ سواروں کو موت کے گھاٹ اُتارنے کا عہد
کرنا ہوں لیکن شگون کے لئے آپ کا نیزہ استعمال کروں گا۔“ یہ کہتے ہوئے اُس نے اپنا
نیزہ اس کے سپرد کیا اور آگے بڑھ کر بدر بن مغیرہ کا نیزہ جو ابھی تک زمین میں نصب
تھا اکھاڑ لیا۔

فرزندانہ کے چار نائٹ یکے بعد دیگرے اس کے مقابلے میں آئے اور نعیم نے
چاروں کو موت کے گھاٹ اُتار دیا۔ آخری نائٹ کے قتل پر فرزندانہ نے فوج کو حملے کا حکم
دے دیا۔

(۷)

دوپہر کے وقت جب لڑائی زوروں پر تھی منصور بن احمد بدر کی فوج لے کر پہنچ گیا۔
تیسرے پرفرزانہ کی فوج میں شکست کے آثار نمودار ہونے لگے۔

نعیم چودہ آدمیوں کو موت کے گھاٹ اُتار چکا تھا اور پندرہ آدمیوں کو قتل کرنے کا عہد پورا کرنا چاہتا تھا کہ ایک شخص کا نیزہ اس کے سینے میں لگا۔ وہ گرنے ہی والا تھا کہ بدر بن مغیرہ نے اس کی مکر میں ہاتھ ڈال کر اُسے آگے بٹھالیا۔ بدر بن مغیرہ اُسے زخموں کے خمیے میں پہنچانے کے لئے میدان سے باہر نکلنا چاہتا تھا لیکن نعیم نے کہا: "بدر! میں جاتا ہوں کہ میرا وقت آگیا ہے لیکن میں نے اپنا عہد پورا نہیں کیا۔ میں نے دشمن کے چودہ سپاہی قتل کئے ہیں۔ ابھی ایک باقی ہے۔ میرے زخم کو ہاتھ سے دبا کر خون بند رکھو۔ اپنا نیزہ مجھے دو اور مجھے دشمن کے قریب لے چلو۔ مجھے اپنا عہد پورا کر لینے دو۔ پھر مجھے جہاں جی چاہے لے جانا۔ بدر! یہ ایک درخواست ہے۔"

بدر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے اپنا نیزہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور اُس کے بہتے ہوئے زخم پر ہاتھ رکھ کر گھوڑے کا رخ دشمن کی ایک صف کی طرف موڑ دیا لیکن جب وہ دشمن کے ایک سوار کے قریب پہنچ چکے تھے بدر نے سُوس کیا کہ نیزے پر نعیم کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہو رہی ہے۔ اُس نے نیزے کو سیدھا رکھنے کے لئے نعیم کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا اور بولا: "ہوشیار! یہ تمہارا پندرہواں شکار ہے۔"

نعیم نے نیم بے ہوشی کی حالت میں کہا: "بدر! مجھے اپنے ساتھ چمٹائے رکھو کاش میں اپنا عہد پورا کر سکتا۔"

"تم اپنا وعدہ پورا کر چکے ہو" یہ کہتے ہوئے بدر بن مغیرہ نے نیزہ ایک مقابلے پر آنے والے سوار کے سینے میں اُتار دیا۔ عیسائی سوار گھوڑے سے گر پڑا لیکن اس کے ساتھ ہی نعیم نے بیہوشی کی حالت میں سر جھکا دیا۔ بدر گھوڑا بھگاتا ہوا زخموں کے خمیوں کے قریب پہنچا۔ چند نوجوان نعیم بن رضوان کو گھوڑے سے اُتار کر اندر لے گئے۔

بدر بن مغیرہ گھوڑے سے کود کر خمیے میں داخل ہوا۔ بشیر بن حسن زخموں کی مرہم پیٹ میں مصروف تھا وہ فوراً نعیم کی طرف متوجہ ہوا۔

بدر نے کہا: "بشیر اسے پچانے کی کوشش کرو۔"

بشیر بن حسن نے اُس کی نبض پر ہاتھ رکھنے کے بعد جلدی سے اس کی زہرہ کھول کر زخم کا معائنہ کیا اور دوبارہ اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے بدر کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا۔ بدر نے بھراتی ہوئی آواز میں کہا: "تم کچھ نہیں کر سکتے۔"

بشیر نے جواب دیا: "اس زخم کے بعد اس کا چند لمحے زندہ رہنا بھی ایک معجزہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی ارادے کی تکمیل کی خواہش موت کا ہاتھ روک رہی ہے۔ یہ ہوش میں آ رہا ہے۔"

"اگر ہوش میں آئے تو اسے بتادیں کہ وہ اپنا عہد پورا کر چکا ہے۔" یہ کہہ کر بدر بن مغیرہ بھاگتا ہوا خیمے سے باہر نکلا اور چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔

گھوڑی دیر کے بعد فرطی بنید کی فوج میں شکت کے آثار دیکھ کر بدر بن مغیرہ نے بہترین تربیت یافتہ سواروں کو منظم کر کے حکم دیا کہ وہ تعاقب کے لئے تیار رہیں۔

شام سے گھوڑی دیر قبل فرطی بنید کی فوج میدان میں لاشوں کے انبار چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ جب سپاہی ابوالحسن کے گرد جمع ہو کر فتح کے نعرے لگا رہے تھے وہ گھوڑے سے اتر کر سر بسجود ہو گیا۔ جب وہ اٹھا تو اس کی آنکھوں سے شکر کے آنسو بہ رہے تھے۔

ابوالحسن نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کہا: "ہمارا سرحدی عقاب کہاں ہے؟" الزغل نے جواب دیا: "وہ اپنے جانا بازوں کے ساتھ جا چکا ہے۔"

"کہاں؟"

"بھاگنے والوں کے تعاقب میں۔"

"ہم نے منع کیا تھا، سپاہی بہت تھکے ہوئے تھے۔"

"لیکن وہ مجھے آپ کی خدمت میں معذرت پیش کرنے کے لئے کہہ گیا ہے۔ وہ

ادھوری فتح کا قائل نہیں۔ تاہم آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس نے غناطہ کا کوئی

سپاہی اپنے ساتھ نہیں لیا۔“

ابوالحسن نے کہا: ”تم نے ہمیں غلط سمجھا۔ خدا کی قسم اگر وہ میری تمام فوج اپنے ساتھ لے جاتا تو بھی مجھے اس قدر پریشانی نہ ہوتی۔ میں اس کے ایک آدمی کا نقصان بھی ناقابل تلافی سمجھتا ہوں۔“

الزغل نے کہا: ”آپ پریشان نہ ہوں وہ اپنا کام جانتا ہے۔ وہ مقابلہ کرنے والوں پر شیر کی طرح حملہ کرتا ہے اور بھاگنے والوں پر عقاب کی طرح جھپٹتا ہے۔“

ابوالحسن نے کہا: ”ہم قرطبہ کے محاذ پر اس کی فتح کے تمام حالات سُنا چاہتے ہیں عباس! تم اس کے ساتھ تھے کہیں اُس نے فوج کی ہمت بڑھانے کے لئے مبالغہ سے کام تو نہیں لیا؟“
عباس غرناطہ کی فوج کا ایک سالار رکھا۔ اُس نے کہا: ”یہ واقعات ایسے ہیں جن کا صرف دیکھنے والے کی آنکھ کو یقین ہو سکتا ہے سننے والوں کے کان شاید یقین نہ کریں۔“ اس کے بعد عباس نے جنگ کی تمام تفصیلات سنائیں۔ جب اس نے منصور بن احمد کے کارناموں کا ذکر کیا تو ابوالحسن نے کہا: ”اگر مجھے معلوم ہوتا کہ بدر بن مغیرہ کے ترکش میں اس قسم کے تیر ہیں تو میں آج سے جند برس پہلے اعلان جنگ کر چکا ہوتا۔“

رات بھر آرام کرنے کے بعد تھکے ہوئے سپاہی علی الصبح موذن کی اذان سن کر بیدار ہوئے۔ ابوالحسن کئی دنوں کے بعد جی بھر کر سویا تھا۔ جب وہ نماز کے لئے خمیے سے باہر نکلا تو پیریداروں سے اس کا پہلا سوال یہ تھا: ”بدر بن مغیرہ نہیں آیا؟“
پیریداروں نے نفی میں جواب دیا۔

نماز کے بعد ابوالحسن کی تحریک پر بدر بن مغیرہ اور اُس کے ساتھیوں کی سلامتی کے لئے دعا کی گئی۔ دوپہر تک ابوالحسن کی پریشانی تشویش میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے سرداروں کے ایک دستے کو بدر بن مغیرہ اور اُس کے ساتھیوں کا پتہ لگانے کے لئے روانہ کیا اور خود اپنے جرنیلوں کے ساتھ ایک ٹیلے پر چڑھ کر اس کی راہ دیکھنے لگا۔

اچانک ایک افسر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: "وہ دیکھئے"
ابوالحسن کا دل مسرت سے اُچھلنے لگا۔ حدِ نظر پر گرد کے بادل اُٹھ رہے تھے۔

ابوالحسن نے چند سواروں کو اس طرف جانے کا حکم دیا۔
گھوڑی دیر کے بعد انہوں نے واپس آکر سرحدی عقاب کی واپسی کی خبر دی۔
الزغل نے کہا: "ایک خوشخبری مجھ سے بھی سن لیجئے۔"

ابوالحسن نے کہا: "وہ کیا؟"

الزغل نے جواب دیا: "سرحدی عقاب رسد کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اپنے ساتھ

لا رہا ہے۔"

ابوالحسن کے استفسار پر سواروں نے اس بات کی تصدیق کی کہ بدر بن منیرہ کے
ساتھ مویشیوں کا ایک بہت بڑا ریڈ ہانک کر لا رہے ہیں۔ بھیڑوں بکریوں کے علاوہ
سینکڑوں گھوڑے اور خچراناج سے لے ہوئے ہیں۔

باپ اور بیٹا

(۱)

جب لوشہ کی جنگ میں نعیم بن رضوان جیسے مجاہد اپنے خون کی روشنائی سے اسلامیانِ اندلس کی قسمت کا فیصلہ لکھ رہے تھے غرناطہ کے شاہی ایوان میں ایک اور فیصلہ لکھا جا رہا تھا۔

الحمرہ پر عیساٹیوں کے قبضہ کی خبر سن کر ابو داؤد فوراً اپنے شاگرد کے پاس پہنچا اور اُسے منموم دیکھ کر بولا۔ "شہزادے! میں کہتا تھا کہ قدرت نے سلطنتِ غرناطہ کی تعمیر نو کے لئے ابوالحسن کو نہیں بلکہ تمہیں منتخب کیا ہے۔ اندلس کے مسلمانوں کی قسمت کا ستارا اس وقت چمکے گا جب تمہارے سر پر غرناطہ کا تاج رکھا جائے گا۔ شہزادے تمہارا وقت آ رہا ہے۔"

"میرا وقت خدا جانے کب آئے گا۔ الحمرہ ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے۔ اب وہ کسی وقت بھی غرناطہ پر چڑھائی کر سکتے ہیں۔"

"لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ الحمرہ کے چھن جانے کے بعد عوام اور بعض سردار بھی یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ اس تازک دور میں غرناطہ کی امارت بدلنا ضروری ہے۔ میں چند بربری اور

ہسپانوی سرداروں سے مل چکا ہوں۔ انہوں نے اپنی کوئی زیادہ قیمت مقرر نہیں کی ہے۔“
 ”لیکن موسیٰ کی موجودگی میں کسی کو دم مارنے کی جرأت نہ ہوگی۔“

”وقت آنے پر ہم اس کے ساتھ بھی نیٹ لیں گے۔ وہ سردار جن کو ابوالحسن نے بغاوت پھیلانے کے جرم میں گرفتار کر رکھا ہے اگر رہا کر دئے جائیں تو آپ کے بہت بڑے مددگار ثابت ہوں گے۔“

”لیکن موسیٰ کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں۔“

”میرے خیال میں وہ آپ کا دوست ہے۔“

”لیکن اس معاملہ میں وہ میرا بدترین دشمن ثابت ہوگا۔“

”وقت آنے پر دیکھا جائے۔“

”وقت کب آئے گا؟“

”ابوالحسن کی شکست کے بعد غرناطہ کے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔“

”لیکن اگر اسے فتح ہوئی تو؟“

”مجھے اس کی امید نہیں۔ فتوحات صرف تمہارے مقدر میں ہیں لیکن اگر اُسے ایک آدھ کامیابی نصیب بھی ہوگئی تو وہ ایک بڑی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ وہ تمہارے سوتیلے بھائی کو تخت پر بٹھانے کی کوشش کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اُسے عوام کا منظور نظر بنانے کے لئے جنگ میں ساتھ لے گیا ہے۔“

”اگر یہ ہوا تو میں اس قابل نہیں کہ اپنے باپ کے ساتھ لڑ سکوں۔“

”آپ مطمئن رہیں لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔“

چند دن بعد جب ابو عبد اللہ نے قرطبہ کے لشکر کی تباہی کی خبر سنی تو اس نے اپنے اُستاد سے کہا: ”اچھی یہ خبر لایا ہے کہ سرحدی عتاب قرطبہ کے محاذ سے فارغ ہوتے ہی لوشہ کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔“

ابو داؤد نے کہا: "شہزادے! اب وہ وقت آ گیا ہے جس سے میں ڈرتا تھا۔ ممکن ہے کہ گوشہ کے میدان میں ابو الحسن کو فتح ہو۔ یہ فتح تمہارے مستقبل کے لئے بہت خطرناک ثابت ہوگی جب سلطان شہر میں داخل ہوگا تو غرناطہ کے عوام اس کے ہر صحیح یا غلط فیصلے کی تائید کریں گے۔ ان کی نگاہ میں تمہارے سوتیلے بھائی کا درجہ تمہاری نسبت کہیں بلند ہوگا بلکہ ان کے نزدیک اس مہم کا ایک معمولی سپاہی بھی تمہاری نسبت زیادہ قابل احترام ہوگا۔"

ابو عبداللہ نے مایوس ہو کر کہا: "مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ جب میں آپ کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ میرا دماغ مجھے ایک ایسے سمندر میں کودنے پر آمادہ کرتا ہے جس کی گہرائی سے میرا دل کانپتا ہے لیکن جب میں اپنی والدہ کے پاس جاتا ہوں تو ان کی باتیں مجھے کسی اور ہی دنیا میں لے جاتی ہیں۔ وہ آج بھی یہی کہتی تھیں کہ میرے والد بارہا اس بات کا حلف اٹھا چکے ہیں کہ وہ مجھے اپنا جانشین بنانے کے متعلق اپنا وعدہ پورا کریں گے۔"

ابو داؤد نے کہا: "اب شاید وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنے دوں۔ میری بات غور سے سنئے۔ میں تھوڑی دیر کے لئے مان لیتا ہوں کہ آج آپ کے والد کا ارادہ آپ کے متعلق بُرا نہیں لیکن اس وقت آپ کی عمر چالیس سال کو پہنچ چکی ہے۔ فرض کیجئے آپ کے والد بیس سال اور زندہ رہتے ہیں اس وقت تک آپ کی عمر ساٹھ سال ہو جائے گی اور یہ عمر کا وہ حصہ ہے جب زندگی کی تمام امنگیں سرد پڑ جاتی ہیں۔ جب انسان آٹھنے میں اپنی صورت دیکھنے سے گھبراتا ہے، جب انسان کی سب سے بڑی ضرورت ایک بستر ہوتی ہے خواہ وہ ایک محل میں ہو یا ایک جھونپڑی میں۔ اس وقت آپ کی عقل یقیناً بہت پختہ ہوگی۔ لیکن وہ گرم خون جو انسان کو تسخیرِ عناد پر آمادہ کرتا ہے منجمد ہو چکا ہوگا۔ اور پھر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ آئندہ بیس سال کے واقعات سلطان کو آپ کے متعلق کوئی اور فیصلہ کرنے پر آمادہ نہیں کر دیں گے شہزادے! عزت، شہرت اور ناموری کا دروازہ ایسا نہیں کہ کوئی خواہش کرے اور

یہ کھل جائے۔ اسے کھٹکھٹانا پڑتا ہے اور بعض اوقات توڑنا پڑتا ہے۔ بڑے انسانوں کی زندگی میں ایک فیصلہ کن مرحلہ آتا ہے جو سوچ میں وقت گنواتے ہیں وہ پچھے رہ جاتے ہیں۔ وقت کی ریت میں ان کے پاؤں کے نشان گم ہو جاتے ہیں اور جو جرات سے کام لیتے ہیں وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اگرچہ آپ نے مجھے اپنے دل کا حال نہیں بتایا لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ غرناطہ کے تخت پر بیٹھنے کے لئے بے قرار ہیں۔ آپ کو اب تک اگر اپنی زندگی کی عزیز ترین خواہش کی تکمیل کی جرات نہیں ہوئی تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کے دل میں آپ کے والد کا احترام ہے، نہیں، بڑا زہ مانٹے گا آپ کے دل پر ایک خوف سوار ہے۔ اس بات کا خوف کہ دنیا آپ کو کیا کہے گی، عوام آپ کے متعلق کیا فتویٰ دیں گے۔ لیکن یاد رکھئے یہ دنیا ایک کامیاب ڈاکو کو فاتح کہتی ہے اور ناکام مصلح کو باغی کا نام دیتی ہے۔ اگر ابو عبد اللہ غرناطہ کے تخت پر قابض ہو کر سارے اندلس پر اپنی عظمت کے جھنڈے لہراتا ہے تو دنیا اس کے متعلق یہ کہے گی کہ وہ ایک بد نصیب باپ کا خوش نصیب بیٹا تھا۔ اس کو حق تھا کہ وہ اپنے باپ کا تخت و تاج چھین لیتا اور اگر ابو عبد اللہ ساٹھ ستر سال کی زندگی میں تخت نشین ہونے کا انتظار کرتے کرتے چل بسا ہے تو تاریخ کے صفحات میں شاید اس کا نام بھی نہ لکھا جائے گا۔ میں نے آپ کو ایک معموری انسان سمجھ کر آپ کے ساتھ اپنی قسمت وابستہ نہیں کی لیکن اگر آپ تذبذب میں اپنی تمام زندگی گنوانا چاہتے ہیں تو آج سے ہمارے راستے مختلف ہیں۔“

ابو عبد اللہ نے کہا: "خدا کے لئے یہ نہ کہئے۔"

"تو آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ یہ موقع شاید پھر نہ آئے۔"

"میں تیار ہوں لیکن کیا میں اس وقت اس قابل ہوں کہ باپ کے خلاف بغاوت کر سکوں؟"

"آپ بیس سال کی عمر میں اس قابل تھے لیکن آپ نے اپنی زندگی کے کئی برس ضائع

کر دیئے۔ پولیس ہمارے ہاتھ میں ہے۔ محل کے داروغہ کو آپ خرید چکے ہیں۔ بربری اور ہسپانوی

اُمرار میں سے اکثر آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔"

”اور موسیٰ —؟“

”اُسے قید کرنا مشکل نہیں۔“

”لیکن شہر کے عوام؟“

”ان میں پھوٹ ڈالی جاسکتی ہے۔ عربی، ہسپانوی اور بربری کے اختلاف کی آگ دب گئی ہے مجھ ہی نہیں۔ مجھے عربوں کے تعاون کی توقع نہیں۔ ان میں سے صرف چند آدمی خریدے جاسکتے ہیں لیکن آپ عربی عہدہ داروں کو معزول کر کے ان کی جگہ ہسپانوی اور بربریوں کو مقرر کر دیں تو اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک یہ کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے، دوسرا یہ کہ بربری اور ہسپانوی مسلمانوں اور عربی مسلمانوں میں نزاع شروع ہو جائے گی۔ اول الذکر اپنے سرداروں کی طرح آپ کا ساتھ دیں گے۔ انہیں زیادہ خوش کرنے کے لئے آپ ان کے قیدیوں کو رہا کر دیں۔ آپ کے پاس فیصلے کے لئے صرف دو دن ہیں۔ اس کے بعد شاید موقع ہاتھ نہ آئے۔ موسیٰ کو گرفتار کرنے کا طریقہ میں نے سوچ لیا ہے۔“

(۲)

رات کے وقت قصر الحمراء کا ایک کشادہ کمرہ چاندی اور سونے کی قندیلوں سے روشن تھا۔ غرناطہ کے بربری اور ہسپانوی مسلمان اُمراء کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ابو عبد اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، موسیٰ داخل ہوا اور مجلس پر ایک لمحہ کے لئے سناٹا چھا گیا۔ موسیٰ نے اہل مجلس پر ایک سرسری نگاہ دوڑائی اور عبد اللہ کے قریب پہنچ کر آہستہ سے بولا: ”میں آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔“

ابو عبد اللہ اس کے تیمور دیکھ کر سہم گیا لیکن ایک ثانیہ کے بعد سنبھل کر بولا: ”تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو میں کہہ سکتے ہو۔ یہ سب خدا کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں۔“

موسیٰ نے کہا: ”بعض باتیں ہر ایک کے سامنے نہیں کہی جاسکتیں۔“

”لیکن اس وقت ہم یہ مجلس بربخاست کرنے کے لئے تیار نہیں۔ تم اگر کوئی کام کی بات کہنا چاہتے ہو تو یہیں کہو۔“

موسیٰ مجلس کا جائزہ لے چکا تھا۔ ان میں سے اکثر وہ تھے جنہیں پہلی بار قصر الحمر میں داخل ہونا نصیب ہوا تھا۔ آج تک سلطنت کے کسی امیر نے یہ حرات نہ کی تھی کہ وہ موسیٰ کو دیکھ کر اپنی کرسی پر بیٹھا رہے۔ ابو عبد اللہ کے الفاظ سن کر وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے کان اُسے دھوکا دے رہے ہیں۔ اس کا چہرہ غصے سے تھما اٹھا تاہم اُس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا: ”شہزادے! میں نے سنا ہے کہ آپ نے باغیوں کو رہا کر دیا ہے۔“

”تم نے درست سنا ہے۔“

”اور آپ نے سلطنت کے چند وفاداروں کو معزول کر دیا ہے۔“

”مجھے ان کی وفاداری پر شک تھا۔“

”اور آپ نے غرناطہ کے بدترین غداروں کو اہم ترین عہدوں پر فائز کر دیا ہے۔“

ابو عبد اللہ نے گرج کر کہا: ”موسیٰ ہمارے ساتھ گستاخی کے ساتھ پیش آنا ہمارے

فرائض میں داخل نہیں۔“

”فرض کا احساس کبھی کبھی انسان کو بہت بیباک بنا دیتا ہے۔“

”ہم اس بے باکی کو پسند نہیں کرتے، تمہیں چور دروازے سے قصر میں داخل ہونے

کی حرات کیونکر ہوتی؟“

”جب اس قسم کے شیاطین کے لئے دارالحمر کے دروازے کھل جائیں تو میرے لئے

چور دروازے سے آپ تک پہنچنے کے سوا کیا چارہ تھا۔“

اُمراء یہ سن کر ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے اور ایک بریری سردار اٹھ کر بولا:

”کیا ابو عبد اللہ کے جانثاروں کی عزت اس کے دربار میں بھی محفوظ نہیں۔“

موسیٰ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: ”وہ کون ہے جو میرے مقابلہ میں ابو عبد اللہ

کا جاننا رہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔“

ایک اور سردار نے اٹھ کر کہا۔ ”ولی عہد اگر حکم دیں تو گستاخ کا منہ بند کرنے کے لئے ہماری

تلواریں حاضر ہیں۔“

موسیٰ نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ”تمہاری یہ جرات ہے کیا تم وہی غدار نہیں جس

نے بربری مسلمانوں کو عربوں کے خلاف اُکسایا تھا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم قید خانے سے قطر الحمراء

تک پہنچ کر اپنے گزشتہ جرائم کی تلافی کر چکے ہو۔ اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ الحمراء میں چند غدروں

کا اجتماع دیکھ کر موسیٰ کی تلوار کا لوازم ہو جائے گا میں ابو عبد اللہ کے پاس آیا ہوں اور اگر تم میں سے

کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی تلوار مجھے ابو عبد اللہ کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار سے روک

سکتی ہے تو میں اسے سامنے آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے

جو اس جگہ اپنی گردن سے سر کا بوجھ اتارنے کی خواہش لے کر آیا ہے۔ اور شہزادے! تم کو ان

بزدلوں سے جاں نثاری کی توقع ہے جو میری بوٹیاں نوچنے کے لئے تیار ہیں لیکن اپنے ہاتھ تلوار

کے قبضہ تک لے جانے کی جرات نہیں رکھتے۔ تم غرناطہ کے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھتے ہو؟

ابو عبد اللہ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر

بولتا۔ ”موسیٰ مجھے قتل کرنے کا ارادہ لے کر آتے ہو؟“

”میں اور آپ کو قتل کرنے کا ارادہ؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ موسیٰ نے اپنی تلوار

کھول کر ابو عبد اللہ کو پیش کر دی۔

ابو عبد اللہ نے تلوار لے کر ایک طرف پھینکتے ہوئے تالی بجائی۔ اٹھ مسلح بربری اور

جہتی کمرے میں داخل ہوئے اور عبد اللہ کے اشارے کا انتظار کرنے لگے۔ ابو عبد اللہ نے کہا۔

”مجھے یقین تھا کہ الحمراء کے دروازوں پر سخت سے سخت پہرا بھی تمہیں یہاں پہنچنے سے

نہیں روک سکے گا لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم جس راستے سے آئے ہو اس راستے

سے واپس نہیں جاسکو گے۔“

موسیٰ حیرت زدہ ہو کر ابو عبد اللہ کی طرف دیکھ رہا تھا، اس ابو عبد اللہ کی طرف جس کے ساتھ اس نے اپنا بچپن گزارا تھا جسے اس نے گھوڑے پر چڑھنا اور تلوار اور نیزے کے ساتھ کھینا سکھایا تھا وہ حیران تھا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ صبح ابو عبد اللہ نے اُسے خود بلا کر یہ حکم دیا تھا کہ تم آس پاس کی بستیوں اور شہروں میں جا کر رضا کار بھرتی کرو۔ شام کے وقت جب وہ واپس آیا تو پتہ چلا کہ ابو عبد اللہ نے چند باغیوں کو رہا کر دیا ہے اور چند فادار عہدہ داروں کو معزول کر دیا ہے۔ وہ اس خبر سے پریشان ہوا تاہم اُسے یہ یقین تھا کہ وہ چند باتیں کرنے کے بعد اُسے اپنی غلطی کی تلافی پر آمادہ کر لے گا۔ وہ کھانا کھائے بغیر گھر سے نکلا۔ الحمراء کے دروازے اس کے لئے بند تھے اور ان پر نئے پیریدار متعین تھے۔ وہ ایک خفیہ راستے سے محل میں داخل ہوا۔ ابو عبد اللہ کے ساتھ وہ اس سے قبل کئی موقعوں پر زیادہ سخت کلامی سے پیش آچکا تھا لیکن آج اُس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی یہ محسوس کیا کہ اس کا بچپن کا دوست بدلا ہوا ہے جب اس نے اپنی تلوار اُتار کر اسے پیش کی تھی تو اسے یقین تھا کہ ابو عبد اللہ نام ہو کر اُسے بازو سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے جائے گا اور کہے گا: تم اتنی سی بات پر بگڑ گئے۔

لیکن جب اس نے تلوار لے کر پھینک دی تو موسیٰ کے دل پر ایک چرکہ لگا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے کانوں میں یہ الفاظ گونج رہے تھے: "میں یقین دلاتا ہوں کہ تم جس راستے آئے ہو اس راستے واپس نہیں جاسکو گے۔" اس نے مسلح سپاہیوں کی طرف دیکھا تو اُسے یہ خیال آیا کہ یہ اب عبد اللہ کی دل لگی ہے۔ یہ صرف مذاق ہے۔

اس نے مسکراتے ہوئے کہا: "ابو عبد اللہ! میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں لوشہ کی جنگ کے لئے رضا کار بھرتی کرنے کا مجرم ہوں، میں الحمراء میں خفیہ راستے سے داخل ہونے کا مجرم ہوں اور میں ان غداروں کو غدار کہنے کا مجرم ہوں۔ میرا سب سے بڑا مجرم یہ ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ میری سزا تجزیہ کرو۔"

موسیٰ نے یہ کہہ کر اپنا سر جھکا دیا۔ ابو عبد اللہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے کندھے پر رکھنا چاہتا تھا لیکن ایک شخص نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ ابو داؤد تھا۔ ابو عبد اللہ نے اپنے اتالیق کی طرف دیکھا اور اس نے سر ملایا۔

ابو عبد اللہ نے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور منہ موم لہجے میں کہا: "اسے لے جاؤ۔" موسیٰ نے گردن لو پر اٹھائی۔ وہ سپاہیوں کی سنگی تلواروں کے درمیان کھڑا تھا اور وہ سردار بھی جنہیں اب تک ابو عبد اللہ کی مستقل مزاجی پر شبہ تھا اپنی تلواریں نکال چکے تھے۔ موسیٰ جس کی گرجتی ہوئی آواز ہسپانیہ کی دیواروں پر لرزہ طاری کر دیا کرتی تھی اس کے عالم میں ابو عبد اللہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غرناطہ کے مجاہد کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ ابو عبد اللہ اس منظر کی تاب نہ لاسکا، اس نے منہ پھیر لیا اور بلند آواز میں چلایا: "اسے لے جاؤ۔" لیکن اس کی آواز میں غصے کی بجائے کرب تھا۔

موسیٰ کوئی بات کہے بغیر سپاہیوں کے آگے آگے چل دیا اور ابو عبد اللہ اپنے رومال سے آنکھیں پونچھتا ہوا دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ ابو داؤد نے سرداروں سے کہا: "آپ یہیں رہیں میں ابھی آتا ہوں۔"

دوسرے کمرے میں جا کر ابو داؤد نے اپنے شاگرد سے کہا: "شہزادے بڑے آدمیوں کا دل بڑا ہونا چاہیے۔"

عبد اللہ نے درد بھری آواز میں کہا: "لیکن میرا دوست تھا، میرا بچپن کا دوست۔" ابو داؤد نے کہا: "وہ تمہاری راہ کا ایک خوبصورت کانٹا تھا جسے تم پیار کرتے تھے لیکن اپنی منزل پر پہنچنے کے لئے تمہیں اس قسم کے کئی کانٹے ہٹانے پڑیں گے۔ موسیٰ اگر چاہے تو اب بھی تمہارے تاج کا ہیرا بن سکتا ہے لیکن اُس سے یہ توقع اُسی صورت میں ہو سکتی ہے جب سلطنتِ غرناطہ کا دوسرا عویدار نہ ہو جب اُسے یقین ہو جائے گا کہ عم ابو الحسن کی جگہ لے چکے ہو تو اُسے قید سے نکل کر تمہاری خدمت کرنے پر اعتراض نہ ہوگا۔ اب اٹھو یہ وقت سوچنے

کا نہیں، کام کرنے کا ہے۔

(۳)

لوشہ کی فتح کے بعد جب اگلے دن بدر بن مغیرہ فرڈنہنڈ کے لشکر کا تعاقب کرنے کے بعد واپس آیا تو ابو الحسن نے فوج کے سرداروں کی مجلس شوریٰ بلائی۔ بعض سرداروں کی یہ رائے تھی کہ غرناطہ پہنچ کر زیادہ مکمل تیاری کے بعد فرڈنہنڈ کی مملکت پر چڑھائی کی جائے لیکن بدر بن مغیرہ نے اس رائے پر زور دیا کہ فرڈنہنڈ کو یہ مہینے کی مہلت نہ دی جائے۔

اس نے کہا: "اس فتح کے بعد اگر ہم فوراً چڑھائی کر دیں تو دشمن کسی میدان میں بھی جمع کر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس میں شک نہیں کہ ہم غرناطہ پہنچ کر چند ہزار مزید سپاہی بھرتی کر سکیں گے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دشمن کے ذرائع ہمارے مقابلے میں بہت وسیع ہیں۔ وہ اس واقعہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے گا۔ نہ صرف اندلس کے عیسائی بلکہ فرانس اور اطالیہ کے پرستارین صلیب اس کی مدد کے لئے دوڑیں گے اور سب سے زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ فرڈنہنڈ اس شکست کا بدلہ اپنی مسلمان رعایا سے لے گا جو اس وقت بھی تعداد میں غرناطہ کی آبادی سے کم نہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم فوراً پیش قدمی کر دیں تو اندلس کی ہر بستی کے مسلمان ہمارا ساتھ دیں گے اور وہ تعداد میں ان سپاہیوں سے کہیں زیادہ ہوں گے جنہیں ہم غرناطہ جا کر بھرتی کر سکتے ہیں۔ ہمارے لئے سب سے بڑا مسئلہ رسد کی فراہمی ہے اس کا ذمہ میں لیتا ہوں۔"

الزغل نے بدر بن مغیرہ کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا: "اس فتح کے بعد قسطلہ کی دیواروں تک پہنچتے ہوئے بھی ہمیں کسی زبردست مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمیں گرتے ہوئے دشمن کو سنبھالنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ جہاں تک غرناطہ سے مزید سپاہی حاصل کرنے کا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کام کے لئے موسیٰ سے زیادہ سوزوں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔"

ایک بوڑھے سردار نے کہا۔ میں بھی اس بات کا حامی ہوں کہ ہمیں پیچھے لوٹنے کی بجائے آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ سلطان کو یہ مهم الزغل کے سپرد کر کے غرناطہ لوٹ جانا چاہیے۔ گزشتہ صدیوں میں ایسے مراحل پر ہمیں گھر کی پھوٹ بہت نقصان پہنچا چکی ہے اس میں شک نہیں کہ موسیٰ ایک سمجھ دار نوجوان ہے لیکن غرناطہ کے متعلق ہمیں جو اطمینان سلطان کی موجودگی میں ہو سکتا ہے وہ کسی اور کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا۔ نثریہ غلہ سلطان کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے لیکن سلطان کی موجودگی میں کسی کو سر اٹھانے کی جرأت نہ ہوگی۔“

ابوالحسن نے جواب دیا۔ غرناطہ کے متعلق مجھے اطمینان ہے۔ تاہم میں آپ کا مشورہ رد نہیں کرتا۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک اور شاندار فتح کے بعد واپس جاؤں گا۔ مغرب کی نماز کے لئے اٹھنے سے قبل مجلس شوریٰ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ کل صبح کوچ کیا جائے۔ اگلی صبح نماز کے بعد ابوالحسن نے اپنی فوج کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا۔

مجاہدو! لوشہ کی شاندار فتح کو میں قدرت کا ایک بہت بڑا انعام سمجھتا ہوں۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اگر غرناطہ کے مسلمان ایک ہو جائیں تو وہ آج بھی کفر کی ہر طاقت کو پاش پاش کر سکتے ہیں اور اگر وہ جہاد کا جذبہ لے کر اٹھیں تو ان کا لوہا آج بھی ہر لوہے کو کاٹ سکتا ہے۔ اس فتح نے ہمارے لئے کامیابی کی شاہراہ کھول دی ہے اور اگر ہم نے ہمت نہ ہاری تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب قرطبہ اور اشبیلیہ کے ایوانوں پر ایک بار پھر ہمارا پرچم لہرائے گا۔

”تمہیں یاد ہوگا کہ اس ملک میں اسلام کا پہلا مجاہد طارق بن زیاد ایک مٹھی بھر جماعت لے کر آیا تھا۔ سپہ سالار کی طرف سے اسے یہ ہدایت تھی کہ وہ صرف اس ملک کے حالات دیکھ کر واپس

آجلے۔ لیکن ہسپانیہ کے ساحل پر قدم رکھتے ہی اس مجاہد نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اپنے سپہ سالار کو یہ پیغام بھیجا کہ میں انڈلس کے ساحل پر اسلام کا پرچم لہرا چکا ہوں اور جب تک یہ جھنڈا انڈلس کی آخری حدود تک نہیں پہنچ جاتا میں پیچھے ہٹ کر نہیں دیکھوں گا تم نے مجھے راڈرک کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے بھیجا ہے انڈلس میں میری رفتار سے تم اس کی صحیح طاقت کا اندازہ لگا سکو گے۔ اپنے جانبازوں سے طارق نے یہ کہا تھا کہ ہم راڈرک کی زمین پر اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑنے نہیں آئے بلکہ خدا کی زمین میں اسی کی عظمت کے جھنڈے بلند کرنے آئے ہیں۔ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن مسلمانوں کی قوت کا راز ان کی تعداد میں نہیں، ان کے خلوص اور ایمان میں ہے۔

میرے بہادر سپاہیو! ہم نے آج طارق کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا تم ہمارے فیصلے کی تائید کرتے ہو؟

سپاہیوں نے فلک شگاف نعروں سے ابوالحسن کے فیصلے کی تائید کی۔ انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرنے کے بعد ابوالحسن نے دوبارہ تقریر شروع کی:

”تم نے لوشہ کی جنگ میں اپنے دشمنوں پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی تمہاری ایک تلوار دشمن کی دس تلواروں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس فتح نے ہمارے لئے کامیابی کے دروازے کھول دیئے ہیں۔ قسطلہ اور اراغون میں ہمارے مظلوم بھائیوں کی دعائیں مستجاب ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اگر ہم چند دن کے لئے غرناطہ واپس چلے جائیں تو وہاں فتح کے جشن

میں شریک ہو سکیں گے۔ لوگ ہم پر پھولوں کی بارش کریں گے۔
لیکن اگر ہم قرطبہ اور اشبیلیہ کا رخ کریں تو وہاں ہماری بہنیں
اور بھائی برسوں سے صرف اس اُمید پر عیسا یثوں کے مظالم برداشت
کر رہے ہیں کہ کسی دن غرناطہ کے مجاہدان کی مدد کو پہنچیں گے وہاں
ہمارا استقبال پھولوں کی بجائے تشکر کے آنسوؤں کے ساتھ کیا
جائے گا۔

آج سے چند دن قبل کسے یہ اُمید تھی کہ قدرت ہمیں اتنی
بڑی فتح سے سرفراز کرے گی اور اس فتح کے بعد یہ کون کہہ سکتا
ہے کہ چند دن کے بعد ہماری اذانیں قرطبہ اور اشبیلیہ کی مناسبت
میں نہیں گونجیں گی اور ہمارا جھنڈا قسطلہ کے شاہی ایوان پر
نہیں لہرائے گا۔

ابوالحسن کی تقویٰ پر ہر سپاہی کے دل میں اُمید اور ولولے کے نئے چراغ روشن کر رہی تھی۔
وہ تصور میں قرطبہ اور اشبیلیہ کے ایوانوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ قسطلہ کے ایوان شاہی پر اپنی
فتح کے پرچم لہرا رہے تھے۔ وہ برسوں کے غلام مسلمانوں کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو دیکھ رہے
تھے۔ وہ اپنی قوم کے مظلوم بھائیوں اور بہنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ اب تم آزاد ہو، اب
ہمیں کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ اندلس ہمارا ہے، ہم نادم ہیں کہ ہم انہی دیر تمہاری حالت سے
بے پروا رہے۔

لیکن ابوالحسن بولتے بولتے رُک گیا۔ اس کی توجہ تھوڑی دیر کے لئے ایک سوار نے اپنی
طرف مبذول کر لی جو پوری رفتار سے گھوڑا بھگاتا ہوا آ رہا تھا۔ سوار گھوڑے سے اُترا اور کسی
سے بات کہنے بغیر لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا آگے بڑھا۔ ایک سپاہی نے اُسے بازو سے پکڑ کر
روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے جھٹکا دے کر اپنا بازو چھڑا لیا اور بدستور آگے بڑھتا گیا۔

جب لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ وہ ابو الحسن کے پاس جانا چاہتا ہے تو وہ ادھر ادھر ہٹ کر اُسے راستہ دینے لگے۔ ابو الحسن کے دل کی دھڑکنیں یہ گواہی دے رہی تھیں کہ یہ سوار کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا۔ تاہم اس نے ہاتھ کے اشارے سے نودارد کو روکا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے دوبارہ تقریر شروع کی۔

الزغل جو ابو الحسن کے پاس کھڑا تھا نودارد کی طرف بڑھا اور اس کے قریب پہنچ کر بولا۔
”تم غرناطہ سے آئے ہو۔“

نودارد نے جواب دیا۔ ”ہاں میں ایک بہت ضروری خبر لے کر آیا ہوں۔“

”تمہیں موسیٰ نے بھیجا ہے؟“

”نہیں، میں خود آیا ہوں۔“

”اگر تم موسیٰ کی طرف سے نہیں آئے تو تمہاری خبر اہم نہیں ہو سکتی اور تمہیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا کہ اس اجتماع کے سامنے سلطان غرناطہ تقریر فرما رہے ہیں۔“

”لیکن جن حالات میں میں یہاں پہنچا ہوں ان سے واقف ہونے کے بعد آپ میری اس جسارت کو قابل معافی سمجھیں گے۔“

الزغل نے کہا۔ ”کہو کیا کہتے ہو؟“

نودارد نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کہا۔ ”یہاں نہیں۔“

الزغل نے پریشان ہو کر کہا۔ ”میرے ساتھ آؤ۔“

اجتماع سے ایک طرف ہٹ کر الزغل نے نودارد کی طرف دیکھا اور کہا۔ ”مجھے کوئی بڑی

خبر سنانے سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہوتا کہ میں اس کی اہمیت کا اندازہ کر لوں اور یہ بھی سوچ لوں کہ جنگ کے زمانے میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔“

نودارد نے کہا۔ ”اگر آپ غور سے دیکھتے تو مجھے پہچان لیتے۔ میں الحمر کے داروغہ کا بیٹا

ہوں۔ ہبیرہ بن سعید کا شاگرد ہوں۔ چند دنوں سے میں موسیٰ کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کر رہا ہوں۔“

یہاں فوج کے بہت سے آدمی مجھے پہچانتے ہیں لیکن جو افسوس ناک خبر میں لے کر آیا ہوں اگر وہ غلط ثابت ہو جائے اور میں اس کے عوض تختہ دار پر لٹکا دیا جاؤں تو بھی مجھے خوشی ہوگی۔ خدا کرے میرا یہاں آنا ایک خواب ہو اور غرناطہ میں جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا ہے وہ بھی ایک خواب ہو۔“ نو وارد کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔

اتنی دیر میں الزغیری ان کے پاس پہنچا۔ اس نے نوجوان کو دُور سے پہچان کر کہا۔ ”سلیمان خیر تو ہے؟“

سلیمان نے ایک لمحہ کے لئے الزغیری کی طرف دیکھا اور پھر الزغل کی طرف متوجہ ہوا۔“

میں بہت بُری خبر لے کر آیا ہوں۔ غرناطہ میں بغاوت ہو چکی ہے۔“

الزغل نے چلا کر کہا۔ ”نہیں! نہیں! تم نے خواب دیکھا ہے۔ موسیٰ کی موجودگی میں بغاوت

ممکن نہیں۔ تم نے خواب دیکھا ہے، تم دشمن کے جاسوس ہو اور ہماری توجہ محاذِ جنگ سے ہٹانا

چاہتے ہو۔ کہو یہ جھوٹ ہے۔“ الزغل اضطراری حالت میں سلیمان کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر

جھنجھوڑ رہا تھا۔ اور سلیمان بار بار یہ کہہ رہا تھا۔ ”کاش! یہ جھوٹ ہوتا۔“ لیکن یہ جھوٹ

نہیں۔ کاش یہ جھوٹ ہوتا۔“

”لیکن موسیٰ اور بغاوت؟ یہ ناممکن ہے۔ تم دیوانے ہو۔“

سلیمان نے کہا۔ ”موسیٰ ابو عبد اللہ کی قید میں ہے۔“

الزغل نے سلیمان کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور الزغیری سے کہا۔ ”اسے لے جاؤ۔ یہ

دیوانہ ہے۔ ابو عبد اللہ مجھے قتل کر سکتا ہے، اپنے باپ کو قید کر سکتا ہے لیکن میری پردہ جان دیتا

ہے۔ اس پاگل کو لے جاؤ۔“

سلیمان نے کہا۔ ”آج شام تک میری خبر کی تصدیق کرنے کے لئے اور بہت سے لوگ آ

جائیں گے۔ ابو عبد اللہ نے اپنی امارت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس نے باغیوں کو روکا کر دیا ہے اور

عرب عہدہ داروں کی جگہ انہیں مقرر کر دیا ہے۔ جن امارت نے اس کی امارت تسلیم کرنے سے انکار

کیا تھا ان میں سے چند قتل کئے جا چکے ہیں اور باقی قید کر لئے گئے ہیں۔ المجرم پر یہ برہمبری اور ہسپانوی امرامہ کا قبضہ ہے اور شہر میں وہ اپنے قبائل کے لوگوں کو عربوں کے ساتھ لڑا ہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب تک کتنے مکانات جل چکے ہیں اور کتنے آدمی مارے گئے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اب تک یہ آگ غرناطہ کے آس پاس کی بستیوں میں بھی پہنچ چکی ہوگی۔

(۴)

ابوالحسن زیادہ دیر تقریر جاری نہ رکھ سکا۔ اس کی توجہ بار بار الزغل اور الزغیری کی طرف مبذول ہو رہی تھی اور جب وہ سلیمان سے باتیں کرنے کے بعد سر جھکائے اُس کی طرف آہے تھے تو اس کا دل دھڑکنے لگا اور آواز بیٹھ گئی۔ الزغل کا چہرہ دیکھ کر اس کے لئے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ لہجی کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا ہے۔ اس نے تقریر ختم کر کے ہاتھ اٹھا کر فتح کے لئے دُعا مانگی اور جواب طلب نگاہوں سے الزغل کی طرف دیکھنے لگا۔

الزغل نے آگے بڑھ کر کہا: "چلئے؟"

ابوالحسن نے کہا: "کہاں؟ خیر تو ہے؟"

"اپنے خیمے میں چلئے۔"

الزغل کے منموم لہجے سے ابوالحسن کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ اسٹیج سے اُترا اور اس کے ساتھ اپنے خیمے کی طرف چل دیا۔ چند سرداروں نے اُس کا ساتھ دینا چاہا لیکن الزغل نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا: "آپ میرے خیمے میں جمع ہوں۔ ہم ابھی وہاں آتے ہیں۔"

کچھ دُور جا کر ابوالحسن نے سوال کیا: "کوئی بُری خبر سنانے سے پہلے مجھے اتنا ضرور بتاؤ کہ لہجی کہاں سے آیا ہے؟ اتنی بڑی فتح کے بعد ہمیں معمولی حالات سے پریشان نہیں ہونا چاہیئے۔ کہو کیا بات ہے، تمہاری خاموشی میرے لئے ناقابلِ برداشت ہو رہی ہے۔"

الزغل نے کوئی جواب نہ دیا۔ سلیمان نے جواب بھی تک وہیں کھرا تھا، الزغل کا اشارہ پا کر ان کے ساتھ ہو لیا۔

ابوالحسن سلیمان کی طرف متوجہ ہوا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ تاؤ میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا تم یہ خبر لے کر نہیں آئے کہ مسجد کا کوئی گاؤں یا شہر ہمارے قبضہ سے نکل گیا ہے اور عیسائی وہاں کے مسلمانوں سے اپنی شکست کا بدلہ لے رہے ہیں؟

سلیمان نے جواب دینے کی بجائے الزغل کی طرف دیکھا اور اس نے سر کے اشارے سے اُسے خاموشی کی تلقین کی۔

ابوالحسن کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے چلا کر کہا۔ "الزغل! کیا تم نے ایک ماں کا دودھ نہیں پیا ہے۔ کیا میں وہ خبر سننے کی ہمت نہیں رکھتا جسے تم سُن چکے ہو؟ کیا یہ قاصد کسی زلزلے کی خبر لے کر آیا ہے، کیا الحمرار میں آگ لگ گئی ہے؟ کیا ابو عبد اللہ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ خدا کی قسم ایسی خبریں مجھے پریشان نہیں کر سکیں گی اور اگر یہ قاصد یہ پیغام لایا ہے کہ عیسائیوں کا کوئی دستہ ہماری مسجد کے کسی غیر محفوظ قلعے پر قابض ہو گیا ہے تو یہ خبر تم مجھے فوج کے سامنے سُنا سکتے تھے۔ ہم نئے حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک دن پیش قدمی کا ارادہ ملتوی کر سکتے ہیں۔ الزغل! تمہاری زبان گنگ کیوں ہو گئی۔ مجھے تاؤ وہ کونسا نقصان ہے جس کی تلافی ان مجاہدوں کی تلوار نہیں کر سکتی، وہ کونسا محل گرا ہے جسے یہ مجاہد دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے؟ ایک سپہ سالار کی سب سے بڑی دولت اس کے سپاہی ہوا کرتے ہیں۔ موسیٰ اور عبد اللہ کے سوا جن لوگوں کو میں سب سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں وہ میرے ساتھ ہیں۔ کسی کی موت میرے لئے ناقابل برداشت نہیں ہوگی۔ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ نعیم رضوان کو جب لحد میں اتارا جا رہا تھا میری آنکھوں میں آنسوؤں کا نشان تک نہ تھا حالانکہ وہ مجھے عبد اللہ سے کم عزیز نہ تھا۔" اتنی دیر میں ابوالحسن کا خمیہ قریب آ گیا تھا۔ ابوالحسن مایوس ہو کر تیزی سے خمیے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خمیے میں داخل ہو کر الزغل نے اُسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ "میرے بھائی! یہ

قاصد ایک بہت بڑے حادثہ کی خبر لایا ہے۔ ابو عبد اللہ نے اپنی امارت کا اعلان کر دیا ہے اور باغیوں کو قید سے رہا کر کے شہر میں خانہ جنگی کروا دی ہے۔ ہمارے لئے غرناطہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ — موسیٰ عبد اللہ کی قید میں ہے۔“

ابو الحسن پر یہ الفاظ بجلی بن کر گرے۔ وہ اچانک اٹھا اور لڑ کھڑا ہوا پھر کرسی پر آگرا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے الزغل اور سلیمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کے مغموم چہروں پر اپنی تقدیر کا نوشتہ پڑھ رہا تھا۔

الزغل نے کہا: اب میں حیران ہوں کہ فوج کو یہ خبر کس طرح سنانی جاوے۔ ہم اس خبر کو زیادہ دیر چھپا بھی نہیں سکتے۔ آج شام سے پہلے کئی اور آدمی آجائیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ غرناطہ کی طرح یہاں بھی عرب اور غیر عرب سپاہیوں کی تلواریں آپس میں نہ ٹکرائیں۔ فوج کے سردار میرے خیمے میں جمع ہو رہے ہیں آپ پہلے ان سے وفاداری کا حلف لیں اور پھر ان پر یہ خیر ظاہر کریں۔ کاش آج موسیٰ یہاں ہوتا۔ آپ مایوس نہ ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ نوشتہ کی فتح کی خبر پھر ایک بار غرناطہ کے عوام کی حرارتِ ایمانی زندہ کر دے گی۔ وہ ابو عبد اللہ کے خلاف بغاوت کر کے ہمارے لئے شہر کے دروازے کھول دیں گے۔ اٹھتے ہمت سے کام لیجئے۔ اب سوچنے کا وقت نہیں۔“

ابو الحسن کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن اُس کی آواز جواب دے چکی تھی۔ سلیمان نے اہستہ سے کہا: ”طیب کو بلائیے سلطان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔“

الزغل نے جھک کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور جلدی سے باہر نکل کر پیردار سے کہنا۔ فوراً بشیر بن حسن کو بلاؤ۔ وہ زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہا ہوگا۔ اُسے کہو کہ سلطان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ لیکن علیحدگی میں، کسی کے سامنے نہیں۔“

کتھوری دیر کے بعد بشیر بن حسن خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے سلطان کی حالت دیکھ کر

الزغل سے کہا۔ ان پر فالج گرا ہے لیکن فالج کا حملہ شدید نہیں، انشاء اللہ جلد آرام آجائے گا۔
معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے ۛ

(۵)

تھوڑی دیر بعد الزغل نے سلیمان سے کہا: "تم جا کر آرام کرو لیکن ابھی کسی پر یہ بات ظاہر نہ کرنا۔ پھر وہ بشیر بن حسن کی طرف متوجہ ہو کر بولا: "اگر میرا یہاں ٹھہرنا ضروری نہ ہو تو مجھے تھوڑی دیر کے لئے اجازت دیجئے۔"

بشیر بن حسن نے کہا: "سلطان کی نگاہیں آپ پر جمی ہوئی ہیں۔ میرے خیال میں آپ کا کچھ دیر یہاں سے غیر حاضر رہنا ان کے لئے بہتر ہوگا۔ ان کی توجہ کسی اور طرف مبذول ہو سکے گی۔"

الزغل اپنے خیمے میں داخل ہوا تو فوج کے تمام بڑے بڑے عمدہ داروہاں جمع تھے۔ وہ الزغلی کے گرد گھیرا ڈال کر سوالات کی بوچھاڑ کر رہے تھے اور وہ چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا۔
"مجھے پتہ نہیں۔ سلیمان صرف سلطان سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔"

الزغل کو دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد الزغل ان سے وفاداری کا وعدہ لینے اور انہیں غرناطہ کے المناک حادثہ کی خبر سننے کے بعد خیمے سے باہر نکلا۔ سرداروں نے بھی اپنے اپنے خیمے کا رخ کیا۔ دوپہر تک یہ خبر تمام فوج میں مشہور ہو چکی تھی اور شام سے تھوڑی دیر قبل غرناطہ سے آنے والے چند آدمی اس خبر کی تصدیق کر چکے تھے۔ وہ سپاہی جو تھوڑی دیر قبل قسطنطنیہ کے شاہی محل پر اپنا جھنڈا لہرانے اور اشبیلیہ اور قرطبہ کی مساجد میں اذانیں دینے کے حسین سپنے دیکھ رہے تھے اب اپنے گھروں کو تباہی سے بچانے کی فکر میں سرگردان تھے۔ وہ شاعر جنہوں نے لوشہ کے مجاہدین کی شان میں قصائد لکھے تھے اب ابو عبد اللہ کی غداری پر مرثیے لکھ رہے تھے۔ اندلس کے مقد کا ستارہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ

کے بعد نجاست کے بادلوں میں چھپ چکا تھا۔

اگلے دن بشیر بن حسن کی مسیحائی سے ابوالحسن کی کھوئی ہوئی قوتِ گویائی واپس آگئی۔ اس کے پہلے الفاظ یہ تھے۔ میرے بیٹے! تم نے یہ کہا کیا۔ یہ تخت جسے تم نے چھیننے کی کوشش کی تمہارا ہی تھا لیکن تم نے بادشاہ بننے کے شوق میں اندلس کے مسلمانوں کا مستقبل تباہ کر دیا ہے۔ خدا نہ کرے تمہارا بویا اندلس کے مسلمانوں کو کاٹنا پڑے۔ میرے بیٹے! میرے عبداللہ! لیکن تم میرے نہیں۔ ابوالحسن نے کڑواہٹ بدل کر تکیے میں منہ چھپایا اور ہچکیاں لینے لگا۔

دو دن بعد اس کے اعصاب سے فالج کے اثرات دُور ہو چکے تھے لیکن زندگی کی وہ حرارت جس کے باعث وہ ساٹھ سال کی عمر میں بھی بہت سے نوجوانوں کے لئے قابلِ رشک تھا سر پڑ چکی تھی۔ زندگی کے ایک ہی حادثہ نے تلوار سے کھیلنے والے مجاہد کو لاکھٹی کا سہارا لیکر چلنے پر مجبور کر دیا تھا۔

فوج کے سرداروں کی اکثریت کا فیصلہ یہ تھا کہ اب غرناطہ کا رخ کیا جائے اور غرناطہ کے قریب کسی شہر میں قیام کر کے ابو عبداللہ کے پاس ایک وفد بھیجا جائے۔ اگر وہ راہِ راست پر نہ آئے تو اس کی کجی تلواروں سے درست کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ مگر خدا نخواستہ جنگ کی نوبت آئی تو شہر کے عوام یقیناً ابو عبداللہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ غرناطہ کی شورش کے باعث سپاہیوں میں جو بددلی پھیل رہی ہے اس کا علاج یہی ہے کہ فوراً دارالسلطنت پر قبضہ کر لیا جائے ورنہ ابو عبداللہ سے یہ بات بھی غیر متوقع نہیں کہ وہ عیسائیوں کا حلیف بن جائے اور ہم کہیں کے نہ رہیں۔

ابوالحسن نے اس فیصلے سے اتفاق کیا لیکن کوچ سے پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اُس کی مکر توڑ دی۔

جس دن ابوالحسن نے غرناطہ کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کیا اس سے ایک دن قبل غرناطہ کے چند سواروں کا ایک گروہ ابوالحسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے ابو عبداللہ کو

بُرا بھلا کہنے کے بعد ابو الحسن کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ اس کے لئے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لئے تیار ہیں اور غرناطہ میں ان کے زیر اثر لوگ بھی ابو الحسن کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ابو الحسن ان لوگوں سے نہایت عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا لیکن چارون ابو الحسن کی فوج کے ساتھ رہ کر یہ لوگ اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر چکے تھے۔ ابو داؤد نے انہیں ابو الحسن کی فوج میں پھوٹ ڈالنے کے لئے بھیجا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے عربوں کو یہ کہہ کر بھڑکایا کہ غرناطہ میں تمہارے بھائی بربریوں اور ملکی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے بربریوں اور ملکی مسلمانوں سے یہ کہا کہ ابو عبد اللہ کی حکومت تمہارے لئے باعث رحمت ہوگی۔ اس نے بڑے بڑے عرب عمدہ داروں کو معزول کر کے ان کی جگہ تمہاری قوم کے آدمیوں کو مقرر کر دیا ہے۔ تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ غرناطہ جا کر ابو عبد اللہ سے وفاداری کا اعلان کرو۔ بعض سرداروں کو انہوں نے عہدوں کا لالچ دے کر اور بعض کو جو کسی فریب میں آنے والے نہ تھے انہوں نے یہ کہا کہ فوج کے وہ عمدہ دار جو ابو الحسن کا ساتھ دیں گے ابو عبد اللہ غرناطہ میں ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بدترین سزائیں دے گا۔ کم حیثیت کے آدمیوں کے ضمیر انہوں نے سونے اور چاندی سے خرید لئے۔ یہ کام انہوں نے اس ہوشیاری سے انجام دیا کہ ابو الحسن کے جانثاروں کو خبر تک نہ ہو سکی۔ پہلے دن انہوں نے فوج میں وہ لوگ تلاش کئے جو پہلے سے ان کے زیر اثر تھے۔ پھر ان کی مدد سے دوسروں کو بہکانے کا کام لیتے رہے۔

ایک شام ابو الحسن کی فوج نے غرناطہ سے بیس کوس کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا اور رات کے تیسرے پہر اسے معلوم ہوا کہ اس کی فوج میں سے آٹھ ہزار بربری اور ہسپانوی اس کا ساتھ چھوڑ کر غرناطہ کا رخ کر رہے ہیں۔

الزغل اس واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ابو الحسن کے خیمے میں جا پہنچا۔ تھوڑی دیر میں فوج کے چند اور افسروں کا جمع ہو گئے۔ الزغل نے مشورہ دیا کہ غداری کرنے والوں کا راستہ روک کر

انہیں سمجھایا جائے اور اگر وہ کہنا نہ مانیں تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ بعض سرداروں نے اس مشورہ کی تائید کی اور بعض نے مخالفت کی۔ بالآخر ابو الحسن نے رنج و اطم میں ڈوبی ہوئی نحیف آواز میں کہا: "انہیں جانے دو۔ میں اپنی زندگی میں مسلمانوں کی تلواروں کو آپس میں ٹکرائے کی اجازت نہیں دوں گا۔"

ان المناک حوادث سے دوچار ہونے کے بعد سلطان ابو الحسن نے مالتھ کا رخ کیا۔ مالتھ کا حاکم پہلے ہی ابو عبد اللہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر چکا تھا۔ اس نے انتہائی گرجوہشی کے ساتھ سلطان کا استقبال کیا اور اپنا محل اس کے لئے خالی کر دیا۔ چند دن میں گرد و نواح کے تمام سردار اپنے سلطان کے پاس پہنچ کر وفاداری کا اظہار کرنے لگے۔

غرناطہ کی وہ سلطنت جس کے عوام چند ماہ قبل سارے اُندلس پر قبضہ کرنے کا ارادہ لے کر اٹھے تھے اب دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ غرناطہ اور اس کے مضافات پر ابو عبد اللہ کا قبضہ تھا اور مالتھ پر ابو الحسن کی حکومت تھی۔

فرڈی نینڈ کو جس قدر اپنی گزشتہ ناکامیوں کا افسوس تھا اس سے کہیں زیادہ ابو عبد اللہ کی بغاوت پر جوہشی ہوئی اور وہ ابو الحسن پر آخری ضرب لگانے کی تیاری کرنے لگا۔

(۶)

دشمن کے ہاتھوں بڑی سے بڑی شکست کے بعد بھی شاید ابو الحسن حوصلہ نہ ہارتا۔ لیکن وہ ناکامی جس کا باعث اس کا اپنا بیٹا تھا اس کے لئے ناقابل برداشت تھی۔ اسے اپنے حال اور مستقبل سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ اس کا بھائی الزغل اور اس کے دوسرے جاں نثار اُسے تسلی دینے کی کوشش کرتے۔ آہستہ آہستہ وہ ملاقات کی خواہش لے کر آنے والوں کو ٹمانے لگا۔ تنہائی میں اس کا زیادہ وقت افسوس ہانے میں گزرتا۔ رفتہ رفتہ اس کی بینائی

جواب دینے لگی۔

ایک دن الزغل اور بدر بن مغیرہ اس کے مکرے میں داخل ہوئے۔ جب الزغل نے اپنے مستقبل کے ارادوں کے متعلق گفتگو شروع کی تو سلطان نے آبدیدہ ہو کر کہا: "میرے بھائی کوئی اور بات کرو۔ ہم دشمن کے خلاف لڑ سکتے ہیں اپنے مقدر کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔"

بدر بن مغیرہ نے جواب دیا: "مجاہد اپنی تلوار کی نوک سے اپنی تقدیر لکھتے ہیں۔"

ابو الحسن نے جواب دیا: "لیکن میری تلوار ٹوٹ چکی ہے۔"

بدر نے کہا: "آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے ہر بڑے انسان کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔"

"تم ایسے انسانوں کو بڑے آدمیوں کی صف میں نہ گھسیٹو جس کا بیٹا عبداللہ ہو۔ جاؤ"

مجھے تنہا چھوڑ دو میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں۔" یہ کہہ کر سلطان نے منہ پھیر لیا۔ بشر بن

حسن دبے پاؤں مکرے میں داخل ہوا اور اس نے آہستہ سے کہا: "سلطان کی طبیعت ٹھیک

نہیں۔ آپ کی باتیں ان کی روحانی اور جسمانی تکالیف میں اضافہ کریں گی۔ ان کا علاج

اس کے سوا کچھ نہیں کہ عبداللہ کو راہِ راست پر لایا جائے۔"

بدر بن مغیرہ نے الزغل کی طرف دیکھا اور کہا: "عبداللہ کو راہِ راست پر لایا جاسکتا ہے۔"

سلطان نے چونک کر بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھا اور بھرتائی ہوئی آواز میں کہا: "کاش

اُسے کوئی سمجھا سکتا لیکن وہ سمجھنے والوں میں سے نہیں۔"

بدر بن مغیرہ نے کہا: "وہ مجبور ہو جائے گا۔"

"لیکن میں مسلمانوں میں خانہ جنگی نہیں چاہتا۔"

بدر بن مغیرہ نے کہا: "اگر چند دنوں کے بعد اُس نے ہمارے مقابلے میں اپنی قوت کا صحیح

اندازہ کرنے کی کوشش کی تو مسلمانوں میں خانہ جنگی کی نوبت نہیں آئے گی۔"

اس ملاقات کے بعد الزغل، بدر بن مغیرہ، الزیغری اور فوج کے دوسرے افسروں نے

ایک اجلاس میں فیصلہ کیا کہ فوج کو از سر نو منظم کیا جائے۔

الزغل نے سلطنت کے تمام چیدیہ چیدیہ سرداروں کے پاس وفد بھیجے۔ بدر بن مغیرہ کے جانباز چھوٹی چھوٹی ٹولہوں میں تقسیم ہو کر جہاد کی تبلیغ کرنے لگے۔

بذات خود بدر بن مغیرہ اپنے پانچ سو جانبازوں کے ساتھ مالقہ سے نکلا اور غرناطہ کے مضافات میں پہنچ کر ابو عبد اللہ کے خلاف راستے عامہ کو بیدار کرنے کی مہم شروع کر دی۔ ابو عبد اللہ کی فوج کے سپاہیوں نے اس کے راستے میں مزاحم ہونے کی کوشش کی لیکن ان کی پیش نہ گئی۔ چند مقامات پر ابو عبد اللہ کے سپاہیوں اور بدر بن مغیرہ کے سواروں کے درمیان معمولی جھڑپیں ہوئیں اور بدر بن مغیرہ کے سوار انہیں پسپا کر غرناطہ کی چار دیواری کے پاس چھوڑ گئے۔

چند ہفتوں کی بھاگ دوڑ کے بعد بدر بن مغیرہ نے غرناطہ کے آس پاس کی بستیوں کے عوام کے تعاون سے غرناطہ کی مکمل ناکہ بندی کر لی۔ کسانوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا۔ اور اپنی پیداوار غرناطہ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ شہر میں قحط کے آثار دیکھ کر ابو عبد اللہ کے خلاف غرناطہ کے عوام کا دیا ہوا جذبہ آہستہ آہستہ ابھرنے لگا اور ان میں سے بعض غرناطہ سے فرار ہو کر مالقہ کا رخ کرنے لگے۔

ابو عبد اللہ نے حالات کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے پانچ ہزار سپاہیوں کو سرحدی عقاب کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا لیکن ایک ہفتے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ ان میں سے دو ہزار بدر بن مغیرہ کے ساتھ جا چکے ہیں اور باقی شکست کھانے کے بعد کسانوں کی چذبتیاں جلا کر واپس آ رہے ہیں۔

آرِ عَنكَبُوت

(۱)

بلد بن مغیرہ غرناطہ سے مئیس کو س کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ ایک شام اُس کی فوج کے ایک افسر نے اُسے اطلاع دی کہ غرناطہ سے ایک بربری سردار کوئی اہم پیغام لے کر آیا ہے۔ بلد بن مغیرہ نے اسے فوراً اپنے خیمہ میں بلا لیا۔ منصور بن احمد بدر بن مغیرہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔

بربری سردار نے خیمے میں داخل ہو کر ان دونوں سے یکے بعد دیگرے مصافحہ کیا اور ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا: "میں غرناطہ سے آیا ہوں۔"

"کہئے؟" بدر بن مغیرہ نے کہا۔

بربری سردار نے قدر سے تذبذب کے بعد کہا: "میں آپ سے تنہائی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔"

بدر بن مغیرہ نے منصور بن احمد کی طرف دیکھا اور وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔
نوادرنے اپنی جیب سے ایک خط نکالا اور اٹھ کر بدر بن مغیرہ کی طرف بڑھاتے ہوئے

کہا: ”مجھے اب وادوڑنے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی طرف سے اس خط کا جواب ہمسایہ کو تباہی سے بچا سکتا ہے۔“

بدر بن مغیرہ نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا اور بربری سردار انتہائی دلچسپی سے اس کے چہرے پر تحریر کے اثرات کا مطالعہ کرنے لگا۔ خط پڑھنے کے بعد بدر بن مغیرہ نے ایک تانبہ کے لئے بربری سردار کی طرف دیکھا اور پہلے سے زیادہ انہماک کے ساتھ دوبارہ پڑھنے لگا۔ خط کا مضمون یہ تھا:

”ایک ایسے شخص کی طرف سے جو اپنی
کو تباہی عمل کے باعث اپنی قوم کے لئے
ایک عضوِ معطل بن چکا ہے۔ ایک
ایسے مجاہد کے نام جس کی بلند مہمتی اور
اولوالعزمی مسلمانانِ اندلس کا آحتسری
سہارا ہے۔

آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کون ہوں۔ غرناطہ میں اتنے بڑے
انقلاب کے باوجود میری خاموشی کا باعث کسی مصلحت سے
زیادہ میری مجبوریاں تھیں۔ اب بھی مجھے یقین نہیں کہ میرا خط
آپ تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر میں نے قاصد پر اعتماد کرنے
میں غلطی نہیں کی اور یہ خط آپ کو مل جائے اور اس سے کوئی
خوشگوار نتائج برآمد ہوں تو میں اُسے اپنی گزشتہ کوتاہیوں کا
کفارہ سمجھوں گا۔ اور اگر میرے ایلچی کی غداری یا کسی اور وجہ سے
میرا خط غرناطہ کے ملت فروشوں کے ہاتھ لگ گیا تو میں ان
لوگوں میں سے ایک ہوں گا جن کی بہترین خواہشیں اور امنگیں

گنہگار کی موت کے پردوں میں چھپ جاتی ہیں۔ بہر حال میرے
بعد اگر ربیعہ ابو عبد اللہ کی بُری خواہشات کا شکار نہ ہوئی تو وہ
آپ کو تمام واقعات بتا سکے گی۔

ابو عبد اللہ کی بغاوت کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ
کاش میں غرناطہ میں نہ آتا۔ یہ میری بد قسمتی تھی کہ میں نے ایک
عقاب کی صحبت میں رہ کر در کس زندگی حاصل کرنے کی بجائے
ایک ایسے طوطے کو پٹھانے کا بیڑا اٹھایا جو ایک سنہری پتھرے
میں بند تھا۔ میں اُسے تیلوں، فضاؤں میں پرواز کی لذت سے
آشنا کرنا چاہتا تھا لیکن میں خود الحمار کے پتھرے میں بند کر دیا
گیا ہوں۔ کاش ابو عبد اللہ کو انسانیت کی سطح پر لانا میرے بس
میں ہوتا۔

میں حیران ہوں کہ میں صحیح حالات سے اس قدر بے خبر
کیوں تھا اور صرف میں ہی نہیں، ابو موسیٰ، الزغل اور سلطان
ابو الحسن بھی ان فتنوں سے بے خبر تھے جو الحمار کی چار دیواری
کے اندر چل رہے تھے۔ غرناطہ کا حکمران ابو عبد اللہ نہیں بلکہ
وہ سردار اور اکابر ہیں جو ان واقعات سے پہلے فرط غیب سے
غرناطہ کی قیمت وصول کر چکے تھے۔ جب ابو عبد اللہ نے بغاوت
کا اعلان کیا تو الحمار میں صرف ابو موسیٰ ایک ایسا شخص تھا جو
ابو الحسن کا وفادار تھا اور وہ اب کسی تاریک کوٹھڑی میں پڑا ہوا ہے۔
ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے، منافقین کی ایک
منظم طاقت جس کا طلسم ابو موسیٰ جیسے جادو بیان سے بھی نہ

ٹوٹ سکا میری طرف سے معمولی مداخلت بھی برداشت کرنے
 کے لئے تیار نہ ہوئی۔ میرے لئے دو ہی راستے تھے ایک یہ کہ
 میں بھری محفل میں ابو عبداللہ کے سامنے بغاوت کا نعرہ بلند
 کروں اور اس کے عوض زندگی کے باقی لمحات قید خانے کی
 تاریک کوٹھڑی میں گزار دوں۔ دوسرا یہ کہ ایک خاموش تماشائی
 کی حیثیت میں کسی ایسے وقت کا منتظر رہوں جب حالات ابو عبداللہ
 کو میری باتوں کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیں۔ میں نے دوسرا
 راستہ اختیار کیا۔ آپ اسے میری مصلحت انہی سمجھ لیجئے یا زبلی
 کہہ لیجئے بہر حال میرے اس طرز عمل کے باعث الحرام کے دروازے
 میرے لئے اب تک کھلے ہیں۔ میں ابھی تک ابو عبداللہ کو کوئی
 صحیح قدم اٹھانے پر آمادہ نہیں کر سکا لیکن بعض غلط اقدامات سے
 روکنے میں میری تدبیریں کئی بار کامیاب ہوئی ہیں اب چند
 دن سے میں ابو عبداللہ کے طرز عمل میں ایک تبدیلی محسوس کر رہا
 ہوں اور اس تبدیلی کا باعث یہ نہیں کہ اس کے دل میں اندس
 کے مستقبل کے متعلق کوئی خدشہ پیدا ہوا ہے بلکہ اس کی وجہ یہ
 ہے کہ اُسے اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا ہے۔ وہ خطرات
 جنہیں وہ غناط سے بہت دُور سمجھتا تھا اب اُسے غناط کی
 چار دیواری کے قریب نظر آ رہے ہیں۔ شہر کی ناکہ بندی اور
 اہل شہر کی بے چینی سے وہ سخت پریشان ہے۔ اگر فریڈینڈ
 سے فوری امداد کی امید ہوتی تو وہ شاید اس قدر مضطرب نہ ہوتا۔
 لیکن فریڈینڈ نے اُس کے پیغام کا یہ جواب دیا ہے کہ اُسے

ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لئے تیاری کی ضرورت ہے۔ اس کی پریشانی کا یہ عالم ہے کہ پہلے میں بڑی کوشش کے بعد سے بلا کرتا تھا لیکن اب وہ اپنی تسکین کے لئے مجھے کبھی کبھی آدھی رات کے وقت بھی بلا بھیجتا ہے اور کبھی میری قیام گاہ پر خود بھی آجاتا ہے۔ پرسوں ابو عبد اللہ نے آدھی رات کے وقت مجھے بلایا اور غرناطہ کے حالات پر تشویش ظاہر کی۔ میں نے چند باتوں سے اُس کی پریشانی میں صاف کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ اور سلطان کے درمیان مصالحت ہو جائے۔ ابو عبد اللہ کے منہ سے بے اختیار یہ نکل گیا کہ "کاش یہ ممکن ہوتا۔ اگر میرا والد مجھے معاف بھی کر دے تو میرے چچا کا دل کبھی میری طرف سے صاف نہیں ہوگا۔" آپ کے متعلق بھی اُس نے یہ خابنہ ظاہر کیا کہ آپ اس کے خون کے پیاسے ہیں۔ میں نے اُسے کہا کہ اگر سلطان کی طرف سے صلح کے لئے سلسلہ جنبانی ہو تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس نے کہا: "ان حالات میں یہ سوچنا حماقت ہے کہ سلطان میرے ساتھ مصالحت کی خواہش کرے گا۔ سرحدی عقاب کی کامیابیوں کے بعد وہ مجھے ایک بے ضرر دشمن خیال کرتے ہوں گے اور وہ میری طرف مصالحت کا ہاتھ بڑھانے کی بجائے میرے گلے میں پھانسی کا پھندا اڑانا زیادہ پسند کریں گے۔"

میں نے کہا: "اگر میں نے سرحدی عقاب کو سمجھنے میں

غلطی نہیں کی تو غرناطہ کے معاملات کے ساتھ اس کی دلچسپی سلطان کے ساتھ دوستی یا آپ کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے نہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو نصرا نہیں کے مقابلہ میں متحد اور منظم کرنا چاہتا ہے۔ اگر اُسے آپ کی صلاحیتوں کا علم ہو جائے تو ممکن ہے کہ وہ سلطان کو آپ کے حق میں دست بردار ہونے پر مجبور کر دے۔“

ابو عبداللہ دیرتاک سوچتا رہا۔ بالآخر اس نے مضطرب ہو کر کہا: "لیکن مجھے کیسے یقین آنے کہ سرحدی عقاب میرا ساتھ دے گا اور میرا والد الزغل یا میرے سوتیلے بھائی کو اپنا جانشین بنانے پر مُصر نہیں ہوگا۔"

"میں نے اُسے جواب دیا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد نصرانی حکومت کا تختہ الٹنا ہے اور اس مقصد کے لئے وہ غرناطہ میں خانہ جنگی روکنے کے لئے اپنا ہر فیصلہ بدلتے پر آمادہ ہو سکتا ہے۔"

میری ان باتوں سے ابو عبداللہ کو یہ اُمید ہو گئی ہے کہ آپ غرناطہ پر حملہ کرنے سے پہلے مصالحت کی کوشش کریں گے وہ اس بات پر آمادہ ہو گیا تھا کہ مصالحت کے لئے ایک وفد آپ کی خدمت میں بھیجا جائے لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ تمام سرکردہ لوگ جنہیں مصالحت کی صورت میں اپنی جان کا خدشہ ہے ابو عبداللہ کے ارادوں کی مخالفت کریں گے اور وہ ابو عبداللہ کی جگہ کسی اور بے وقوف کو تخت پر بٹھادیں گے

اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فریڈینڈ کو باپ اور بیٹے کی صلح سے پیدا ہونے والے خطرات سے آگاہ کر کے اُسے فوری مداخلت پر آمادہ کر لیں، اس لئے میں نے انہیں بے خبر رکھنے کے لئے ابو عبد اللہ کو یہ سمجھایا کہ آپ نے صلح کے لئے وفد بھیجنے میں پہل کی تو ممکن ہے کہ وہ اسے آپ کی کمزوری سے تعبیر کریں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے ساتھیوں میں سے اکثر سردار سزا سے بچنے کے لئے مصالحت سے پہلے ہی آپ کا ساتھ چھوڑ کر ان کے ساتھ جائیں۔ یا آپ کو قید کر کے ان کے حوالے کر دیں۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ سر دست کسی پر اپنا ارادہ ظاہر نہ کریں اور ان کی طرف سے صلح کے ایچی کا انتظار کریں۔

اور اب ابو عبد اللہ صلح کے ایچی کا انتظار کر رہا ہے، اور میرا کام یہ ہے کہ میں اُسے مایوس نہ ہونے دوں لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ فریڈینڈ کے زرخیز سردار آپ کی طرف سے صلح کے کسی ایچی کو الحماز کے دروازوں کے پاس نہیں کھٹکنے دیں گے اور ابو عبد اللہ کا کوئی قاصد بھی کھلے بندوں آپ تک نہیں پہنچ سکتا اور مصالحت کی وہ گفتگو بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس کا ان ملت فریشوں کو علم ہو۔

اس لئے آپ کو ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال رہا ہوں۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر آپ رات کے وقت ایک خفیہ راستے سے الحماز میں داخل ہو جائیں تو میں تنہائی

میں آپ کے ساتھ ابو عبد اللہ کی ملاقات کا انتظام کر سکتا ہوں۔
 اگر میری تجویز کارگر ہو اور آپ پہریادوں کی نظروں سے بچ کر
 الحمرہ میں داخل ہو جائیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے غرناطہ فتح کر
 لیا۔ ابو عبد اللہ کو صرف یہ یقین دلانے کی ضرورت ہوگی کہ اس
 کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے بعد آپ کا ہر اشارہ اُس
 کے لئے ایک حکم کا درجہ رکھے گا۔ یہ ملاقات میرے اپنے مکان
 کے ایک کمرے میں ہوگی۔ فرض کیجئے ابو عبد اللہ آپ کی ان
 باتوں سے مطمئن نہیں ہوتا اور اس کی نیت میں فتور ہے تو بھی
 وہ سرحدی عقاب کے ساتھ ایک کمرے میں بند ہوگا۔ آپ
 اس سے ہر ایسے حکم پر دستخط کروا سکیں گے جو الحمرہ پر قبضہ
 کرنے کے لئے ضروری ہوگا اور ایسے احکام کی تعمیل کے لئے
 محل کے چند ایسے مجاہد موجود ہوں گے جنہیں میں ابو الحسن کا
 وفادار سمجھتا ہوں۔ محل کے وہ ملازم جو ملت فروشوں کے جاسوس
 ہیں یکے بعد دیگرے اس کمرے میں بلائے جاسکیں گے اور
 میری طرف سے ان کے لئے چار قوی ہیکل حبشی جلا دوں کا
 بھی انتظام ہوگا۔

الحمرہ پر قبضہ ہو جانے کے بعد غرناطہ آپ کے ہاتھ میں
 ہوگا۔ ابو عبد اللہ آپ کے اشاروں پر ناچے گا۔ ملت فروش
 سرداروں کو چھوٹی چھوٹی ٹولہوں میں محل کے اندر بلایا جائے گا
 اور ان میں سے ناقابل اصلاح عنصر کو جلا دوں کے سپرد کر
 دیا جائے گا۔ اس کے بعد ابو عبد اللہ کی طرف سے فوج کو

الحجرات کے دروازے کے سامنے جمع ہونے کی دعوت دی جائے گی اور ابو موسیٰ کو قید سے نکال کر ان کے سامنے تقریر کے لئے بلایا جائے گا۔ آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ سپاہیوں کے دلوں میں ابھی تک موسیٰ کے لئے کس قدر محبت ہے۔ اس کے بعد ابو عبد اللہ جسے میں ذاتی طور پر قابل معافی نہیں سمجھتا آپ کے رحم و کرم پر ہو گا۔

اب آپ کو فقط یہ بتانا باقی ہے کہ میں نے آپ کے الحجرات میں داخل ہونے کی کیا تجویز سوچی ہے۔ میرا مکان دریا کی طرف الحجرات کے کونے میں ہے۔ آپ اگر اچھے تیراک ہوں تو کشتی کی مدد کے بغیر دریا عبور کر کے دیوار کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ دیوار کے ساتھ آپ کو ایک بہت بڑا درخت ملے گا جس کا تنا دریا میں اس قدر جھکا ہوا ہے کہ اس کی شاخیں پانی کو چھوتی ہیں۔ اس درخت سے دائیں طرف کوئی بیس قدم چلنے کے بعد تقریباً چالیس باشت کی بلندی پر آپ کو میرے مکان کا دیدیچہ نظر آنے گا۔ رات کے وقت یہ دیدیچہ روشن ہو گا۔ اس دیدیچے کے نیچے کھڑے ہو کر اگر آپ دیوار کے ساتھ ساتھ ٹھوس تو آپ کو ایک باریک رسی ملے گی۔ آپ اس رسی کو کھینچیں گے تو مجھے آپ کی آمد کی اطلاع ہو جائے گی اور میں رسی کی سیرھی لٹکا دوں گا۔ آپ باسانی میرے کمرے میں پہنچ جائیں گے۔ اگر کوئی منظرہ کی بات ہوتی تو رسی کے نچلے سرے کے ساتھ آپ کو کاغذ کا ایک پُرزہ بندھا ہوا ملے گا۔ آپ یہ پُرزہ

اُتار کر لوٹ جائیں اور ان ہدایات پر عمل کریں جو اس میں درج ہوں گی۔

میں نے اس کے لئے چہار شنبہ کی رات تجویز کی ہے۔ اگر اس چہار شنبہ کو آپ نہ آسکیں تو اگلے چہار شنبہ کی رات آجائیں لیکن یہ چہار شنبہ اس لئے بہتر ہے کہ رات اندھیری ہوگی اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بادلوں کا زور چند دن تک اور رہے گا۔

اگر میں درپچے کے سامنے آپ کے استقبال کے لئے موجود نہ ہوا تو یہ سمجھئے کہ میں عبد اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوں لیکن میری عدم موجودگی میں ربیعہ آپ کی رہنمائی کرے گی۔ چہار شنبہ کی رات ابو عبد اللہ میرے ہاں مدعو ہوگا۔ آپ اس بات پر حیران نہ ہوں جب سے ابو عبد اللہ نے ربیعہ کو دیکھا ہے وہ مختلف بہانوں سے میرے ہاں چلا آتا ہے۔ کل اس نے درپردہ ربیعہ کو شادی کا پیغام بھیجنے کی حماقت کی تھی۔ ربیعہ پیغام لانے والی لونڈی کے بال نوچنے کے لئے تیار ہوگئی تھی لیکن اینجلا کی مداخلت سے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ میرے سامنے ابو عبد اللہ اپنی خواہشات کی ترجمانی کے لئے اشاروں پر اکتفا کرتا ہے۔ ان حالات میں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں زیادہ دیر الحمرار میں نہیں ٹھہر سکوں گا۔

میں آپ کو ایک خطرناک مہم پر بلاتا ہوں اور کامیابی

کا پورا یقین بھی نہیں دلا سکتا۔ الحمرائے کے قریب پہنچنے کے بعد آپ کا ہر قدم زندگی اور موت کے درمیان ایک نہایت تنگ و تاریک راستے پر ہو گا اس لئے میری ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے آپ اچھی طرح سوچ لیجئے۔ ممکن ہے کہ آپ رات کے وقت الحمرائے میں ایک چور دروازے سے داخل ہوں اور صبح کے وقت آپ کے ساتھیوں کے لئے غرناطہ کے تمام دروازے کھل جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں بھی کسی ایسے تاریک گوشے میں پھینک دیا جاؤں جہاں سے ہمیں دوبارہ نکلنا نصیب نہ ہو اور ہمارے ساتھ غرناطہ کا مستقبل بھی دفن ہو جائے۔ میرا ایلچی اگر آپ کے پاس یہ طویل مراسلہ پہنچا دے تو یہ ضروری ہے کہ جب تک یہ کام پورا نہ ہو جائے آپ اُسے غرناطہ نہ بھیجیں اور آپ کے آدمی اُسے ایک معزز مہمان کی حیثیت میں اپنے پاس رکھیں۔ مجھے اس کی نیک نیتی پر بھروسہ ہے لیکن احتیاط ضروری ہے۔ فرٹینڈ کے جاسوس آپ کو پکڑوانے والے آدمی کو سونے میں تولنے کے لئے تیار ہوں گے۔“

”ابوداؤد“

دوبارہ خط پڑھنے کے بعد بدر بن مغیرہ کمرے میں ایلچی کی موجودگی کا احساس کئے بغیر اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ خط کے الفاظ مختلف معانی کے ساتھ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ وہ تصویر میں الحمرائے کی چار دیواری دیکھ رہا تھا۔ اندھیری رات میں ایک درتکے سے داخل ہونے کے بعد وہ ربیعہ کے سامنے کھڑا تھا اور محبت کے آنسوؤں میں بھیگی ہوئی مسکراہٹیں اس کا

خیرت مند کر رہی تھیں۔ ربیعہ! میری ربیعہ! اس نے اپنے دل میں لطیف اور خوش گواردھڑکیا
 محسوس کیا۔ اسے ابو عبداللہ کے ناپاک ارادوں سے خدشہ ہے۔ اس کا خون کھونٹے لگا اور
 "دو عبداللہ کی طرف سے شادی کا پیغام لانے والی لونڈی کے بال نوچنے کے لئے تیار تھی" وہ
 مسکایا ہوا تھا۔

لیکن تھوڑی دیر بعد یہ لطیف جذبات بلند منصوبوں میں دب کر رہ گئے۔ وہ اپنی مہم کے
 تمام پہلوؤں پر غور کرنے لگا۔ الحرام میں ابو داؤد کی موجودگی کے باوجود ابو عبداللہ کی بغاوت سے
 اس کے دل میں ابو داؤد کے متعلق جو شکوک پیدا ہوئے تھے وہ اس نخط کو پڑھنے کے بعد
 دور ہو چکے تھے۔ "میں آپ کو ایک خطرناک مہم پر بلا رہا ہوں اور کامیابی کا پورا یقین بھی
 نہیں دلا سکتا۔ الحرام کے قریب پہنچنے کے بعد آپ کا ہر قدم زندگی اور موت کے درمیان ایک
 تنگ اور تاریک راستے پر ہوگا اس لئے میری ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ
 لیجئے۔" ابو داؤد کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔

"میں ضرور جاؤں گا۔" اس کا آخری فیصلہ تھا۔

(۲)

رات کے وقت موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ ابو داؤد اپنے مکان کے اس کمرہ میں جس
 کا دریچہ دریا کی طرف کھلتا تھا بیقراری کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ ایک جیشی غلام کمرے کے ایک
 کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے کی دیوار کے ساتھ ایک گھنٹی لٹک رہی تھی۔ ابو داؤد مایوس سا
 ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ شاید آج نہ آئے۔ "اُس نے جیشی غلام کی طرف دیکھتے ہوئے
 کہا۔"

جیشی نے جواب دیا۔ "ایسے طوفان میں دریا عبور کرنا آسان نہیں۔"

تھوڑی دیر دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ اچانک

دیوار کی گھنٹی کے ساتھ بندھی ہوئی رسی کو جنبش ہوئی اور گھنٹی بجنے لگی۔

ابو داؤد نے کہا: "وہ آگیا۔"

غلام نے جلدی سے اٹھ کر رسیوں کی میسرھی نیچے لٹکادی اور تھوڑی دیر بعد میسرھی کے نچلے سرے پر بوجھ محسوس کرتے ہوئے بولا: "وہ اوپر چڑھ رہا ہے۔" چند لمحات اور گزر جانے کے بعد وہ بولا: "میرا خیال ہے کہ اب وہ نصف سے زیادہ بلندی پر آگیا ہوگا۔ اگر اب رسی کاٹ دی جاتے تو ہم اُسے کسی اور طریقہ سے قتل کرنے کی تکلیف سے بچ جائیں گے۔"

"آہستہ بولو۔ وہ ہم سے زیادہ ہوشیار ہے۔ اس نے خود اوپر آنے سے پہلے کسی

اور کو اوپر بھیجا ہوگا۔"

جلسی نے دبی ہوئی آواز میں کہا: "تاہم جب وہ قریب آجائے گا تو آپ اس کی آواز سے اُسے پہچان سکیں گے اور میری تلوار آپ کے اشارے کی منتظر رہے گی۔"

ابو داؤد نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی اور درپے سے سر نکال کر باہر جھانکنے لگا۔ بجلی چمکی اور اسے چند گز کے فاصلے پر ایک نقاب پوش میسرھی پر چڑھتا ہوا دکھائی دیا۔

اس نے آہستہ سے کہا: "خدا کا شکر ہے کہ آپ آگئے۔"

نقاب پوش نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ابو داؤد نے قدرے تامل کے بعد پھر کہا: "آپ تنہا ہیں یا نیچے کوئی اور بھی ہے؟"

نقاب پوش نے آضری دو تین قدم جلدی جلدی اٹھانے کے بعد درپے میں اندر داخل ہو کر اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا: "تاریکی میں مجھے محل کا یہ کونا تلاش کرتے ہوئے دیر ہوگئی۔ دریا کا پانی بہت تیز تھا۔"

ابو داؤد نے کہا: "آپ سردی سے آٹے ہیں چلئے دوسرے کمرے میں کپڑے بدل لیجئے۔"

بدر بن مغیرہ نے نقاب اُتارتے ہوئے کہا: "میں ایسے موسم میں پھرنے کا عادی ہوں۔"
 ابو داؤد نے کہا: "مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔"

"آپ نے مجھے فرض کی طرف بلایا تھا۔"

"آئیے یہاں کھڑا رہنا مناسب نہیں۔"

بدر بن مغیرہ ابو داؤد کے ساتھ ایک کسادہ کمرے میں داخل ہوا جو نہایت قیمتی قالینوں اور کرسیوں سے مزین تھا۔ ابو داؤد نے بدر بن مغیرہ کو ایک کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا ابو عبد اللہ اور آپ کے کمرے میں میرے ایک نوکر کے ساتھ شطرنج کھیل رہا ہے۔ آپ بہت دیر سے پہنچے لیکن یہ خوش قسمتی ہے کہ شطرنج کے شوق نے اُسے گھر جانے سے روک رکھا ہے۔ وہ نوکر قابل اعتماد نہیں لیکن اُس میں یہ خوبی ہے کہ وہ ابو عبد اللہ کو صبح تک شطرنج میں مصروف رکھ سکتا ہے۔ محل سرا والوں کو یہ اطلاع پہنچ چکی ہے کہ وہ شطرنج کھیلنے میں مصروف ہے، اس لئے اگر وہ صبح تک بھی یہاں بیٹھا رہے تو کوئی اُسے بلانے نہیں آئے گا۔ آپ یہاں بیٹھیں میں کسی بہانے اس نوکر سے نجات حاصل کرنے کے بعد آپ کو اوپر بلا لوں گا۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ کے برابر والے کمرے میں وہ چار حبشی جلاذ موجود ہوں گے جنہیں بروقت بلایا جاسکتا ہے۔ میں جاتا ہوں۔ آپ اطمینان سے بیٹھیں یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔

(۳)

ابو داؤد کمرے سے باہر نکل گیا اور بدر بن مغیرہ کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اُسے ایک طرف سے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ اُس نے مڑ کر دیکھا اور اضطراری حالت میں اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ربیعہ اس کے سامنے کھڑی تھی اور مہربت ہو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔

”رمیو! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔

اور وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی: ”آپ۔۔۔۔ آپ یہاں کیوں آئے؟“
 بدر بن مغیرہ اس کی پریشانی کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا: ”کیا
 آپ کو میرا یہاں آنا ناگوار گزرا ہے؟“

وہ بے اختیار ہنسی بھری آواز میں بولی: ”میں ہر رات ایسے خواب کی تمنا کیا کرتی تھی
 لیکن کاش یہ ایک خواب ہوتا مگر یہ کسی ناخوشگوار خواب کی تعبیر ہے۔ ایک ہولناک تعبیر
 ہے۔ آپ یہاں سے نکل جائیے، خدا کے لئے۔“

بدر بن مغیرہ نے پریشانی کے باوجود مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا: ”یہاں
 مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں تمہارے باپ کی دعوت پر یہاں آیا ہوں“
 ”میں جانتی ہوں۔“ رنجلا نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ آپ ایک خطرناک سازش
 کا شکار ہو چکے ہیں۔ ابھی وقت ہے خدا کے لئے جلدی کیجئے!“

بدر بن مغیرہ نے کہا: ”کیا ابو عبد اللہ اس وقت اُدپر کے کمرے میں نہیں؟“
 ”یہ سب بھوٹ ہے۔ میں دوسرے کمرے میں دروازے کے ساتھ لگا کر ساری باتیں
 سن چکی ہوں۔ اگر اس کمرے کے دروازے اندر سے بند نہ ہوتے تو میں جان پر کھیل کر بھی آپ
 کو خطرے سے آگاہ کر دیتی۔“

”لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ تمہارا باپ۔۔۔۔۔“

”آپ میرے باپ کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتے۔ آپ کو یاد نہیں جب ہم آپ کے
 پاس سرحدی قلعے میں ٹھہرے ہوئے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے ایک خواب
 دیکھا تھا کہ نصرائیوں نے آپ پر حملہ کر دیا ہے۔“
 ”مجھے یاد ہے۔“

”وہ میرا خواب نہیں تھا۔ مجھے اپنے باپ کی سازش کا علم ہو چکا تھا اور اب اینجلا

نے مجھے اس سازش سے باخبر کیا ہے۔“

بلد بن مغیرہ نے اپنے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا: ”اگر یہ سازش ہے تو اس قدر مکمل ہوگی کہ اب بھاگنے کی کوشش بے سود ہے۔ وہاں سے رسیوں کی ٹیڑھی ہی غائب نہیں ہوگی بلکہ چار دیواری کے نیچے ان کے آدمی پہنچ چکے ہوں گے۔ لیکن ربیعہ! قدرت کو اگر مجھ سے کوئی کام لینا مقصود ہے تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔“

”وہ آپ کے خون کے پیا سے ہیں۔“ ربیعہ نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا۔

”مردہ تو میں شہیدوں کے خون کے بغیر زندہ نہیں ہوا کرتی۔ لیکن ربیعہ! بھلا شاید بہت تھوڑا وقت باقی ہو۔ میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔“

دُور سے چند آدمیوں کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ ربیعہ نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور پچکیاں لیتے ہوئے بولی: ”بہت کچھ کہنے کا وقت نہیں۔ صرف اتنا کہ دیجئے کہ ”ربیعہ تم میری ہو اور میں تم سے نفرت نہیں کرتا۔ نہیں، نہیں مجھے جدا نہ کیجئے انہیں دیکھ لینے دیجئے۔ وہ شاید ابو عبداللہ کو ساتھ لے کر آرہے ہیں۔ ابو عبداللہ کو دیکھ لینے دیجئے کہ وہ جس کے لئے میں نے غزناطہ کی ملکہ کا تاج ٹھکرایا ہے کون ہے۔ بدر! میرے بدر! میرے آقا اگر یہ وقت نہ آتا تو میں شاید عمر بھر تمہیں یہ بتانے کی جرأت نہ کرتی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ زندہ رہنے کی تمنا کرنا میرے تخیل سے بلند تھا لیکن موت میں تمہارا ساتھ دینے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔“

”ربیعہ! میں تمہیں اپنی زندگی سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ خدا کے لئے جاؤ وہ آ رہے ہیں۔ تمہیں یہاں دیکھ کر وہ کیا کہیں گے۔“

”وہ یہ کہیں گے کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور میں اُن سے یہ کہوں گی کہ اندلس میں باہن مغیرہ کے سوا وہ کون ہے جس کی تلوار ہسپانیہ کی منطلوم اور بے کس لڑکیوں کی عصمت کی حفاظت کے لئے بلند ہوتی ہے۔ وہ کون ہے جس کی نگاہ میں فرشتوں کی سی

پاکیزگی ہے۔“

مکرے کا دروازہ کھلا اور ابو داؤد اور عبداللہ کے ساتھ آٹھ دس آدمی نیزے تانے اندر داخل ہوئے۔ ربیعہ کو وہاں دیکھ کر ابو داؤد نے پریشان سا ہو کر کہا: ربیعہ! تم یہاں کیوں کھڑی ہو۔ جاؤ اپنے مکرے میں۔“

ربیعہ ایک قدم آگے بڑھی اور اپنے باپ کی طرف دیکھ کر غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں بولی: ”کھٹے اپنے ان کے لئے کیا سزا تجویز کی ہے۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ اگر یہ غرناطہ کے متعلق نیک خواہشات رکھنے کے مجرم ہیں تو میں بھی مجرم ہوں۔“

ابو داؤد نے کھسیانہ ہو کر کہا: ”ربیعہ کو کبھی کبھی دماغی بیماری کا دورہ پڑا کرتا ہے ہوش میں آنے کے بعد اُسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ جنون کی حالت میں کیا کچھ کہ چکی ہے۔“

ربیعہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ابو داؤد نے آگے بڑھ کر اُسے بازو سے پکڑ لیا اور کھینچا ہوا دوسرے مکرے میں لے گیا۔

ابو عبداللہ کچھ دیر پریشانی کی حالت میں بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اُس نے سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ نیزے تان کر نصف دائرے کی شکل میں اس کی طرف بڑھنے لگے۔ بدر بن مغیرہ نے جلدی سے اپنی تلوار نکالی اور اسے عبداللہ کی طرف پھینکتے ہوئے کہا: ”ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لئے آپ کو اتنے آدمی لانے کی ضرورت نہ تھی۔“

ابو عبداللہ کے اشارے پر ایک سپاہی نے تلوار اٹھالی اور وہ مطمئن ہو کر آگے بڑھا اور بولا: ”مجھے اُمید نہ تھی کہ تم الحرام میں داخل ہونے کے لئے اس قدر احمقانہ جرات کا مظاہرہ کرو گے۔“

بدر بن مغیرہ نے جواب دیا: ”اگر قصر الحرام میں عقل سے مراد فریب، دھوکا اور بزدلی ہے تو مجھے اپنی حماقت کا افسوس نہیں ہونا چاہیے۔“

ابو عبداللہ نے لاجواب سا ہو کر کہا: ”میرے خیال میں ایسی باتیں کرنے کے لئے یہ جگہ موزوں نہیں۔ محل کے ایک کمرہ میں جو تمہاری شان کے شایاں ہے بہت سے لوگ تمہارا

انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنی بھلائی کے لئے میرے سپاہیوں کے حکم کی تعمیل کرو گے۔“

ابو عبد اللہ باہر نکل گیا اور سپاہیوں نے بدر بن مغیرہ کو ایک تنگ گھیرے میں لے لیا۔ ایک سپاہی ہتھکڑیاں لے کر آگے بڑھا اور بدر بن مغیرہ نے کسی تذبذب کے بغیر اپنے ہاتھ آگے کر دیئے۔

بدر بن مغیرہ سپاہیوں کی کڑی نگرانی اور قیدیوں کی روشنی میں مختلف برآمدوں میں سے گزرتا ہوا دارالاسود میں داخل ہوا۔ راستے میں ہر قدم پر چمکتی ہوئی تلواروں کا پہرہ دیکھ کر اس نے محسوس کیا کہ بھاگنے کی کوشش نہ کرنے کے متعلق اس کا فیصلہ صحیح تھا۔

(۴)

”مجھے چھوڑ دو۔ مجھے چھوڑ دو۔“ ربیعہ نے ابو داؤد کی آہستہ گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

ابو داؤد نے اسے دھکا دے کر بستر پر پھینکتے ہوئے کہا: ”پگلی لڑکی اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو میرے سفید بالوں کا ہی لحاظ کرو۔ تم نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں غرناطہ کے ذلیل ترین آدمی کے سامنے بھی آتکھ اٹھا سکوں۔“

ربیعہ نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور اٹھ کر بے اختیار اس کے پاؤں پر گرتے ہوئے چلائی: ”خدا کے لئے اس کی جان بچا لے۔ اگر میرے لئے نہیں تو غرناطہ کے لئے۔ اپنی بیٹی کے لئے نہیں تو اندلس کی لاکھوں منگولوں کے لئے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی اس کا نام نہ لوں گی۔ ورنہ میں آگ میں جل جاؤں گی۔ الجبرار کے سب سے اونچے بڑج پر چڑھ کر پھلانگ لگا دوں گی۔“

ابو داؤد اپنے سینے میں پتھر کا دل رکھتا تھا لیکن اس میں انسانیت کی ایک چمکری

روشن تھی اور وہ اپنے ارادوں کے باوجود اس چنگاری کو مسل نہ سکا۔ اس کے دل میں انسانیت کے لطیف نغمے پیدا کرنے والے تمام تار ٹوٹ چکے تھے لیکن ایک تار ابھی تک باقی تھا۔ وہ تار جس میں ربیعہ کے آنسو اور تعاشس پیدا کر سکتے تھے، دنیا کے لئے وہ سفاک انسان تھا۔ ایک ایسا بے رحم انسان تھا جو اپنی معمولی سی خواہش کی تکمیل کے لئے کسی بچکچا ہٹ کے بغیر ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا لیکن ربیعہ کے لئے وہ ایک باپ تھا۔ اپنی تمام بُری خصلتوں کے باوجود وہ اپنے دل میں انسانیت کی اس سُلگتی ہوئی چنگاری کو مسل نہ سکا جسے ربیعہ کی معصوم مسکراہٹوں نے روشن کیا تھا۔

ابو داؤد نے ربیعہ کو دوبارہ دھکا دینے کے لئے ہاتھ اٹھائے لیکن وہ تہنقبت پداری کے ان ستہری تاروں میں الجھ کر رہ گئے جنہیں توڑ ڈالنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ ربیعہ کے آنسو اس کے پاؤں پر گرے۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کی ٹانگوں سے بُری طرح چپٹی ہوئی تھی۔ اس نے نیچے جھک کر اُس کے سر پر ہاتھ رکھ دئے اور پھر اُسے بازوؤں سے پکڑ کر اوپر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔

باپ اور بیٹی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک لمحہ کے لئے ابو داؤد نے محسوس کیا کہ ربیعہ کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسوؤں کے سامنے اس کی زندگی کی ہر خواہش بے حقیقت ہے۔ اس نے مغموں لہجے میں کہا: ربیعہ! کاش مجھے معلوم ہوتا کہ اس کے لئے تمہاری دیوانگی اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ میں اُسے بچانے کی کوشش کروں گا لیکن.....“

ربیعہ نے سر ایا التجابن کر کہا: "ابا جان! آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کی موت غرناطہ کی تباہی کا پیش خیمہ ہوگی۔"

"مجھے غرناطہ کی پروا نہیں۔ میں فقط تمہارے آنسوؤں کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں۔"

ابو داؤد یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک الماری کھول کر اس نے ایک شیشی نکالی

اور دو اکبر جند قطر سے ایک پیالی میں ڈال کر ربیعہ کے پاس آکھڑا ہوا اور بولا۔ "لو یہ پی کر لیٹ جاؤ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔"

ربیعہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے پیالی ہاتھ میں لے کر باپ کی طرف دیکھا اور کہا۔ اگر اس کے لئے بھی آپ نے اسی قسم کا زہر تجویز کیا ہے تو میں اسے خوشی کے ساتھ قبول کرتی ہوں لیکن کاش آپ اپنے مجروح احساسات کی تسکین کے لئے میری موت کافی سمجھتے اور اندلس کے مسلمانوں سے ان کا آخری سہارا نہ چھینتے۔"

ربیعہ نے پیالی اپنے ہونٹوں کے قریب لے جا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اچانک ساتھ والے کمرے سے اینجلا نمودار ہوئی اور اس نے چلا کر کہا۔ "ربیعہ خدا کے لئے اسے مت پینا۔" اس نے بھاگ کر ربیعہ کے ہاتھ سے پیالی چھیننے کی کوشش کی لیکن ربیعہ نے فوراً ایک گھونٹ پینے کے بعد پیالی فرش پر پھینک دی۔ ابو داؤد کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اینجلا مبہوت اپنی سوتیلی بہن کی طرف دیکھ رہی تھی اور ربیعہ ایک فاتحانہ انداز میں ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔

"ربیعہ! تم نے کیا کیا؟ اینجلا یہ کہہ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی اور اپنے باپ کی طرف دیکھ کر کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس زہر کی ایک پیالی مجھے بھی لاد دیجئے۔ ہم دونوں نے ایک ہی سانپ کے گھر میں جنم لیا ہے، ہمارا انجام بھی ایک ہی جیسا ہونا چاہیے۔"

"تم دونوں پاگل ہو گئی ہو۔ میں نے ربیعہ کو خواب آور دوائی دی ہے جب تک میری کوششوں کا کوئی خوش گوار نتیجہ نہیں نکلتا ربیعہ کا ہوش میں رہنا اس کے لئے تکلیف دہ ہوگا۔" یہ کہتے ہوئے ابو داؤد نے ربیعہ کو بازو سے پکڑ کر بستر پر بٹھا دیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ ابھی وہ دس قدم سے زیادہ دُور نہیں گیا تھا کہ اینجلا نے بھاگ کر پیچھے سے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا۔ "ابا جان! اسے ضرور پچائیے۔ ربیعہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہے گی۔" ابو داؤد نے منموم بے میں کہا۔ "اینجلا میں اپنے ہاتھ سے بھیرے ہوئے کانٹے سمیٹنے

جا رہا ہوں۔ ڈر ہے کہ حصول مقصد کی بجائے میرے اپنے ہاتھ زخمی نہ ہو جائیں۔ جب تک ربیعہ کو نیند نہ آجائے تم اسے تسلی دیتی رہو کہ وہ بچ جائے گا۔
 "لیکن میں صرف یہ جانا چاہتی ہوں کہ آپ اُسے بچانے میں اپنی تمام طاقت صرف کر دیں گے۔"

ابو داؤد نے بگڑ کر کہا۔ "اینجلا جاؤ، مجھے پریشان نہ کرو۔ تم ربیعہ کی سن ہو لیکن میں اس کا باپ ہوں۔"

اینجلا ربیعہ کے کمرے کی طرف لوٹ آئی۔ وہ بار بار اپنے دل میں کہہ رہی تھی۔ "کاش! تم ایک باپ ہوتے۔"

وہ ربیعہ کے بستر پر اس کے ساتھ لیٹ کر بیٹھ گئی۔ ربیعہ کی آنکھوں پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ اُس نے اونگھتے اونگھتے اپنا سر اینجلا کی گود میں رکھ دیا اور بولی۔ "اینجلا! اگر انہیں بچانے کی کوئی امید ہوتی تو مجھے بے ہوشی کی دوا نہ دی جاتی۔"

اینجلا نے اُسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ "مجھے یقین ہے کہ وہ سرحدی عقاب کے متعلق فیصلہ کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچیں گے۔ ابو عبد اللہ کو یقیناً اس بات کا احساس ہو گا کہ اس کے سپاہی غرناطہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔"

"اگر ابو عبد اللہ کو یہ احساس ہوتا تو وہ اپنے باپ کے خلاف بغاوت ہی کیوں کرتا۔ اسے یہ معلوم ہے کہ وہ بدترین اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی غرناطہ کو تخت و تاج کرنا گوارا نہیں کریں گے۔"

"لیکن غرناطہ کے عوام سرحدی عقاب کے نام پر جان دیتے ہیں۔ وہ معمولی سی سختی بھی برداشت نہیں کریں گے۔"

ربیعہ نے کہا۔ "تم نادان ہو۔ عوام کی نگاہوں کے سامنے الحمرارہ کی بلند دیواریں حائل ہیں۔ الحمرارہ کے راز الحمرارہ میں ہی دفن رہیں گے۔"

” تاہم مجھے یقین ہے کہ اسرار اپنی جان کے خوف سرحدی عقاب کے خلاف ابو عبد اللہ کے بڑے ارادوں کی مخالفت کریں گے۔“

” نہیں بلکہ زیادہ احتمال اس بات کا ہے کہ ابو عبد اللہ اپنی جان کے خوف سے اُن ملت فروشوں کی خواہشات کی تکمیل کرے گا جو فرٹینڈ کے ساتھ غرناطہ کا سودا کر چکے ہیں۔ فرٹینڈ کو غرناطہ پر حملہ آور ہونے سے اگر کوئی بات روکے ہوئے ہے تو وہ سرحدی عقاب کا خوف ہے۔ اس کے قتل کے بعد غداروں کو اس بات کا اطمینان ہوگا کہ انہیں اس کے ساتھیوں کے انتقام سے بچانے کے لئے فرٹینڈ کی فوجیں پہنچ جائیں گی۔“

اینجلا نے مایوس ہو کر کہا۔ ” ربیعہ! ابا جان یقیناً اسے بچالیں گے لیکن فرض کرو ان کی کوشش بھی کامیاب نہیں ہوتی تو ہمیں کیا کرنا چاہیئے؟“

ربیعہ نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ” اینجلا میں مایوس نہیں۔ میں ایک ایسی ذات پر ایمان رکھتی ہوں جس نے ابراہیم کو آگ سے نکالا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس وقت حرمِ سدا تک پہنچ سکیں۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ملکہ اور ابو عبد اللہ کی بیوی ہماری مدد کریں گی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ اُن کی قدر کرتی ہیں۔ میں حیران ہوں کہ میں نے پہلے یہ کیوں نہ سوچا۔“

اینجلا نے کہا۔ ” محلِ سرا کا پھاٹک اس وقت بند ہوگا لیکن چونکہ ابو عبد اللہ اس وقت اپنے دربار میں ہے اس لئے سپردار اور خواجہ سرا اس کے انتظار میں جاگ رہے ہوں گے۔ میرا ہار بند دروازوں کو کھلوانے کے لئے کافی ہوگا اور الحرام میں سرحدی عقاب کے داخل ہونے کی خبر ایسی نہیں کہ ملکہ اور چھوٹی بیگم بے وقت جگائے جانے پر برہم ہوں۔ چلو! یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ امی جان گہری نیند میں خراٹے رہی ہیں۔“

ربیعہ نے بستر سے اٹھ کر اینجلا کے ساتھ دو تین قدم اٹھائے لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی۔ وہ ڈمگمگا کر گرنے کو تھی کہ اینجلا نے اسے سہارا دے کر بستر پر

لٹا دیا اور بولی :-

”تم پر دوا کا اثر ہو چکا ہے۔ میں جاتی ہوں۔ تم میری کامیابی کے لئے دعا کرو“

رہیو نے نیم خوابی کی حالت میں اپنا ہارا تار کر اینجلا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

”یہ بھی لے جاؤ“

مجاہد اور عذار

(۱)

ابو داؤد مختلف خیالات کی کش مکش میں الحرام کے اس ایوان کی طرف جا رہا تھا جہاں
اس کے خیال کے مطابق بدر بن مغیرہ اور اس کے ساتھ ہی عن رناطہ کی قسمت کا فیصلہ
ہونے والا تھا۔

وہ راستے میں چلتے چلتے رک جاتا اور کسی فیصلہ پر پہنچے بغیر آگے چل دیتا۔ زندگی
میں پہلی بار وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی قوت برداشت جواب دے چکی ہے۔ ایک ساعت
قبل وہ اپنے عروج کی آخری بلندی تک پہنچنے کے لئے تمام راستے صاف کر چکا تھا۔ بدر
بن مغیرہ کو دام فریب میں لانا اس کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ اس کے عوض
میں وہ فرط غنڈ سے بڑے سے بڑا انعام مانگ سکتا تھا۔ وہ اس کی فوج کے لئے عن رناطہ
کا راستہ صاف کر چکا تھا۔ جب چند دن قبل اس نے ابو عبد اللہ کو یہ یقین دلایا تھا کہ میں
عنقریب سرحدی عقاب کو پابہ زنجیر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا تو اس نے یہ کہا تھا
کہ مجھے اگر آپ ہوا میں اڑ کر بھی دکھائیں تو مجھے بھی اس وعدے پر یقین نہیں آئے گا لیکن

آج اس نے ابو عبد اللہ اور اس کے تمام ساتھیوں کو اپنی عظمت کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج سے اسے یقین تھا کہ ابو عبد اللہ اور اس کے ساتھی اُس کے ہاتھ میں کٹھ پتلیاں ہوں گے اور غرناطہ کے تخت و تاج پر قبضہ کرنے کے متعلق اس کے خوابوں کی تعبیر کا وقت آچکا ہے۔ ابو عبد اللہ اس کی بساطِ سیاست کا ایک ایسا مہرہ تھا جسے وہ ضرورت کے وقت اپنی جگہ سے ہٹا سکتا تھا۔ اسے مائعہ پر حملہ کرنے کی ترغیب دے کر وہ فرطِ غیب کو کھلے دروازوں غرناطہ میں داخل ہونے کا موقع دے سکتا تھا۔

لیکن ربیعہ کا خیال آتے ہی وہ خیالات کی ایک اور رو میں بہنے لگا۔ کیا میری تمام کوششیں ربیعہ اور اینجلا کو دیا بھر میں معزز ترین خواتین بنانے کے لئے نہیں؟ ربیعہ بگلی اس کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ کیا وہ اس کی موت کا صدمہ برداشت کر سکے گی؟ کیا ربیعہ کو ہمیشہ کے لئے منعموم بنا کر میں غرناطہ کا سلطان بننے کے باوجود بھی خوش رہ سکوں گا۔؟ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ سرحدی عقاب کی جان بچائی جاسکے؟ کوئی ایسی صورت جس سے میرا مستقبل خطرے میں نہ پڑے؟

اس کے دماغ میں ان سوالات کا جواب "نہیں" کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج رات بدر بن مغیرہ کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ اپنی اُمیدوں کے تمام قلعے مسمار کئے بغیر اس کی حمایت میں کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ اُس نے سوچا "اگر میں اُسے بچانے کی کوشش میں کامیاب بھی ہو جاؤں تو بھی میرے لئے اس کے دل میں جو نفرت پیدا ہو چکی ہے وہ دُور نہیں ہو سکے گی۔ وہ ربیعہ کا خاوند بن کر بھی میری ہر خواہش کی مخالفت کرے گا۔ وہ میرے راستے میں ایک ایسی چٹان ہو گا جسے توڑے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ ربیعہ اس کی رفیقہ حیات بن کر مجھ سے روز بروز دُور ہوتی جائے گی اور ہمارے درمیان ایک ایسی خلیج حائل ہو جائے گی جسے پائنا ناممکن ہو گا۔ ربیعہ کو خوش کرنے کے لئے اس کی جان بچانے کے بعد میرے لئے ایک ہی راستہ ہو گا اور وہ یہ کہ میں اپنی زندگی کی تمام خواہشات

سے دست بردار ہو کر کہیں روپوش ہو جاؤں۔ نہیں، نہیں مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا۔ آخر میں ربیعہ کے متعلق اس قدر پریشان کیوں ہوں؟ اُسے چند دن کے لئے صدمہ ہو گا میں اسے سمجھا سکوں گا۔ جب ہسپانیہ میں فریڈینڈ کے سوا کوئی میرا برا مقابل نہ ہو گا، جب سلاطین اور بادشاہ میرے دسترخوان پر بیٹھنے میں فخر محسوس کریں گے اور جب ربیعہ کسی بادشاہ کی ملکہ کی حیثیت میں تخت پر رونق افروز ہوگی تو وہ یہ یقیناً محسوس کرے گی کہ اُس کا باپ اس کا دشمن نہ تھا؟

(۲)

دربار کے تمام دروازوں پر پہرے دار کھڑے تھے۔ محل کے داروغہ نے ابو داؤد کا خیر مقدم کیا اور اس کے لئے دروازہ کھل دیا۔ ابو داؤد کو دیکھتے ہی حاضرینِ دربار تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے ان کے خیر مقدم کا جواب دیتا ہوا آگے بڑھا اور تخت کے قریب پہنچ کر ابو عبد اللہ کو جھک کر سلام کرنے کے بعد ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔

امراء کی کرسیوں کی دو قطاروں کے درمیان تخت کے سامنے بدر بن مغیرہ کھڑا تھا۔

اُس کے ہاتھوں میں ہتھ کرطیاں تھیں اور اس کا چہرہ غصے سے تمسار ہا تھا۔

دینی زبان میں اپنے قریب بیٹھے ہوئے سردار سے سوال کرنے پر ابو داؤد کو معلوم ہوا کہ وہ اپنا بیان ختم کر چکا ہے۔ سردار نے اُسے یہ بھی بتایا کہ اس کے الفاظ ہر شخص کے لئے ناقابلِ برداشت تھے۔ وہ ابو عبد اللہ کے متعلق یہ کہہ چکا تھا کہ تم بدطینت بھی ہو اور بیوقوف بھی اور دونوں صورتوں میں میں تمہیں قابلِ رحم سمجھتا ہوں۔

کچھ دیر دربار میں امراء اور علماء ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے رہے اور ابو عبد اللہ

غصہ، حیرت، پریشانی اور تذبذب کی حالت میں بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر وہ

بولتا: "ہم تمہیں ایک بار پھر موقع دیتے ہیں کہ اگر تم ہماری حکمرانی تسلیم کر لو تو تمہیں کچھ عرصہ نظر بند

رکھنے کے بعد رہا کر دیا جائے گا۔"

بدر بن مغیرہ نے جواب دیا۔ " میں اس کا جواب دے چکا ہوں۔ میں بزدلوں سے زندگی کی بھیک نہیں مانگتا۔ میں اس شخص کی حکومت تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں جو اللہ کا باغی ہے، جو قوم کا غدار ہے، جو اپنے باپ کا دشمن ہے۔ " بدر بن مغیرہ کی نگاہ ابوداؤد پر پڑی اور اس نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے کہا:

" ابو عبد اللہ! تم نے اپنی آستین میں سانپ پال رکھے ہیں اور —

تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صرف تمہارے دشمنوں کو ڈستے رہیں گے لیکن تم سانپوں کی فطرت سے واقف نہیں۔ وہ کسی کے دوست نہیں ہوتے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کا مجرم ہوں لیکن مجھے قسم ہے اس تلوار کی جو بارہا دشمنانِ اسلام کے خون میں نہا چکی ہے کہ اگر میرے دل میں تمہارے ساتھ لڑنے کی خواہش ہوتی تو انحرار کی دیواریں میرے سپاہیوں کا راستہ نہ روک سکتی تھیں۔ میں تمہیں مختلف حیلوں سے راہِ راست پر لانا چاہتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے ایک ساتھی کی دعوت پر تمہارے محل میں اکیلا چلا آیا ہوں۔ تم میرے متعلق جو فیصلہ چاہو صادر کر سکتے ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی مجرم ہوں اور تمہیں اپنا قاضی تسلیم کرنا ہوں۔ میں نے تمہارے باپ کو بھی اس لئے اپنا امیر تسلیم نہیں کیا تھا کہ وہ غرناطہ کا سلطان ہے اور وہ سنگِ مرمر کی عمارتوں میں زندگی گزار کر سیوں پر بیٹھتا ہے بلکہ اس لئے کہ اس نے اسلام کے بدترین دشمنوں کے خلاف اعلانِ جہاد کیا تھا اور تم تو فریضہٴ جہاد کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہو۔ تمہارے ذہن میں یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ "

ابوداؤد نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے سردار کے کان میں کچھ کہا اور وہ اٹھ کر بولا۔

" سلطان معظم اب تک مجرم جو کچھ کہہ چکا ہے وہ اس سے اپنی ذات کو بدترین سزا کا مستحق

ثابت کر چکا ہے، اس لئے ہماری درخواست ہے کہ اسے سزا کا حکم سنا کر دربارِ برخواست کیا جائے۔ آپ کے جانثاروں کے لئے مجرم کا یہ گستاخانہ طرزِ کلام ناقابلِ برداشت ہے۔
باقی سردار اور علمائے بعدِ دیگرے اٹھ کر اس کی تائید کرنے لگے۔

بدر بن مغیرہ نے کہا: "بد نصیب ہے وہ شخص جو ایسے لوگوں کو اپنا جاں نثار سمجھتا ہو۔
ابو عبد اللہ! یہ قوم کی لاش پر پلنے والے گدھ ہیں۔ تم ان کی اعانت پر بھروسہ کر کے اپنے ساتھ
غزناطہ کو بھی تباہی کی طرف دھکیل رہے ہو۔"

ابو عبد اللہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا: "میں بدر بن مغیرہ کو سلطنت
غزناطہ کا بدترین دشمن ہونے کے جرم میں موت کی سزا دیتا ہوں۔ مجرم کو طلوعِ آفتاب سے
پہلے قتل کیا جائے۔"

بدر بن مغیرہ ایک چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ بیتِ الحرام کے اس مکرے میں آج تک
ایسا مجرم پیش نہیں ہوا تھا جس نے اس قدر دلنویس اور مرعوب کن تبسم کے ساتھ اپنے قتل کا
حکم سنا ہو۔ اس کی خاموشی زبانِ حال سے کہہ رہی تھی: "میں ہمیشہ موت کے ساتھ کھیلا ہوں۔
تم مجھے موت کے منہ میں دھکیل سکتے ہو لیکن مجھ سے میری مسکراہٹیں نہیں چھین سکتے۔
یہ تبسم جو میں نے تلواروں کی چھاؤں اور تیروں کی بارش میں سیکھا ہے آخری وقت تک تمہاری
بزودی، سفاکی اور مکاری کا مسخرہ اٹا رہے گا۔"

(۳)

ابو داؤد نے عزم و استقلال کے اس پیکرِ مجسم کی طرف دیکھا اور غزناطہ کا تخت و تاج
بے حقیقت نظر آنے لگا۔ اس نے اپنے دل میں سوال کیا: "کیا دنیا کی کوئی دولت ایک انسان
کو موت سے اس قدر بے نیاز کر سکتی ہے۔ آخر وہ کون سا جذبہ ہے جس سے سرشار ہو کر یہ
لوگ زندگی اور موت میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ یہ نوجوان جلاد کی تلوار کو اس قدر قریب

دیکھ کر مسکرا رہا ہے اور ربیعہ دو اکی پیالی زہر سمجھ کر پی گئی کتنی آخر کیوں؟ کیا اس لئے کہ یہ موت حیات کا راز سمجھ گئے ہیں یا اس لئے کہ وہ زندگی کی صحیح راحتوں سے آشنا نہیں ہوئے اور کیا زندگی کی کسی ایسی لذت کو راحت کہا جاسکتا ہے جس پر آکھوں پہر موت کا خوف سوار ہو۔ میں اندلس کے تخت پر قابض ہو سکتا ہوں لیکن کیا یہ کامیابی موت کے بھیانک چہرے کے سامنے مسکرا کر دکھادے گی؟ نہیں نہیں بلکہ ہر کامیابی کے بعد میرے لئے موت کا چہرہ بھیانک تر ہوتا چلا جائے گا۔

اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ محسوس کیا کہ "موت پر غالب آنا دنیا میں انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ اس کی سب سے بڑی فتح ہے اور یہ فتح صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی موت و حیات صرف خدا کے لئے ہے۔ بدر بن مغیرہ نے میری طرح اپنے لئے نہیں بلکہ صرف خدا کے لئے لڑنا سیکھا ہے۔ خدا اس کے لئے کسی موم طاقت کا نام نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ وہ حقیقت جس کا سہارا لے کر وہ موت کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ کاش! میں موت پر ایسی فتح حاصل کر سکتا" ابو داؤد کو اپنے خیالات کے تمام محل مٹی کے انبار نظر آنے لگے۔

ابو عبد اللہ اپنی مسند سے اٹھ کر عقبی کمرے میں چلا گیا۔ پریدار بدر بن مغیرہ کو باہر لے گئے اور سردار اور علمائیکے بعد دنگیزے آگے بڑھ کر ابو داؤد کو اس کی شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کرنے لگے لیکن وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک غلام نے آکر کہا کہ ابو عبد اللہ دوسرے کمرے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔

تھوڑی دیر بعد ابو داؤد ایک خوبصورت کمرے میں ابو عبد اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا بدر بن مغیرہ کے سامنے اسے اپنی کمتری کا جو احساس ہوا تھا وہ ابو عبد اللہ کی صحبت میں آہستہ آہستہ دور ہو رہا تھا۔ غرناطہ کا نام نہاد سلطان اُسے ایک مافوق القدرات انسان تسلیم کرتا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اُس نے آگے بڑھ کر ابو داؤد کے ساتھ

مصافحہ کرنے کے بعد جھک کر اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے وقت بھی ابو عبد اللہ کا ہنجر معمول سے کہیں زیادہ نیاز مند نہ تھا۔ جب ابو عبد اللہ نے چند بار یہ کہا کہ آج سے آپ کا ہر اشارہ میرے لئے ایک حکم ہوگا تو ابو داؤد کا احساس برتری بیدار ہونے لگا۔ اور وہ یہ سوچنے لگا کہ وہ دنیا جس میں تھوڑی دیر قبل میرے خیالات بھٹک رہے تھے فقط ایک مفروضہ تھی۔ اس کمرۂ زمین پر بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ابو عبد اللہ کی دنیا میں رہتے ہیں اور اس دنیا میں میں لاکھوں سے زیادہ ذہین اور عقل مند ہوں۔ میں ابو عبد اللہ جیسے لاکھوں انسانوں کو اپنے اشاروں پر نچا سکتا ہوں۔ میں اس دنیا میں اپنی کامیابی کے راستے صاف کر چکا ہوں۔ میں انہی راستوں پر چلتا ہوں گا اور ہر نئی کامیابی کے بعد میرا احترام کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا اور مرتے وقت مجھے یہ تلخ احساس نہیں ہوگا کہ میری زندگی کی کوئی محسرت پوری ہونے سے رہ گئی۔ مجھے بدر بن مغیرہ کے متعلق نہیں سوچنا چاہیئے اس کی دنیا میری دنیا سے مختلف ہے۔ مجھے اس کے متعلق سوچ کر پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ میری دنیا وہ ہے جہاں ابو عبد اللہ جیسے احمق بستے ہیں۔ میں ان میں سے لاکھوں کا راہنما اور حکمران بننے کے لئے پیدا ہوا ہوں۔ میں انسانوں کے ریوڑ ہانکنے کے لئے پیدا ہوا ہوں۔ ان خیالات میں اُسے ربیعہ کا خیال آیا اور اُسے یہ پریشانی ہونے لگی کہ جب وہ ہوش میں آئے گی تو میں اُسے کیا جواب دوں گا۔ ممکن ہے کہ احساسات کی شدت نے اُسے دوا کے اثر سے بے ہوش نہ ہونے دیا ہو۔ میں اسے کیا جواب دوں گا اور اینجلا بھی اس کا ساتھ دینے پر بے بند نظر آتی ہے۔ وہ دروازے پر میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ مجھے اپنی بہن کے لئے ہمدردی کے آنسوؤں سے پریشان کرے گی۔

ابو داؤد کی طرح ابو عبد اللہ کو بھی یہ پریشانی تھی کہ اگر یہ خبر حرم تک پہنچ گئی تو اس کی ماں اور بیوی جنہوں نے موسیٰ کے قید ہونے پر تین دن تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اُسے آڑے ہاتھوں لیں گی۔

اس نے ابو داؤد سے کہا: میں نے داروغہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اُسے قتل کرتے ہی مجھے اطلاع دے۔ میں اس کا ردوائی کے اختتام تک حرم میں داخل ہونا پسند نہیں کرتا:۔
 ابو داؤد نے کہا: آپ ربیعہ کے طرزِ عمل پر پریشان ہوں گے۔ مجھے اس سے یہ توقع نہ تھی لیکن وہ بہت زیادہ ذکی الحس ہے۔ وہ دوسرے کمرے میں جا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔
 مجھے یقین ہے کہ وہ اس وقت بھی ہوش میں نہ تھی۔

ابو عبداللہ نے کچھ سوچ کر کہا: آپ بُرا نہ مانئے۔ اگر اس نے عالمِ ہوش میں بھی یہ باتیں کی ہوں تو کم از کم مجھے کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ غرناطہ کی ہزاروں لڑکیاں اس کی شجاعت کے گن گاتی ہیں۔ آج میں اُس کی صورت دیکھ کر یہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر میں خود بھی ایک لڑکی ہوتا تو اس کی مردانہ اداؤں سے متاثر ہوتے بغیر نہ رہتا لیکن مجھے اُمید ہے کہ ربیعہ اُسے بہت جلد بھول جائے گی:۔

ابو داؤد نے موضوع بدلنے کے لئے کہا: داروغہ اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے سے پہلے نہیں آئے گا۔ کیا یہ بہتر نہ ہو گا کہ ہم اتنی دیر شطرنج سے دل بہلائیں:۔
 ابو عبداللہ بولا: آپ نے میرے دل کی بات کہی: لیکن ایک شرط ہے کہ رات کا باقی حصہ یہیں گزارا جائے:۔

ابو داؤد نے جواب دیا: میں دوپہر تک آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار ہوں:۔

(۴)

بدر بن مغیرہ کو نہایت پھپھیدہ اور زمین دوز راستوں سے گزار کر ایک ایسی کوٹھڑی میں پہنچایا گیا جس کا دروازہ صرف ایسے ہی موقعوں پر کھلتا تھا۔ ان آٹھ سپاہیوں کے علاوہ جو بدر بن مغیرہ کے ساتھ آ رہے تھے راستے میں جگہ جگہ پر سے دار کھڑے تھے۔ کوٹھڑی کے اندر مشعل جل رہی تھی اور جلاد اس کا منتظر کھڑا تھا۔ بدر بن مغیرہ کی طرف سے کسی مزاحمت کا سامنا کرنے بغیر

سپاہیوں نے اس کی کلاٹیاں ایک آہستی شکنجے میں کس دیں۔

سپاہی داروغہ کے اشارے سے باہر نکل گئے اور وہ دروازہ بند کر کے بدر بن مغیرہ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا۔ "یہ ایک رسمی بلیت ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے آپ کی موت سے زیادہ کسی کی موت کا افسوس نہیں ہوگا۔ اس لئے میں الحرام کے داروغہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ آپ کے ایک ہمدر کی حیثیت سے آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ موت سے پہلے آپ کسی ایسی خواہش کا اظہار کرنا چاہتے ہیں جسے پورا کرنا میرے بس میں ہو۔"

بدر بن مغیرہ نے جواب دیا۔ "میں جانتا ہوں کہ تم بے بس ہو۔ میری ایک خواہش پورا کرنا شاید تمہارے بس میں ہو اور وہ یہ کہ اگر تمہیں کسی دن ابو عبد اللہ کو اور دیا اس کے کسی اور دوست کے حکم سے موت کے گھاٹ اتارنا پڑے تو اس مقصد کے لئے یہ کوٹھڑی استعمال نہ کرنا میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کا خون میرے خون کے ساتھ شامل ہو۔"

داروغہ نے کہا۔ "آپ ربیعہ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟"

"نہیں۔ ربیعہ کو کوئی پیغام دینے کے لئے مجھے کسی شخص کے توسط کی ضرورت نہیں۔ وہ

میرے بعد میری روح کا پیغام سن سکے گی۔ تم اپنا کام ختم کرو۔"

داروغہ نے جلاد کی طرف دیکھا۔ جلاد نے گزشتہ دس برس میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ اس نے داروغہ کے ہاتھ کا اشارہ پا کر برچھپا اٹھایا اور داروغہ دوسری طرف منہ پھیر کر اپنے آنسو پونچھنے لگا۔

کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور داروغہ نے جلدی سے مڑ کر جلاد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ "کھڑو! اور پھر اس نے دروازے کے قریب جا کر زور سے آواز دی۔ "کون ہے؟"

اس کے جواب میں پریداروں کی سہمی ہوئی آوازیں آئیں۔ "دروازہ کھولو۔"

اس نے جلدی سے کٹھی کھول دی اور دروازے پر الحرام کے ناظم اعلیٰ، ابو عبد اللہ کی

عمر رسیدہ ماں، اس کی بیوی اور اینجلا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کے پیچھے چند خواجہ سرا

کھڑے تھے۔

الحمرہ کے ناظم اعلیٰ نے اندر جھانکنے کے بعد اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا: ہم وقت پر پہنچ گئے۔ بیگمات سلطان کے سب سے بڑے دشمن کو اپنی آنکھوں سے قتل ہوتا دیکھنا چاہتی ہیں۔“

داروغہ نے پریشان ہو کر کہا: بیگمات کی خواہش کی تعمیل میرا فرض ہے لیکن انہیں ہم لوگوں کو سلطان کے عتاب سے بچانے کا ذمہ لینا پڑے گا۔“

ابو عبداللہ کی ماں نے کمرے میں پاؤں رکھتے ہوئے کہا: تمہیں انعام کی توقع رکھنی چاہیے آج ہمارے بیٹے نے ایک بہت بڑے دشمن پر فتح پائی ہے۔ خواجہ سران تلم سپاہیوں کو جن کی ہوشیاری سے ہمیں اپنے دشمن پر فتح حاصل کرنے کا موقع ملا ہے ہماری طرف سے انعام دو اور ہماری طرف سے یہ درخواست کرو کہ ابو عبداللہ یا کسی اور کو اس جگہ ہماری آمد کا علم نہ ہو وہ بات بات پر بگڑ جانے کا عادی ہے۔“

ناظم، بیگمات اور اینجلا کے اندر داخل ہونے کے بعد داروغہ نے دروازہ بند کر لیا اور کہا: آپ مجرم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں۔“

ابو عبداللہ کی ماں نے آہستہ سے کہا: کیا تم بھی بدرین مغیرہ کو مجرم سمجھتے ہو؟“
داروغہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ابو عبداللہ کی ماں نے اپنا ہار اُتار کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا: یہ تمہارا انعام ہے۔“

ابو عبداللہ کی بیوی نے اس کی تقلید کی اور اپنے جواہرات سے مرصع کنگن اُتار کر حبشی جلاذ کو پیش کر دئے۔ جلاذ تذبذب کی حالت میں داروغہ کی طرف دیکھنے لگا اور داروغہ ناظم کی آنکھ کا اشارہ پا کر بولا: ملکہ عالم! آپ حکم دیجئے ہم کسی انعام کے لالچ کے بغیر اس کی تعمیل کریں گے۔ یہ ہار اور کنگن اپنے پاس رکھئے۔“

ابو عبداللہ کی ماں نے کہا: اس میں شک نہیں کہ الحمرہ کی امارت اور سطوت ایک فسانہ

بن چکی ہے لیکن سلطان کی ماں اور اس کی بیگم اس قدر تہی دست نہیں کہ اپنے وفاداروں کو معمولی انعامات بھی نہ دے سکیں۔ ہمیں یہ احساس نہ دلاؤ کہ ہم غریب ہیں۔ ہم تپھر کے یہ چند ٹکڑے سرحدی عتاب پر نچھاور کرنا چاہتی ہیں۔“

ناظم نے داروغہ سے کہا۔ ”اب کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے تمام انتظامات مکمل کر لئے ہیں۔ انہیں چھوڑ دو۔“

داروغہ نے جہتی کی طرف اشارہ کیا اور اس نے فوراً ابو عبد اللہ کی بیوی کے ہاتھ سے لنگن لے لئے۔

بدر بن مغیرہ کا منہ دوسری طرف تھا۔ وہ ان کی باتیں سن چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں اس ذات کبریٰ کے لئے تشکر کے آنسو جمع ہو رہے تھے جو اپنے بندوں کو کسی حالت میں بھی فراموش نہیں کرتی۔

جلاد نے شکنجہ کھول دیا۔

بدر بن مغیرہ اٹھا اور مڑ کر اپنے محسنوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ملکہ نے آگے بڑھ کر کہا۔ ”بیٹا! مجھے اپنی ماں سمجھو۔ ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے لیکن تم اگر اسے ایک نیکی سمجھو تو وقت آنے پر ابو عبد اللہ سے انتقام لینے کی بجائے اُسے رحم کا حقدار سمجھنا۔“

بدر بن مغیرہ نے جواب دیا۔ ”میں اب بھی اُسے قابلِ رحم سمجھتا ہوں۔ میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ ملت فروشوں کے ہاتھ میں کس قدر بے بس ہے۔“

ابو عبد اللہ کی بیوی نے آبدیدہ ہو کر کہا۔ ”میں آپ سے وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ آپ دل برداشتہ ہو کر اہل غرناطہ سے کنارہ کش نہیں ہو جائیں گے۔ صرف غرناطہ ہی نہیں بلکہ اندلس کی ہر مسلمان عورت آپ کو اپنا محسن سمجھتی ہے۔“

بدر بن مغیرہ نے متاثر ہو کر کہا۔ ”میری بہن! غرناطہ اسلامیانِ اندلس کا آخری حصار ہے میں اور میرے ساتھی آخری دم تک اس کی حفاظت کریں گے۔“

ملکہ نے کہا: "یہ باتوں کا وقت نہیں مجھے ڈر ہے کہ ابو عبد اللہ کا کوئی ساتھی اس طرف نہ آجائے۔ ہم تمہیں اپنی ذمہ داری پر ہا کر رہی ہیں اور ہمیں یہ اطمینان ہے کہ ہم ابو عبد اللہ کے باخبر ہونے پر بھی اُس کی نظرِ عتاب سے محفوظ رہیں گی تاہم محل کے ان ملازموں کے لئے جنہوں نے تمہارے ساتھ وفا کی ہے تمہیں اس وقت تک روپوش رہنا پڑے گا جب تک کہ ابو عبد اللہ اپنے کٹے پر نادم نہیں ہوتا ورنہ تمہارے بجائے ان لوگوں کو روپوش ہونا پڑے گا اور الحرام پر سلطنت کے غداروں کا پورا تسلط ہو جائے گا۔"

بدر بن مغیرہ نے جواب دیا: "آپ اطمینان رکھیے صرف چند قابلِ اعتماد لوگوں کے سوا کسی کو میری زندگی کا علم نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑے مقصد کے لئے میرا روپوش رہنا ضروری ہے۔"

ملکہ نے کہا: "خدا تمہارا حامی اور مددگار ہو۔"

(۵)

اینبلا اب تک، خاموشی سے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بدر بن مغیرہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اضطرابی حالت میں ایک قدم آگے بڑھی اور گھجکے ہوئے بولی: "آپ ربیعہ کے متعلق پریشانی نہ ہوں اس کا یہاں آنا مشکل تھا۔"

ابو عبد اللہ کی بیوی نے کہا: "ہم اینبلا کے شکر گزار ہیں کہ اُس نے ہمیں بروقت خبر دیا کیا۔"

بدر بن مغیرہ نے اپنے ہونٹوں پر ایک احسان مندانہ مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا: "اینبلا تمہارا طبیب یقیناً مجھ سے تمہارے متعلق پوچھے گا۔ اگر اُسے کوئی پیغام دینا چاہو تو میں قاصد کا فرض ادا کرنے کے لئے تیار ہوں۔"

ایک ثانیہ کے لئے اینبلا کی رگوں کا تمام خون سمٹ کر اُس کے گالوں میں آ گیا۔ اس کو کھڑی میں داخل ہونے کے بعد اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ کاش وہ بشیر بن حسن کے متعلق کچھ کہہ سکتی۔ اسے اُس کا تذکرہ چھپڑنے کا موقع ملنے کی امید نہ تھی اور اسے یہ بھی

احساس تھا کہ موقع ملنے پر بھی اس کی زبان اس کے دل کی ترجمانی سے قاصر رہے گی لیکن بدر بن مغیرہ نے جیسے اُس کے لئے جنت کے بند دروازے کھول دئے۔ وہ بولی: "وہ میرے محسن ہیں۔۔۔۔۔ میری طرف سے انہیں یہ رومال پیش کر دیجئے۔"

ایجنڈا نے جھجکتے ہوئے آگے بڑھ کر سُرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا رومال بدر بن مغیرہ کے ہاتھ میں دے دیا۔

بیگمات اپنی نسوانی ذکاوتِ حس سے بہت کچھ سمجھ چکی تھیں اس لئے وہ خاموش رہیں۔

ناظم کی تجویز پر بدر بن مغیرہ کو ایک تختے پر جو لاش اٹھانے کے لئے کھڑی میں رکھا گیا تھا لٹا دیا گیا اور اس کے اوپر چادر ڈال دی گئی۔

داروغہ نے کھڑی کا دروازہ کھول دیا۔ تینوں خواتین باہر نکل گئیں۔ پیریدار دروازے سے چند قدم دُور خواجہ ہرا کے گرد گھیرا باندھے کھڑے تھے اور وہ انہیں اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لئے اشرافیاں بانٹنے میں نجل سے کام لے رہا تھا لیکن بیگمات کو آتے دیکھ کر اُس نے جلدی جلدی تھیلی خالی کر دی۔

ایک ثانیہ کے لئے داروغہ دروازے میں کھڑا رہا جب بیگمات کچھ دُور چلی گئیں تو اس نے باہر نکل کر پیرے داروں سے کہا: "سلطان کا حکم تھا کہ اس قتل کی خبر ہم تک محدود رکھیں۔ مگر اور چھوٹی بیگم سلطان کی اجازت کے بغیر یہاں آگئی تھیں۔ اب اگر یہ بات سلطان تک پہنچ گئی تو وہ بیگمات کو شاید کچھ نہ کہیں لیکن ہماری شامت آجائے گی۔"

داروغہ نے چار آدمیوں کو لاش اٹھانے کے لئے اندر بلا لیا اور دوسروں کو جانے کی اجازت دے دی۔

کھڑی دیر بعد یہ چار آدمی اس تختے کو جس پر بدر بن مغیرہ لٹا ہوا تھا اپنے کندھوں پر اٹھا کر کھڑی سے باہر نکلے اور ناظم اور داروغہ کے پیچھے پیچھے چل دئے۔ کئی تریچ در پیچ راستہ

سے گزرنے کے بعد وہ ایک دیوار کے سامنے رک گئے۔ یہاں سے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا۔ داروغہ نے ناظم کے ہاتھ میں مشعل دیتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ایک لوہے کی کل گھمائی۔ ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ دیوار میں ایک دراڑ نمودار ہوئی اور یہ دراڑ بڑھتے بڑھتے ایک اچھی خاصی گزرگاہ بن گئی اور اس کے ساتھ ہی بہتے ہوئے پانی کا شور سنائی دینے لگا۔ داروغہ کے اشارے پر ناظم نے مشعل کو ایک طرف رکھ دیا اور اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ سپاہیوں نے ان کی تقلید کی۔ اس دیوار سے باہر کوئی آٹھ دس گز چوڑے اور پانچ گز اونچے چبوترے کے نیچے دریا ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ داروغہ کے اشارے پر سپاہیوں نے تختہ نیچے رکھ دیا۔ ناظم نے داروغہ کے کان میں کچھ کہا اور وہ سپاہیوں سے مخاطب ہو کر بولا۔ "تم بیسوں سے میرے ساتھی ہو اس لئے تم سے کوئی بات چھپانا میں تمہاری وفاداری کی توہین سمجھتا ہوں۔ میں تم پر ایک اہم راز ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔"

داروغہ کو متذنب دیکھ کر ایک سپاہی نے کہا۔ "آپ پریشان نہ ہوں وہ راز ہم پر ظاہر ہو چکا ہے اور مرتے دم تک ہمارے سینوں میں محفوظ رہے گا۔ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم لاش کی بجائے ایک زندہ انسان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاتے ہیں۔"

داروغہ خاموش رہا اور ناظم نے اپنی بغل سے اشرفیوں کی ایک تھیلی نکال کر اس سپاہی کو پیش کرتے ہوئے کہا۔ "یہ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا انعام ہے۔"

اس نے کہا۔ "نہیں نہیں، اہل غرناطہ کے لئے سرحدی عقاب کا زندہ رہنا ہمارا سب سے بڑا انعام ہے۔"

کچھ دیر پس و پیش کے بعد ناظم اور داروغہ کے اصرار پر اپنے ساتھیوں کی رضامندی دیکھ کر اس سپاہی نے تھیلی لے لی۔

داروغہ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے سوال کیا۔ "کیا دوسرے پہریداروں کو بھی یہ شیک تھا کہ ہم ان کی جان بچانا چاہتے ہیں؟"

”نہیں۔ تاہم ان میں سے اکثر کی یہ خواہش تھی کہ کاش ملکہ کو رحم آجائے۔ مجھے خود بھی
ملکہ سے یہ توقع نہ تھی لیکن قتل کا جائزہ لینے کے بعد میری تسلی ہو گئی۔ وہاں خون کا چھینٹا ہوا
نہ تھا۔“

ناظم نے کہا: ”اب تک جلا دیہ کمی پوری کر چکا ہو گا۔“
تختے پر سے بدر بن مغیرہ نے چادر اتار کر ایک طرف پھینک دی اور اٹھ کر آگے بڑھتے
ہوئے کہا: ”میرے خیال میں اب مجھے زندوں کی دنیا میں پاؤں رکھنے کے لئے آپ سے اجازت
لینے کی ضرورت نہیں۔“

داروغہ، ناظم اور سپاہیوں نے آگے بڑھ کر یکے بعد دیگرے اس کے ساتھ مصافحہ
کیا۔

ناظم نے کہا: ”دریا کے اس کنارے سے آگے ہمارا دائرہ عمل ختم ہو جاتا ہے۔ پانی سرد
بھی ہے اور تیز بھی۔ اگر آپ کو اپنے بازوؤں پر بھروسہ نہ ہو تو ہم کوئی اور انتظام کر سکتے ہیں۔
لیکن وقت بہت تھوڑا ہے۔“

بدر بن مغیرہ نے کہا: ”آپ فکر نہ کریں۔ وہ ذاتِ اقدس جس نے میری گردن سے
جلا دکا ہاتھ روک لیا تھا مجھے ان سرکش موجوں سے بھی بچالے گی۔“

ناظم نے کہا: ”بہت اچھا، خدا حافظ! آج آپ الحمار کے چور دروازے سے داخل
ہوئے تھے اور چور دروازے سے نکل رہے ہیں۔ ہم اس دن کا انتظار کریں گے جب آپ
کے لئے الحمار کا بڑا دروازہ کھلا ہو گا۔“

بدر بن مغیرہ ”خدا حافظ“ کہہ کر کنارے کی طرف بڑھا اور ایک لختہ تامل کے بعد دریا میں
کو دیر پڑا۔

(۶)

دریا کے دوسرے کنارے تھوڑی دیر سنانے کے لئے بدر بن مغیرہ ایک پتھر پر بیٹھ

گیا۔ آسمان پر بادل چھٹ چکے تھے اور ستارے جگمگا رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ اٹھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اُسے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ جلدی سے اُٹھ کر دبے پاؤں چلتا ہوا ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے دو آدمی تاریکی میں دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دکھائی دئے۔ وہ سوچ کر درخت کی آڑ سے نکلا اور دبے پاؤں ان کے پیچھے چلنے لگا۔

ان میں سے ایک نے آہستہ سے کہا: "اُس نے بہت دیر لگائی۔ اب صبح ہونے والی ہے۔"

دوسرے نے کہا: "لیکن اُس نے یہ بھی تو کہا تھا کہ ہم اس کا انتظار نہ کریں۔ کامیابی کی صورت میں اُسے کافی دیر وہاں رہنا پڑے گا۔"

"مگر اُس نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اگر ممکن ہو تو سیرھی کے رستے آدمی اُتار کر ہمیں صحیح حالات سے باخبر کرے گا۔"

"ممکن ہے کہ اُسے اس بات کا موقع نہ ملا ہو۔ اگر آپ اور انتظار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی جگہ کھڑے رہنا چاہیئے۔"

بدر بن مغیرہ نے آواز دی: "منصور۔"

وہ دونوں رُکے اور مڑ کر بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹ گئے۔ دوسرا آدمی بشیر بن حسن تھا۔

اپنے ساتھیوں کی طرف سے سوالات کی بوچھاڑ پر تنگ آ کر بدر بن مغیرہ نے کہا: "چلو یہاں سے نکلیں۔" چلتے چلتے بدر بن مغیرہ نے بشیر بن حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا: "کان میں کچھ کہا اور اس کے ساتھ ہی ایک بھیگا ہوا رومال اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ منصور نے ان کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہا: "معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے واپس نہیں آئے۔"

بدر بن مغیرہ نے جواب دیا: تمہارا اندازہ صحیح ہے:

بشیر بن حسن نے کہا: میرے خیال میں اب ہم خطرے کی حدود سے باہر آ گئے ہیں۔

آپ اپنی داستان شروع کر دیں:

بدر بن مغیرہ نے چلتے چلتے اختصار کے ساتھ اپنی تمام سرگزشت بیان کر دی۔ کوئی ایک گھنٹے چلنے کے بعد یہ تینوں ایک گھنٹے باغ میں سے گزرتے ہوئے ایک اُجڑے ہوئے مکان میں داخل ہوئے۔ وہاں ان کے پانچ اور ساتھی گھوڑوں کی حفاظت کر رہے تھے۔

جب یہ سب گھوڑوں پر سوار ہو گئے تو بشیر بن حسن نے سوال کیا: اب کس طرف کا ارادہ ہے؟

بدر بن مغیرہ نے کہا: میں گھوڑی دوڑ جا کر تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ یہ پانچ سپاہی میں اپنے ساتھ جنگل میں لے جاؤں گا۔ منصور! تم آج صبح بوتے ہی سلطان کے سپاہیوں کو مالقہ بھیج دو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر میرے پاس پہنچ جاؤ اور بشیر! تم مالقہ جاؤ۔ وہاں الزغل اور الزلیغری کو تمام واقعات سے آگاہ کرنے کے بعد یہ بتاؤ کہ کچھ عرصہ میرے روپوش ہونے میں بہت سی مصالحتیں ہیں۔ ابو بکر اللہ اور اس کے ساتھی فوراً فرڈنی سینڈ کے پاس میری موت کی اطلاع پہنچائیں گے اور وہ فوراً حملہ کے لئے تیار ہو جائے گا۔ الزغل کو مشورہ دو کہ میدان میں مقابلہ کرنے کی بجائے پیچھے ہٹنا ہوا ہمارے علاقہ میں داخل ہو جائے۔ اگر فرڈنی سینڈ نے تعاقب کیا تو ہم اسے ایک فینیل کن شکست دے سکیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ابو عبد اللہ کی رضامندی سے عنناطہ کو مستقر بنا کر مالقہ کی طرف بڑھنا چاہے۔ اس صورت میں سلطان کی افواج آگے بڑھ کر اسے سرحد پر روکنے کی کوشش کریں اور معمولی لڑائی کے بعد پیچھے ہٹتی ہوئی جنگل میں پہنچ جائیں۔ میں وقت آنے پر ان کی راہ سمنائی کے

لئے تمہیں بھیج دوں گا۔ انہیں یہ بھی تاکید کرنا کہ وہ دونوں صورتوں میں مالقہ کی
حفاظت کے لئے کم از کم نصف فوج ضرور چھوڑ دیں۔

سیاہ پوشش

(۱)

بدر بن مغیرہ کے قتل کی افواہ اندلس کے طول و عرض میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ابو عبد اللہ کی خواہش تھی کہ یہ خبر غرناطہ کے عوام تک نہ پہنچے لیکن ابو داؤد نے مشورہ دیا کہ یہ خبر مشہور ہونے کے بعد ابو الحسن کے حامی مایوس ہو جائیں گے۔ چنانچہ غرناطہ کے بعض زرخیز خطیبوں کو یہ اجازت مل گئی کہ وہ عوام میں سرحدی عقاب کے قتل کی خبر نشر کریں۔

فرطینڈ کے پاس ابو داؤد نے اپنے لپچی کو یہ پیغام دے کر بھیج دیا کہ ابو الحسن پر آخری ضرب لگانے کے لئے یہ بہترین موقع ہے۔

ابو عبد اللہ اپنے خیال کے مطابق ایک بہت بڑے دشمن سے نجات حاصل کر چکا تھا تاہم غرناطہ کے قرب و جوار میں سرحدی عقاب کے جاننازوں کی موجودگی اس کے لئے کم پریشانی کا باعث نہ تھی لیکن جب اس نے یہ سنا کہ سرحدی عقاب کے ساتھی غرناطہ کے محاصرے کا ارادہ ترک کر کے جا رہے ہیں تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دو تین دن کے بعد اسے یہ خبر ملی کہ وہ مالقہ سے بھی ابو الحسن کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس

نے محل میں جشن منایا اور ملت فر دشمنوں میں انعامات تقسیم کئے۔

چند دنوں کے بعد اس کے پاس فرڈینینڈ کا ایلچی پہنچا اور اس نے اطلاع دی کہ چند ہفتوں تک ہماری فوج اندلس کے جنوبی ساحل تک پہنچ جائے گی۔ فوج کا بیشتر حصہ سرحدی قبائل کی طاقت کچلنے کے لئے شمال اور مشرق کی طرف سے جبل شلیبر کی طرف بڑھے گا اور دوسرا لشکر قلاوس اور شریش سے مشرق کا رخ کرے گا۔ یہ دونوں افواج سیرانویدا کے پہاڑوں میں مل جائیں گی اور اُس کے بعد ساحلی علاقے کے تمام شہروں پر قبضہ کر لیں گی۔ اتنی دیر میں تم فوراً غرناطہ سے نکل کر مالقہ پر حملہ کر دو۔ ہمیں توقع ہے کہ تم اتنی دیر میں مالقہ کو فتح کر لو گے۔ لیکن اگر دشمن کی شدید مدافعت کے باعث جس کی مجھے توقع نہیں تم مالقہ پر فوراً قبضہ نہ کر سکتے تو قلاوس کا حاکم تمہاری مدد کے لئے پہنچ جائے گا۔

ابو عبداللہ اپنے خیال کے مطابق بدر بن مغیرہ کو قتل کر کے فرڈینینڈ کے راستے کے تمام کانٹے صاف کر چکا تھا۔ اُسے یقین تھا کہ اُس کا حلیف اور سرپرست اس کے کندھوں پر کسی اور جنگ کا بوجھ نہیں ڈالے گا۔ وہ مالقہ پر آندھی کی طرح نازل ہوگا اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے اور اُسے اندلس کا واحد حکمران تسلیم کرانے کے بعد واپس چلا جائے گا۔ اس نے فرڈینینڈ کا پیغام سُن کر پریشانی کی حالت میں ابو داؤد سے سوال کیا: کیا فرڈینینڈ کو یہ علم نہیں کہ موجودہ حالات میں میرے لئے محفوظ ترین جگہ الحمرہ کی چار دیواری ہے؟ سرحدی عقاب کے قتل کے بعد غرناطہ کے عوام میرے خلاف سخت مشتعل ہیں اور فوج کی طرف سے مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر میں نے اپنے باپ پر چڑھائی کی تو ان میں سے بعض میرا ساتھ چھوڑ کر اس کے ساتھ جا لیں گے۔

ابو داؤد فرڈینینڈ کی مصالحتوں کو سمجھتا تھا۔ اُسے معلوم تھا کہ فرڈینینڈ کو ابو عبداللہ پر پورا اعتبار نہیں اور وہ اسی سے مالقہ پر اس لئے حملہ کروانا چاہتا ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان نفرت کی خلیج اس قدر وسیع ہو جائے کہ ان کے درمیان مصالحت کا کوئی امکان باقی نہ

رہے۔ چنانچہ اس نے جواب دیا: "شاید فرڈیننڈ کی یہ خواہش ہے کہ دشمن کی توجہ تین محاذوں پر تقسیم ہو جائے۔ اگر آپ نے جنگ سے پہلو تہی کی تو ممکن ہے کہ وہ آپ کی اعانت کا ارادہ ہی ترک کر دے۔ اس لئے آپ کو کسی تاخیر کے بغیر مالقہ پر حملہ کر دینا چاہیے۔ سرحدی عقاب اور اس کے ساتھی دشمن کا سب سے بڑا سہارا تھے۔ سرحدی عقاب مارا جا چکا ہے اور اس کے ساتھی اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے اس لئے ممکن ہے کہ آپ فرڈیننڈ کی آمد سے پہلے ہی مالقہ فتح کر لیں۔ مالقہ کی فتح کے بعد جنوب کے تمام باغی سردار اور قبائل آپ کی اطاعت قبول کر لیں گے اور آپ کو فرڈیننڈ کا احسان نہیں اٹھانا پڑے گا۔"

ابو عبد اللہ نے کہا: "میں مالقہ پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن صرف اسی صورت میں جبکہ فرڈیننڈ کی انوارج سرحدی علاقے میں داخل ہو چکی ہوں۔"

ابو داؤد نے کہا: "اگر حکم ہو تو میں یہ جواب لکھ بیجوں۔"

"ہاں! لیکن اس طرح لکھئے کہ بادشاہ یہ خیال نہ کرے کہ میں بزدل ہوں۔ میں صرف محاط رہنا چاہتا ہوں۔"

(۲)

ابو الحسن مفلوح اور نابینا ہو چکا تھا۔ امراء کے اصرار پر اس نے اپنے بھائی الزغل کو اپنا جانشین بنا دیا۔ فرڈیننڈ اپنی لاتعداد فوج کے ساتھ قسطلہ سے نکلا اور قرطبہ کے پاس پڑاؤ ڈال کر اندلس میں مسلمانوں کے آخری دفاعی قلعے پر فیصلہ کن ضرب لگانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس نے ثرشیس، اشبیلیہ اور قادس کے عیسائی امراء کو حکم دیا کہ وہ غرناطہ کے جنوب مشرق کے شہروں کو تاخت و تاراج کرتے ہوئے کوہ سیرانویدا کا رخ کریں اور باقی فوج کو ایک تجسس کار جرنیل کی قیادت میں شمال مشرق کے راستے سرحدی قبائل کی سرکوبی کے لئے روانہ کر دیا۔

جب فرھنڈ کی افواج بدر بن مغیرہ کے آزاد علاقے میں داخل ہوئیں تو انہیں خستہ اور بازوؤں سے اٹاؤ کا حملوں کے سوا کسی زبردست مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ عیسائیوں نے اپنے راستے کی بہت سی بستیاں تباہ و برباد کر ڈالیں اور وہ بڑھتے ہوئے حوصلوں کے ساتھ سرحدی عقاب کی زمین پر پیش قدمی کرتے رہے۔ ایک دن ان کے سپہ سالار نے ایک ویران قلعہ پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے سپاہیوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا:

”بہادرو! یہ وہ علاقہ ہے جہاں سرحدی عقاب کی لہجارت

کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ اب ان باغیوں کا رہنما راجا چکا ہے اور ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ ہمارے بادشاہ کا خیال تھا کہ ہمیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن یہ لوگ ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ ہماری تلواریں دشمن کے خون کی پیاسی ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ہم مالقہ نہیں پہنچتے ان کی پیاس نہ بجھ سکے گی۔ اس لئے ہمیں راستے میں آرام کئے بغیر آگے بڑھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے وہ بھائی جو قادم کی طرف سے مالقہ کا رخ کر رہے ہیں ہم سے سبقت لے جائیں

اگلے دن جب وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے انہیں غیر متوقع حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ عقب کی فوج پر اچانک ایک ہزار سواروں نے حملہ کیا اور ان کی آن میں کوئی تین ہزار آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر جنگل میں غائب ہو گئے۔

بدر بن مغیرہ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ وہ اٹاؤ کا حملے کرتا ہوا دشمن کی فوج کو ان خطرناک گھاٹیوں اور دروں میں لے آیا جن کی ہر چٹان حمزہ آور کے خلاف ایک ناقابلِ تسخیر قلعہ بن سکتی تھی۔ عیسائی فوج کے بعض جہانمیدہ افسروں نے اپنے سپہ سالار کو راستہ بدلنے کا

مشورہ دیا لیکن وہ طاقت کے نشہ میں چور تھا اور اس کے سپاہی جو عام حالات میں ایسی گزر گاہوں پر پھونک پھونک کر قدم رکھتے، اپنے سپہ سالار کی طرح یہ سمجھ چکے تھے کہ سرحدی عقاب کی موت کے بعد سرکش قبائلیوں کی ہمت جواب دے چکی ہے۔ سیاہ پوش کی قیادت میں ایک ہزار سوار انہیں کافی نقصان پہنچا چکے تھے اور انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ وہ ان سے نپٹے بغیر آگے نکل جائیں۔

ایک شام عیسائی فوج سرحدی شہسواروں کے تعاقب میں دشوار گزار درے سے اور تنگ گھاٹیاں عبور کرنے کے بعد ایک وادی میں داخل ہوئی۔ سامنے بلند پہاڑ تھے۔ اس لئے سپہ سالار نے فوج کو وادی میں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا اور کسی غیر متوقع حملے کے پیش نظر اس نے فوج کی چند ٹولیاں اردگرد کی پہاڑیوں پر سپردینے کے لئے روانہ کر دیں۔ سارا دن یلغار کرنے کے بعد تھکی ماندی فوج بیٹ بھر کر کھانے اور جی بھر شراب پینے کے بعد سو گئی۔ فوج کا سپہ سالار اور دوسرے افسر بھی اردگرد کی پہاڑیوں پر سپردینے والوں کو رات کے وقت کسی غیر متوقع حملہ کی روک تھام کے لئے کافی سمجھ کر بے خبری کی نیند سو گئے۔ رات کے تیسرے پہاڑ چانک ان پہاڑوں کی چوٹی پر نہیں سنا دیں۔ سپہ سالار گھبرا کر اٹھا اور آنکھیں ملتا ہوا نیچے سے باہر نکلا۔ چاروں طرف کھرام مچا ہوا تھا اور اردگرد بہت سے نیچے جل رہے تھے۔ عیسائی فوج تلواریں سنبھال رہی تھی کہ اچانک تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آگ کی روشنی میں سینکڑوں سپاہی حملہ آوروں کے تیروں کا شکار ہو گئے۔

سپہ سالار نے فوج کو تاریکی میں پناہ لینے کا حکم دیا۔ سپاہی جلتے ہوئے نیچوں سے ایک طرف ہٹنے لگے۔ اچانک چاروں طرف سے اللہ اکبر کے نعرے سنائی دیتے اور آن کی آن میں حملہ آور نیچے اتر کر عیسائیوں کے حواس باختہ لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ تاریکی میں عیسائیوں کے کئی سپاہیوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں۔

سپہ سالار نے اس امید پر کہ حملہ آوروں کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی فوج کو چاروں طرف

بھکر کر پہاڑوں پر قبضہ کرنے کا حکم دیا لیکن پتھروں اور تیروں کی سخت بارش میں ان کی
 پیش نہ گئی۔ صبح کے آثار نمودار ہونے تک نصرانیوں کی یہ حالت تھی کہ افسر کو اپنے سپاہیوں
 اور سپاہیوں کو اپنے افسر کی خبر نہ تھی۔ وہ رختوں اور پتھروں کی آڑ میں چھپ چھپ کر اپنی
 جانیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حملہ آور عیسائیوں کے بہت سے گھوڑے چھین کر
 ان پر سوار ہو چکے تھے اور باقی گھوڑے جن کی رسیاں کاٹ دی گئی تھیں بے تحاشا وادی
 میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے بہت سے سپاہی ان کے پاؤں تلے روندے گئے۔ صبح
 کی روشنی میں عیسائیوں نے دیکھا کہ حملہ آور ان کے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ان پر نیزوں
 سے حملے کر رہے ہیں۔ نصرانی سپہ سالار کو یہ امید تھی کہ حملہ آور صبح کے آثار دیکھتے ہی فرار ہو
 جائیں گے لیکن ان کا جوش و خروش دیکھ کر اُس نے یہ محسوس کیا کہ وہ ایک فیصلہ کن جنگ
 کے لئے اس وادی کو منتخب کر چکے ہیں۔ میدان میں عیسائیوں کی رشتوں کی تعداد حوصلہ شکن
 تھی۔ حملہ آوروں کی نسبت ان کی فوج کی تعداد بھی پانچ گنا زیادہ تھی لیکن وادی میں سواروں
 کے پلے درپلے حملوں سے ان کے پاؤں اکٹڑ چکے تھے۔ سپہ سالار نے مدافعتاً جنگ لڑتے
 ہوئے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ وادی سے نکل کر اُس نے ایک تنگ گھاٹی میں پہنچ کر محسوس
 کیا کہ اب اس کی فوج نیزہ بازوں کی زد سے محفوظ ہو چکی ہے لیکن یہاں بھی اُسے اطمینان
 کا سانس لینا نصیب نہ ہوا۔ ایک بار پھر مہیب چٹانوں میں چھپے ہوئے مجاہدین کے نعرے
 سنائی دئے اور تیروں اور پتھروں کی بارش بہنے لگی۔

ایک پتھر سپہ سالار کے سر پر لگا اور وہ گر پڑا۔ اُس کی موت کے ساتھ ہی سپاہیوں کے
 جوصلے ٹوٹ گئے۔ نائب سالار نے فوج کو تیزی کے ساتھ اس گھاٹی سے نکلنے کا حکم دیا۔ تیروں
 اور پتھروں کی بارش سے نکل کر ایک ہموار وادی میں پہنچ کر اُس نے بچی کھچی فوج کا جائزہ لیا تو
 پچیس ہزار میں سے صرف آٹھ ہزار اُس کے ساتھ تھے۔ پیچھے سے تعاقب کا خطرہ محسوس
 کرتے ہوئے اُس نے فوج کو دم لینے کی بھی مہلت نہ دی۔

وادی میں دو کوس چلنے کے بعد یہ فوج ایک گنجان جنگل میں داخل ہو رہی تھی کہ اچانک درختوں کی آڑ سے قریباً ایک ہزار سوار نمودار ہوئے اور انہوں نے پہلے حملے میں ہی عیسائی فوج کو تیر بتر کر دیا۔ ان حملہ آوروں کے آگے آگے وہی سیاہ پوش سوار تھا جس کو زندہ پکڑنے کا شوق عیسائی سپہ سالار کو ان خطرناک مقامات تک لے آیا تھا۔ قریباً دو ہزار عیسائی بھاگ کر جنگل میں جا چھپے اور باقی فوج نے تھوڑی دیر متبادلہ کرنے کے بعد ہتھیار ڈال دئے ۔

(۳)

مالتہ کی حفاظت پر الزغری کو متعین کرنے کے بعد الزغل پانچ ہزار بانازوں کے ساتھ قرطبہ، اشبیلیہ، قابوس اور شمال مغرب کے دوسرے شہروں کی ٹڈی دل فوج کے ساتھ مدافعت جنگ لڑتا ہوا پیچھے ہٹا گیا اور یہ انویدا کے دامن میں پہنچ کر سرحدی عقاب کا انتظار کرنے لگا۔ فرٹینینڈ کو عقاب کی وادی میں اپنے سپہ سالار کی کامیابیوں کے متعلق نہایت حوصلہ افزا خبریں پہنچ رہی تھیں۔ اس نے الزغل کے سپاہیوں کو سیرانویدا کی طرف ہٹنے کی خبر سنی تو دونوں افواج کے سپہ سالاروں کو حکم بھیج دیا کہ وہ ساحل کے شہروں کا رخ کرنے کی بجائے الزغل کو دونوں اطراف سے گھیر لیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے غرناطہ میں ابو عبد اللہ کو بھیجا کہ وہ فوراً مالتہ پر حملہ کر دے۔

ابو عبد اللہ کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ مالتہ کی فوج کا بیشتر حصہ الزغل کے ساتھ ہے اور الزغری بہت تنہا ہی فوج کے ساتھ شہر کی حفاظت کر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی فتح کو یقینی سمجھ کر مالتہ پر چڑھائی کر دی۔ فرٹینینڈ کے زر خرید سرداروں کے علاوہ غرناطہ کے بعض ایسے لوگ بھی اس فوج میں شریک تھے جو اندلس میں مسلمانوں کے مستقبل سے یابوس ہو چکے تھے اور صرف زندہ رہنے کے لئے فرٹینینڈ کو خوش کرنا چاہتے تھے۔

جس روز ابو عبد اللہ اپنی فوج کے ساتھ غرناطہ سے نکلا اس سے ایک دن قبل عقاب

کی وادی میں فریڈینڈ کی فوج کا صفایا ہو چکا تھا اور اس سے تین دن بعد سرحدی عقاب کے جانباز الزغل کے جھنڈے تلے جمع ہو چکے تھے۔ الزغل کی فوج دشمن کی تعداد سے خائف تھی۔ لیکن شاندار فتح کی خبر سن کر ان کے جوصلے بڑھ گئے۔ الزغل نے بدر بن مغیرہ اور منصور بن احمد کے ساتھ اپنی قیام گاہ کے ارد گرد تمام چوکیوں کا معائنہ کیا۔ بدر بن مغیرہ کے اپنے آدمیوں کے سوا کسی اور کو یہ علم نہ تھا کہ وہ زندہ ہے۔ سپاہی الزغل کے ساتھ ایک نقاب پوش کو دیکھتے اور یہ سمجھتے کہ بدر بن مغیرہ کے چھن جانے کے بعد قدرت نے انہیں ایک نیا مددگار عطا کیا ہے۔ اس کی قیام فوج کے پڑاؤ سے کچھ دور تھی اور الزغل کے چند چیدہ چیدہ افسروں کے سوا جو اس راز سے واقف تھے کسی اور وہاں جانے کی اجازت نہ تھی۔

ایگزرا کے جنگجو قبائل جو درجوق الزغل کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے تھے۔ بدت کے بعد انہیں عقاب کی وادی کے مجاہدین کے دوش بدوش لڑنے کا موقع ملا تھا چونکہ منصور بن احمد کو بدر بن مغیرہ کا جانشین سمجھا جاتا تھا اس لئے انہوں نے الزغل سے درخواست کی کہ ان کی قیادت منصور بن احمد کے سپرد کی جائے۔ منصور نے بدر بن مغیرہ کی ہدایات کے مطابق جنگ کا نقشہ تیار کیا اور قبائلی مجاہدین کو تمام راستوں پر پھیلا دیا اور انہیں ہدایت کی کہ جوں جوں عیسائیوں کی فوج آگے بڑھتی آئے وہ عقب سے اس کے پیچھے ہٹنے کے راستوں کی ناکہ بندی کرتے آئیں۔

یہ لشکر عقاب کی وادی پر حملہ کرنے والی فوج کے انجام سے بے خبر تھا۔ پانچ دن سیرانویڈ کے امن میں پڑاؤ ڈال کر اس کے سپہ سالار کے پیغام کا انتظار کرتا رہا لیکن قبائلی مجاہدین نے چند بار شب خون مارا کہ انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔

تین دن کی پیش قدمی کے دوران میں چند بستیاں جلانے اور چند مردوں اور عورتوں کو قید کرنے کے بعد فریڈینڈ کا لشکر اس خطرناک علاقے میں داخل ہو چکا تھا جہاں سرحد کے عقاب بے قراری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔

بدین مغیرہ نے اپنے چنے ہوئے ایک ہزار جانبازوں کے ساتھ دشمن کے ہراول دستے پر حملہ کیا اور ان کی آن میں انہیں تتر بتر کر کے پہاڑوں میں روپوش ہو گیا۔ عیسائی سپہ سالار صورتِ حالات کا اندازہ کر رہا تھا کہ عقب سے قبائلیوں کے حملہ کی خبر ملی۔ یہ جگہ باقاعدہ لڑائی لڑنے کے لئے تنگ تھی۔ عیسائی سپہ سالار نے فوج کو تیزی سے آگے بڑھنے کا حکم دید گھائی سے آگے ایک ڈھلوان تھی اور اُس کے آگے ایک وادی تھی۔ عقب سے حملہ کی شدت محسوس کرتے ہوئے سپہ سالار نے اس وادی میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ اس وادی کا نشیب کوئی دو کوس کے بعد ایک کشادہ جنگل سے جا پاتا تھا اور اوپر کی طرف اس کا دوسرا سرا دو پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ دہلیز دکھائی دیتا تھا۔

جنگل میں سپہ سالار قبائلی حملہ آوروں کو بہت خطرناک سمجھتا تھا اور دوسری طرف اُسے کسی تنگ دہلیز میں گھر جانے کا خطرہ تھا۔ اس نے فوج کو رکنہ کا حکم دے کر ہراول دستے راستہ دیکھنے کے لئے دونوں طرف روانہ کر دئے اور خود حملہ آوروں کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اُس کی فوج کے عقبی دستے بھی پہنچ گئے اور انہوں نے اطلاع دی کہ حملہ آور ان کے جوابی حملوں سے پسپا ہو گئے ہیں۔

ہراول دستے کے جو سپاہی وادی کے نشیب کی طرف گئے تھے جنگل میں داخل ہوتے ہی نیزوں کی بوجھ پھاڑ کا سامنا کرنے کے بعد لوٹ آئے اور انہوں نے واپس آکر اطلاع دی کہ یہ جنگل تیرا اندازوں سے پٹا پڑا ہے۔

جو سپاہی وادی کے دوسرے کونے کی طرف گئے تھے انہوں نے ایک پہرے کے بعد واپس آکر اطلاع دی کہ وہ قویاً دس کوس تک دیکھ آئے ہیں۔ وادی کا یہ سرا کہیں تنگ اور کہیں کشادہ ہے۔ دونوں طرف پہاڑیاں کافی بلند ہیں۔ راستے میں ہمیں دشمن کا کوئی سپاہی نہیں ملا۔ چند چرواہوں نے بتایا ہے کہ یہ وادی دو دن کی مسافت کے بعد اس زرخیز علاقے سے جا ملتی ہے جہاں سے الپکوزرا کے قبائل کی بستیاں شروع ہوتی ہیں۔

عیسائی سپہ سالار کو یہ راستہ بھی خطرناک دکھائی دیا لیکن اس وادی میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد بھی اُسے چاروں طرف سے گھیر جانے کا خطرہ تھا۔ اُسے یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر حملہ آوروں نے جنگل اور پہاڑ سے نکل کر اس کے ساتھ باقاعدہ جنگ نہ کی تو بھی وہ شب خون مار کر اُسے کافی نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ اس کے سامنے سیرانویدا کے بلند پہاڑ تھے۔ بائیں طرف وہ جنگل تھا جس کو دشمن کو صاف کر کے آگے بڑھنا ناممکن تھا۔ عقب میں دھلوان تھی جس کی طرف لوٹ کر اُسے پھر ایک بار اُن تنگ گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا تھا جنہیں عبور کرتے ہوئے وہ کافی نقصان اٹھا چکا تھا۔ اُسے یہ بھی احساس تھا کہ جنگل میں چھپی ہوئی فوج اُس کے واپس مڑتے ہی پہاڑیوں پر پہنچ کر اس کا راستہ روک لے گی۔ ناچار اُس نے دائیں ہاتھ مڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ وادی تنگ ہو جاتی پیادہ فوج کے سپاہی دشمن کے پتھروں اور تیروں سے محفوظ رکھنے کے لئے دونوں کناروں کی پہاڑیوں پر چڑھ جاتے اور جب یہ وادی کشادہ ہو جاتی تو وہ بلندی کے دشوار گزار راستے چھوڑ کر سواروں کے ساتھ آ ملتے۔ وہ شام تک اسی طرح چلتے رہے اور راستے میں کوئی حادثہ پیش نہ آیا۔

رات ہو گئی لیکن فوج کے سپہ سالار کو پڑاؤ ڈالنے کے لئے کوئی موزوں جگہ نظر نہ آئی۔ رات کی تاریکی میں تھوڑی دیر چلنے کے بعد یہ تنگ وادی اور دونوں طرف کی پہاڑیاں بلند نظر آنے لگیں۔ تاریکی اس قدر زیادہ تھی کہ پتھروں میں گھوڑے لڑکھڑانے لگے۔ بعض افسروں نے سپہ سالار کو مشورہ دیا کہ یہ وادی خدا جانے کہاں ختم ہو۔ ممکن ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں آگے بڑھنے کے لئے کوئی راستہ نہ ہو اور وہاں دشمن ہمارا انتظار کر رہا ہو۔ اس لئے بہتر ہے کہ یا تو ہم واپس مڑ جائیں یا گھوڑوں کو وادی میں چھوڑ کر پہاڑیوں پر چڑھ جائیں۔ رات اگر ہم پر کوئی غیر متوقع حملہ ہوا تو بھی ہماری حالت اس قدر مخدوش نہیں ہوگی۔ صبح کی روشنی میں اگر ہمیں واپس جانا پڑا تو بھی ہمارے پیادہ سپاہی پہاڑوں پر چڑھ کر ہمارے راستے کی حفاظت کر سکیں گے۔

وہ ابھی یہ بحث کر ہی رہے تھے کہ اوپر سے ایک پتھر گرا۔ وہ بدحواس ہو کر تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد چند اور پتھر گرے اور زخمی ہونے والوں کی چیخیں سنائی دیں اور اس کے ساتھ ہی پتھروں کی بے محابا بارش ہونے لگی۔ سپہ سالار نے فوج کو پیچھے لہٹنے کا حکم دیا لیکن پتھروں کی بارش کا زور کم نہ ہوا۔ پتھروں کے شور اور زخموں کی چیخوں کے ساتھ گھوڑوں کی ہنہناہٹ نے ایک قیامت برپا کر دی۔ پہاڑیوں کے اوپر حملہ آور اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔

سپہ سالار نے فوج کو تباہی سے بچانے کے لئے حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چڑھ جائیں۔ لیکن اس ہنگامے میں بہت کم سوار ان کا حکم سن سکے اور جنہوں نے اس حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش کی انہوں نے فوراً ہی یہ محسوس کر لیا کہ چٹانوں پر چڑھنا آسان نہیں۔ اکثر سوار وادی کے کسی کشادہ حصے میں پہنچنے کی نیت سے گھوڑوں کی باگیں موڑ چکے تھے۔

صبح تک یہ فوج اس وادی میں ٹھہرتی اور قیامت خیز تباہی کا سامنا کرتی رہی۔ تیس ہزار سپاہیوں میں سے بارہ ہزار پتھروں کا شکار ہو گئے۔ پانچ ہزار پہاڑوں پر چڑھ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، باقی فوج واپس اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں سے اُس نے اپنا سفر شروع کیا تھا لیکن انہیں سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ جنگل سے تازہ دم سوار نمودار ہوئے۔ ان کے سپہ سالار کے ہاتھ میں غرناطہ کا جھنڈا تھا۔ وہ ان کی آن میں گھوڑے اڑاتے ہوئے ان کے سر پر آ پہنچے۔ نصرتیوں کی تعداد اب بھی ان سے کم نہ تھی۔ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک نقاب پوش کی قیادت میں پانچ ہزار مزید سوار ایک پہاڑی سے اترے۔ ان کے جھنڈے پر عقاب کی تصویر تھی۔ انہوں نے ایک ہی ریلے میں دشمن کی صفیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیں۔ میدان میں "اسلام زندہ باد" "غرناطہ زندہ باد" "الزغل زندہ باد" اور "مجاہدین زندہ باد" کے نعرے بلند ہونے لگے۔

فرڈینینڈ کی فوج کے تین ہزار سواروں نے میدان چھوڑ کر جنگل کا رخ کیا اور باقی فوج نے ہتھیار پھینک دئے۔

قیدیوں میں دو ہزار کے قریب فرڈینینڈ کے نائٹ اور فوج کے اعلیٰ افسر بھی تھے۔

(۴)

ابو عبداللہ امام حجت کے لئے مالقہ کی طرف روانہ ہوا۔ اُسے معلوم ہو چکا تھا کہ الزغل مالقہ چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف جا چکا ہے اور مالقہ کی حفاظت کے لئے بہت کھوڑی فوج ہے۔ اس کے علاوہ اُسے یہ بھی تسلی تھی اگر وہ بہت جلد شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو بھی چند دن میں فرڈینینڈ کی افواج پہاڑی قبائل کی سرکوبی کی مہم سے فارغ ہو کر اس کی مدد کے لئے پہنچ جائیں گی۔ لیکن الزغیری نے شہر سے باہر نکل کر اس کا مقابلہ کیا۔ الزغیری کی فوج کی تعداد کھوڑی تھی لیکن اس کے سپاہیوں میں ابو عبداللہ کے کوائے کے سپاہیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ جوش و خروش تھا جب افواج آمنے سامنے ہوئیں تو الزغیری نے اپنی فوج کے سامنے ایک پُر جوش تقریر کرتے ہوئے کہا:

"دشمن کی تعداد تم سے زیادہ ہے لیکن یاد رکھو کہ غدار کبھی بہادر نہیں ہوتے۔ آج تمہاری جنگ اپنی بقا کے لئے ہے۔ اگر میدان میں تمہارے پاؤں اکھڑ گئے تو مالقہ پر ابو عبداللہ کے ہاتھوں سے فرڈینینڈ کا جھنڈا نصب ہوگا۔ خدا کی اعانت پر بھروسہ کرو۔ یہ ملت فردوس اور کرائے کے سپاہی تمہارے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتے۔ ابو عبداللہ کا سب سے بڑا سہارا فرڈینینڈ ہے لیکن تم یہ خوش خبری سن چکے ہو کہ عتاب کی وادی میں اُس کی آدمی فوج مجاہدین کی ٹھہری

جماعت کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ انشاء اللہ
 آج کل میں تم یہ بھی سن لو گے کہ سیرانویدا میں اُس کی باقی
 فوج کا بھی یہی حشر ہوا ہے۔ مجاہدو! آگے بڑھو۔ آج کے
 دن خدا نے فتح کے لئے جس گروہ کو منتخب کیا ہے وہ
 تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔“

ابو عبد اللہ اور اس کے بیشتر ساتھی شہر کے محاصرہ کا خیال لے کر آئے تھے۔ الزغیری
 جیسے سرفروش کے ساتھ کھلے میدان میں نبرد آزما ہونا اُن کی خواہش کے عین خلاف تھا! بھی
 وہ شش و پنج میں تھے کہ الزغیری کی فوج کا ایک سالار گھوڑا بھگاتا ہوا میدان میں آیا اور
 اس نے بلند آواز میں کہا:

”مسلمان صرف حق کے لئے لڑتا ہے۔ اگر تم میں سے
 کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے تو میں اُسے مقابلہ کی دعوت
 دیتا ہوں۔ اگر تمہارے دل یہ گواہی دیتے ہیں کہ تم حق پر
 نہیں ہو تو یقین کرو کہ تم ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے۔ تم
 فرطی غیب کی مدد کے بھروسے پر آئے ہو لیکن یقین جانو اُس
 کا ایک سپاہی بھی تمہاری مدد کے لئے نہیں آئے گا۔ عفا
 کی دادی میں اس کی آدھی فوج تباہ ہو چکی ہے اور سیرانویدا
 میں اس کی باقی فوج ہمارے سالارِ اعظم کے گھیرے میں
 آ چکی ہے لیکن ابو عبد اللہ! اس کے باوجود اگر تم لڑنا چاہتے
 ہو تو خود میدان میں آؤ۔ شاید تمہارا انجام ان گمراہ لوگوں کو
 راہِ راست پر لاسکے۔“

ابو عبد اللہ نے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور اُن کے چہروں پر مایوسی دیکھ کر کہا۔

”یہ جھوٹ ہے۔ تم ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ فریڈنبرگ کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔“
 ابو عبد اللہ کے اشارے پر ایک بربربن سردار گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھا۔ مالقہ کے
 مجاہد نے نیزہ بلند کیا اور گھوڑے کو ایک چکر دے کر حملہ کر دیا۔ ان کی آن میں ابو عبد اللہ کی فوج
 بربربن سردار کو زمین پر تڑپتا دیکھ رہی تھی۔

الزبیری کی فوج اس کے اشارے کی منتظر تھی۔ الزبیری نے نیزہ بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر
 کا نعرہ لگایا اور مالقہ کے مجاہدین آندھی کی طرح ابو عبد اللہ کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔

ایک ساعت کے بعد ملت فروشوں کا لشکر میدان میں چار سو لاشیں چھوڑ کر غرناطہ کا
 رخ کر رہا تھا۔ الزبیری نے تھوڑی دُور اُن کا تعاقب کیا لیکن مالقہ کو بغیر محفوظ سمجھ کر لوٹ آیا۔
 ابو عبد اللہ کے غرناطہ پہنچنے سے پہلے اہل شہر کو سیرانویدا اور عقاب کی وادی میں مسلمانوں
 کی شاندار فتح کی خبر مل چکی تھی۔ بازاروں اور گلیوں میں جشنِ فتح منایا جا رہا تھا۔ بعض لوگ مساجد
 میں جمع ہو کر الزغل کی درازی عمر کی دعائیں مانگ رہے تھے اور بعض چوراہوں میں جمع ہو کر غرناطہ
 کے شعراء سے مدحیہ باننازوں اور قبائلی مجاہدین کی شان میں قصائد سن رہے تھے۔
 ابو عبد اللہ کے الحرام میں داخل ہونے کے تھوڑی دیر بعد مارے شہر میں اُس کی شکست
 کی خبر مشہور ہو گئی اور لوگ محل کے دروازے کے سامنے جمع ہونے لگے۔ پرمیادوں نے دروازہ
 بند کر دیا۔

محل میں داخل ہوتے ہی ابو عبد اللہ کو اُس کے نائب السلطنت نے بتایا کہ میں دونوں
 محاذوں پر عیسائی فوج کی شکست کی تصدیق کر چکا ہوں۔ فریڈنبرگ کی شکست خوردہ افواج کے
 چند سپاہی بھٹکتے ہوئے غرناطہ کے پاس ایک بستی میں پہنچ گئے تھے۔ بستی کا سردار انہیں
 میرے پاس لے آیا۔ اُن میں سے ایک وہ تھا جس کی فوج عقاب کی وادی میں تباہ ہو چکی تھی
 اور باقی وہ تھے جو سیرانویدا میں الزغل کے حملے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ غرناطہ کی
 بہت سی چوکیوں کے محافظوں کی طرف سے بھی میرے پاس اس قسم کی اطلاعات پہنچی ہیں کہ

انہوں نے میدان سے بھاگے ہوئے عیسائیوں کی کئی ٹولیاں دیکھی ہیں۔ اہل شہر میں ان خبروں سے کافی جوش و خروش پیدا ہو گیا ہے اور طلبانے مفتی اعظم کے علاوہ آپ کے وفاء و شہادت سے کو قتل کر دیا ہے اور آپ کے ساتھ مہم پر جانے والے کئی سپاہیوں کے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔

ابو عبد اللہ نے تازہ صورت حالات پر غور کرنے کے لئے امرام کو دارالاسود میں جمع ہونے کا حکم دیا اور خود دوسرے کمرے میں بیٹھ کر ایک غلام کو حکم دیا کہ وہ ابو داؤد کو بلا لائے۔ غلام ابو داؤد کو بلانے چلا گیا تو ابو عبد اللہ اٹھ کر کمرے میں ٹھہرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد غلام نے واپس آ کر یہ اطلاع دی کہ ابو داؤد کہیں جا چکا ہے۔

ابو عبد اللہ نے پریشان ہو کر پوچھا: "کہاں؟"

غلام نے جواب دیا: "اس بات کا صرف داروغہ کو علم ہے اور شرف باریابی کی اجازت

چاہتا ہے۔"

ابو عبد اللہ نے کہا: "اُسے جلدی بلاؤ۔"

تھوڑی دیر کے بعد الحمرار کا داروغہ کمرے میں داخل ہوا اور ابو عبد اللہ کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔

ابو عبد اللہ نے سوال کیا: "تمہیں معلوم ہے ابو داؤد کہاں گیا ہے؟"

داروغہ نے جواب دیا: "اُس نے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل میں

کہیں جا رہا ہے۔"

"وہ غرناطہ سے کہیں باہر گیا ہے۔"

"وہ یہاں سے گھنی پروانہ ہوا تھا۔ اپنا ضروری ساز و سامان بھی ساتھ لے گیا ہے۔"

"جاؤ اس کے گھر سے پتہ کرو۔ نہیں میں خود جاتا ہوں۔" ابو عبد اللہ دروازے کی طرف

بڑھا لیکن داروغہ نے کہا: "اس کا مکان خالی ہے۔"

”کیا کہا؟“

”وہ سب جاچکے ہیں۔“

”ابو عبد اللہ نے انتہائی بدحواسی میں داروغہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: وہ کب

گئے؟“

”آج دوپہر کے وقت۔“

”تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟“

”آپ کے حکم کے بغیر میں یہ جرات کیسے کر سکتا تھا؟“

”اُن کے پاس کوئی اپیلچی آیا تھا؟“

”نہیں۔ لیکن معلوم ہوتا تھا کہ وہ عیسائیوں کی شکست کی خبر سن کر بہت پریشان تھے۔“

”کیا میرے لئے کوئی پیغام چھوڑ گئے ہیں؟“

”نہیں وہ یہ کہتے تھے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل میں کہیں جا رہے ہیں۔ الحمار کے دروازے

پر چونکہ لوگوں کا ہجوم تھا اس لئے انہیں عقبی دروازے باہر نکلتا پڑا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ

باہر کوئی انہیں دیکھ کر پہچان سکے اس لئے انہوں نے ایک مراکشی تاجر کا لباس پہن رکھا

تھا۔“

ابو عبد اللہ نے داروغہ کو رخصت کیا اور تھوڑی دیر تنہائی میں سوچنے کے بعد امرار کے

کرے میں داخل ہوا۔

(۵)

ابو عبد اللہ کے ساتھی شکست خوردہ ذہنیت کے وہ لوگ تھے جنہوں نے آنے والی جنگوں

میں مسلمانوں کی شکست یقینی سمجھ کر اپنا مستقبل عیسائیوں کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا۔ ابو داؤد

انہیں یقین دلا چکا تھا کہ فرزندِ نبیؐ وقت آنے پر انہیں اُن کی غداری کا صلہ ضرور دے گا لیکن

فرٹنیٹڈ کی شکست اور ابو داؤد کے اچانک غائب ہو جانے سے ان کی پریشانی کی کوئی حد نہ رہی۔

جب ابو عبد اللہ دارالاسود میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں بہت سی کرسیاں خالی ہیں۔ پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ بعض اُمراء عیسائیوں کی شکست کی خبر سن کر روپوش ہو گئے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ الزغل کے ساتھ جا ملے ہوں اور چند غرناطہ کے مظاہرین کے ساتھ مل گئے ہوں۔

ابو عبد اللہ نے حاضرین سے پوچھا: اب آپ کی کیا رائے ہے؟
 وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بالآخر ایک سردار نے اٹھ کر کہا: سلطان معظم! الزغل کی افواج عنقریب غرناطہ کے دروازے پر کھڑی ہوں گی۔ عوام کے جوش و خروش کی یہ حالت ہے کہ اگر المجرار کی حفاظت کے لئے ناقابل تخیر فصل اور آہستی دروازے نہ ہوں تو آج وہ ہم میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑیں۔ جن لوگوں پر ہمیں بہت زیادہ بھروسہ تھا وہ ان کی راہنمائی کر رہے ہیں۔ ہماری فوج مالقہ کی شکست کے بعد الزغل سے جنگ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ اگر وہ غرناطہ پر قابض ہو گیا تو صرف سرحدی عقاب کے بدلے میں وہ ہم سب کو پھانسی پر لٹکا دے گا۔ ہمارے لئے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ ہم غرناطہ چھوڑ کر فرٹنیٹڈ کی پناہ میں چلے جائیں۔ وہ اپنی شکست کا بدلہ ضرور لے گا۔ مجھے یقین ہے کہ فرٹنیٹڈ نے اس مہم پر بہت تھوڑی فوج بھیجی تھی اور وہ اس شکست پر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ سر دست غرناطہ ہمارے لئے غیر محفوظ ہے۔ اگر یہ محفوظ ہوتا تو ابو داؤد اچانک اس طرح غائب نہ ہو جاتا۔ اب ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم الزغل کے انتقام سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔

دوسرے اُمراء نے یکے بعد دیگرے اس تجویز کی حمایت کی۔ ابو عبد اللہ سر جھبکا کر دیر تک سوچا رہا۔ بالآخر اس نے کہا: اگر آپ سب کی رائے یہی ہے تو میں اس کی مخالفت نہیں

کروں گا۔“

سردار نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا: ”تو بہتر ہے کہ ہم بہت جلد یہاں سے نکل جائیں۔ میرے خیال میں رات کا وقت بہتر رہے گا لیکن آج مشتعل ہجوم الحمراس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہے۔ اس لئے ہمیں کل رات کے لئے تیار رہنا چاہیے۔“

ابو عبداللہ نے مجلس برخاست کی اور وزیر اعظم کو تھوڑی دیر کے لئے ٹھہرنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر دونوں اپنے مستقبل کے متعلق مختلف تجاویز پر غور و خوض کرتے رہے۔

ابو عبداللہ نے کہا: ”کیا آپ کو یقین ہے کہ فرڈینینڈ اس قدر نقصان اٹھانے کے باوجود میرا کھریا ہوا تخت و تاج واپس دلانے کے لئے ایک اور جنگ کے لئے تیار ہو جائے گا کیا وہ ایک شکست خوردہ اور کمزور دوست کے لئے جنگ کرنے کی بجائے میرے چچا کو ایک طاقتور دشمن سمجھ کر اس کی طرف مصالحت کا ہاتھ نہیں بڑھائے گا؟ فرض کیجئے اگر والد اور چچا کے ساتھ مصالحت کی خواہش میں اُس نے مجھے اور میرے ساتھ آپ کو اُن کے حوالے کر دیا تو؟“

وزیر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا: ”اس بات کا فیصلہ مستقبل کے واقعات کریں گے کہ ہمارا قدم صحیح تھا یا غلط، بہر حال ہم اپنا مستقبل فرڈینینڈ کے ساتھ وابستہ کر چکے ہیں۔ اب ہمارے لئے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ہم اس کے پاس پہنچ جائیں۔ ابو داؤد وہاں پہنچ چکا ہے اور اس کی موجودگی میں اگر فرڈینینڈ، الزغل یا آپ کے والد کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو یہ ایک معجزہ ہوگا۔ آپ پریشان نہ ہوں جب تک فرڈینینڈ اپنی گزشتہ شکستوں کا انتقام نہیں لیتا اسے ہماری ضرورت رہے گی۔“

الحمراس کا داروغہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر ادب سے سلام کرنے کے بعد کہا: ”شمالی سرحد کا ناظم اعلیٰ شرف باریابی کی اجازت چاہتا ہے۔“

ابو عبداللہ نے داروغہ کی طرف دیکھا اور ہنچلا کر کہا: ”تمہیں معلوم نہیں کہ ہم اس وقت وزیر اعظم کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔“

داروغہ نے کہا: "سلطان معظم! میں نے اُسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ ملاقات کے لئے مصر ہے۔ وہ کوئی اہم خبر لے کر آیا ہے۔"

وزیر نے کہا: "لیکن وہ اس وقت الحرام میں کیونکر داخل ہوا؟" داروغہ نے جواب دیا: "آج شام سلطان معظم کی آمد سے تھوڑی دیر قبل شہر کی ایک معزز خاتون جنہیں ملکہ عالیہ نے ہر وقت الحرام میں آنے کی اجازت دے رکھی ہے ملکہ عالیہ کے پاس اس کا کوئی پیغام لے کر آتی تھیں اور ملکہ عالیہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اُسے محل میں بلاؤں۔"

ابو عبداللہ نے پوچھا: "ملکہ اس سے مل چکی ہیں؟" "ہاں۔ اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے لئے ملاقات کی اجازت حاصل کر لوں۔"

ابو عبداللہ نے پوچھا: "وہ اس وقت کہاں ہے؟" "وہ باہر دروازے پر کھڑا ہے۔ وہ اس بات پر مصر تھا کہ میں اسے الحرام کی مجلس میں ہی حضور کی خدمت میں پیش کر دوں لیکن میں نے اُسے بڑی مشکل سے روکا۔ وہ انت پریشان ہے۔"

ابو عبداللہ نے کہا: "اگر وہ یہ خبر لے کر آیا ہے کہ فرڈینینڈ کی افواج کو شکست ہو چکی ہے تو کہہ دو کہ ہم اس سے نہیں مل سکتے۔" "سلطان معظم! وہ زخمی ہے اور ملکہ عالیہ کا ارشاد ہے کہ اس کا آپ سے ملنا اشد ضروری ہے۔"

ابو عبداللہ نے کہا: "اچھا بلاؤ اُسے۔" داروغہ سلام کر کے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک قوی سیکل نو جوان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی پیشانی پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی اور گلے میں بندھے ہوئے رومال کے ساتھ وہ

اپنے بائیں بازو کو سہارا دتے ہوئے تھا۔

”سلطانِ معظم؟“ اس نے ادب سے سلام کرنے کے بعد کہا۔ ”میں اس وقت آپ کے آرام میں مغل ہونے کی گستاخی پر معذرت چاہتا ہوں لیکن میرے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ضروری تھا۔“

ابو عبداللہ نے کہا: ”تم زخمی ہو۔“

اس نے بے پروائی سے جواب دیا: ”یہ زخم معمولی ہیں۔ میں آپ کی خدمت ایک افسوسناک خبر لے کر آیا ہوں۔“

ابو عبداللہ نے کہا: ”اگر تم یہ خبر لے کر آئے ہو کہ میرا چچا غرناطہ پر حملہ کرنے والا ہے یا فزڈی نینڈ کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی ہے تو تم ہماری معلومات میں اضافہ نہیں کر سکو گے۔“

”سلطانِ معظم! میں صرف اپنے علاقے کے متعلق کچھ کہنے آیا ہوں۔“

”وہاں لوگوں نے ہمارے خلاف بغاوت کر دی ہوگی۔ ہمیں ایسی خبروں سے بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ تمہارے علاقہ کے باغی ہمارے خلاف غرناطہ کے باغیوں سے زیادہ پُرجوش نعرے نہیں لگاتے ہوں گے۔“

”نہیں میں باغیوں کی نمائندگی کرنے کے لئے نہیں آیا۔ حضور کے کانوں تک مظلوموں کی آواز پہنچانے آیا ہوں۔ شکست کھا کر بھاگنے والی عیسائی فوج نے انتقامی جذبہ کے تحت ہر جگہ پر تباہی مچا دی ہے۔ انہوں نے ہماری پندرہ بستیاں جلا ڈالی ہیں۔ لوگوں کے مال و متاع کے علاوہ چالیس کے قریب نوجوان لڑکیاں چھین کر لے گئے ہیں۔ سرحد پار کی بہت سی چوکیوں کے عیسائی سپاہی بھی ہمارے علاقہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ میرے پاس کل پانچ سو سپاہی تھے۔ جن میں سے تین سو کے قریب مارے جا چکے ہیں۔ حملہ آوروں کی تعداد میں ہر گھڑی اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں میں سے ہر ایک کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں انہوں نے اعلان کئے بغیر ہمارے خلاف جنگ شروع کر دی ہے۔ سرحد کا علاقہ خالی ہو رہا ہے۔ اگر

ہم نے اس وحشت اور بربریت کے طوفان کو فوراً نہ روکا تو دو تین دن میں کئی ہزار سپاہ گزین اپنے گھر بار چھوڑ کر غرناطہ پہنچ جائیں گے۔

ابو عبداللہ نے کہا: ان حالات میں تم مجھ سے کیا توقع رکھ سکتے ہو؟
 نوجوان نے قدرے جوش کے ساتھ کہا: میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا۔ میں سلطانِ معظم کے کانوں تک اپنی قوم کی ان بیٹیوں کی آواز پہنچا چکا ہوں جن کی عصمت لٹ رہی ہے، جن کے کم سن بچے اُن کے سامنے قتل کئے جا رہے ہیں۔ اگر سلطانِ معظم مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتی ہیں تو میں یہ جواب دوں گا کہ ہمیں ان ڈاکوؤں اور لٹیروں کے خلاف فوراً اعلانِ جنگ کر دینا چاہیے۔

ابو عبداللہ نے کہا: ہمارے لئے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مشتعل لوگوں کو الحرام سے کیونکر دور رکھا جائے۔ اگر تمہیں ہماری مشکلات کا اندازہ نہیں تو خود جا کر دروازے کے سامنے جمع ہونے والے لوگوں کو دیکھ لو۔

”میں انہیں دیکھ چکا ہوں اور یہاں بھی ان کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نصرانی ہمارے دشمن ہیں۔ انہوں نے ہسپانیہ میں اپنی مسلم رعایا پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے اور اب وہ مملکتِ غرناطہ میں بھی یہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔“
 ابو عبداللہ نے کہا: تمہارے کان اس قدر تیز ہیں لیکن تم یہ نہیں سن سکتے کہ ابو عبداللہ غدار ہے۔ الحرام کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔

ناظم نے کہا: ”میں سب کچھ سن چکا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے ہیں۔ وہ آپ کو اپنا محافظ اور نگران سمجھتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سلطان، ان کا محافظ اور نگران آنے والے خطرات کے مقابلہ کے لئے ان کی راہنمائی کرے گا۔ اگر وہ آپ کو غیر سمجھتے توں پتے دلانے پر اس طرح جمع نہ ہوتے۔ وہ مشتعل ہیں لیکن آپ کے چند الفاظ اُن کا جوش عروش ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ نہیں بلکہ اُن کے جوش کا سُخ دوسری طرف پھیر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر انہیں

اپنے سرحدی بھائیوں کی مصیبت کا علم ہو جائے اور ان کے سامنے یہ اعلان کر دیں کہ نصرانیوں کو اس ظلم کی سزا دی جائے گی تو ان میں سے ہر شخص آپ کے جھنڈے تلے لڑنے مرنے کے لئے تیار ہوگا۔ ورنہ ؟

ابو عبداللہ نے ناظم کو مذہب دیکھ کر سوال کیا۔ "ورنہ کیا؟"
 ناظم نے جواب دیا۔ "ورنہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی تمام توقعات الزغلی سے وابستہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔"

ابو عبداللہ نے کہا۔ "وہ اپنی توقعات الزغلی سے وابستہ کر چکے ہیں۔"
 "لیکن سرحد پر نصرانیوں کے طرز عمل نے یہ واضح کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے متعلق ان کے کیا ارادے ہیں۔ اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ ہم ایک ہو جائیں۔ اگر اسی وقت آپ فوج کو سرحد کے حملہ آوروں کی سرکوبی کا حکم دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر سپاہی کے بدلے ہمیں غرناطہ کے عوام سے دس رضا کار مل جائیں گے۔ یہ ہماری تمام گزشتہ غلطیوں کا کفارہ ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے چچا کھنی پھلی تمام رنجشوں کو بھول جائیں گے۔"
 وزیر نے ابو عبداللہ کو متاثر ہوتا دیکھ کر کہا۔ "سلطان معظم کے کسی فعل کو غلطی کہنا جرم ہے اور تم فوج کے ذمہ دار افسر ہو۔"

"اگر مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا تو شاید یہ باتیں میرے منہ سے نہ نکلتیں۔"
 ابو عبداللہ نے کہا۔ "اس وقت ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تم جا کر آرام کرو کل دیکھا جائے گا۔"
 ناظم نے کہا۔ "سلطان معظم! میں فوراً سرحد پر پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہماری کئی بستیاں تباہ ہو چکی ہوں گی۔ اگر آپ صبح تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تو مجھے کم از کم فوج کے پانچ سو سو اے دے دیجئے۔ مجھے یقین ہے کہ میں طلوع آفتاب سے پہلے کم از کم دو ہزار رضا کار تیار کر لوں گا لوگوں کو صرف یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ عیسائیوں کے مظالم برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں۔"

وزیر نے کہا: ہم فرٹھینڈ کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر چکے ہیں۔“

”اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں سلطانِ معظم سے پوچھے بغیر رضا کاروں کی ایک فوج لے کر

چلا جاتا۔“

وزیر نے کہا: ہم علی الصباح فرٹھینڈ کے پاس اپنا لٹچی بھیج کر احتجاج کریں گے۔ مجھے

یقین ہے کہ ہماری سرحد پر عیسائیوں کا یہ حملہ اس کی مرضی اور علم کے بغیر ہے۔“

ناظم نے جواب دیا: ”بکری کا احتجاج بھڑے کی نخصلت نہیں بدل سکتا۔“

ابو عبداللہ نے بگڑ کر کہا: ”تم جاسکتے ہو۔ اگر ہمیں کسی وقت تمہارے مشوروں کی ضرورت

ہوتی تو ہم تمہیں بلا لیں گے۔ اس وقت ہمیں آرام کی ضرورت ہے۔“

”تو کیا سلطانِ معظم کا یہ حکم ہے کہ ہم ان بے کس لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں؟“

ابو عبداللہ نے رنج ہو کر کہا: ”ہم نے ابھی تک تمہیں کوئی حکم نہیں دیا۔ تم صبح تک انتظار کرو۔

کل تک تم ہمارے مہمان ہو۔“ ابو عبداللہ نے تالی بجائی۔ ”الحمد للہ کا دار و فرکرے میں داخل ہوا ابو عبداللہ

نے کہا: ”انہیں مہمان خانے میں لے جاؤ۔“

ناظم سرحد نے پریشانی اور اضطراب کی حالت میں وزیر اور سلطان کی طرف دیکھا اور کچھ

کے بغیر باہر نکل گیا۔

ایک کروٹ

(۱)

وزیر اعظم کو رخصت کرنے کے بعد ابو عبد اللہ انتہائی پریشانی کی حالت میں حرم سرا میں داخل ہوا جب وہ اپنی بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا تو ایک کنیز نے ادب سے سلام کرنے کے بعد کہا: "ملکہ عالیہ اور حضور کی والدہ الحمار کے بڑے دروازے کے بوج میں تشریف فرما ہیں انہیں اطلاع ملی تھی کہ حضور دیر تک مصروف رہیں گے۔ وہ ابھی وہاں گئی ہیں۔"

ابو عبد اللہ تذبذب کی حالت میں تھوڑی دیر کھڑا رہا اور پھر بولا: "وہ مظاہرین کی آوازیں یہاں بیٹھ کر بھی سن سکتی تھیں۔" ابو عبد اللہ کے الفاظ میں تلخی سے زیادہ بے بسی تھی۔
کنیز نے کہا: "اگر حضور کا حکم ہو تو انہیں حضور کی آمد کی اطلاع دی جائے۔"
ابو عبد اللہ نے جواب دیا: "نہیں ہم خود وہاں جاتے ہیں۔"

ابو عبد اللہ سر جھکائے گہری سوچ میں حرم سرا سے باہر نکلا۔ دروازے کے پرے دار حسب معمول اس کے پیچھے پیچھے چل دیئے لیکن اُس نے مڑ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
"ہم تخلیہ چاہتے ہیں۔"

پہریدار لوٹ گئے۔ ابو عبد اللہ سنگ مرمر کی روشنی پر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا
بڑے دروازے کی طرف بڑھا۔

باہر منظر ہریں کے نعرے اُسے زیادہ صاف طور پر سنائی دینے لگے۔ بُرج کی سیڑھیوں کے
قریب پہنچ کر وہ رُکا اور تذبذب کی حالت میں دیر تک وہاں کھڑا رہا۔ وہ اپنی بیوی کو اپنی زندگی
کے ایک تلخ اور اہم فیصلے سے آگاہ کرنے جا رہا تھا اور ابھی تک اُسے خود بھی یہ یقین نہ تھا کہ وہ
اپنے فیصلے پر کہاں تک عمل کر سکے گا۔ اس کی زندگی کے بہت تھوڑے لمحات ایسے تھے جو
اس نے الحمازہ کی چار دیواری سے باہر گزارے تھے۔ یہی اس کی دنیا اور یہی اس کی جنت تھی اور
اب حالات اُسے اس جنت کو خیر باد کہنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس نے اپنے دل میں کہا۔ "کیا یہ
ممکن ہے کہ میں جیتے جی الحمازہ کو چھوڑ دوں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میرے لئے الحمازہ کے دروازے
ایک بار بند ہونے کے بعد پھر کھل جائیں۔ مجھے اس مقصد کے لئے فرڈینینڈ سے مدد لینا پڑے گی۔
اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور وہ خوشی سے میری مدد کرے گا لیکن اب مجھے صرف اپنے چچا اور پاپ
کے خلاف ہی نہیں بلکہ اپنی باغی رعایا کے خلاف بھی فرڈینینڈ کی تلوار کا سہارا لینا پڑے گا لیکن
کیا ان شکستوں کے بعد فرڈینینڈ صرف میرے لئے ایک ایسی جنگ کے لئے آمادہ ہو جائے گا
جس کے نتائج اس کے لئے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ کیا اس کی آخری شکست میری اور میرے
ساتھیوں کی عبرتناک تباہی کا باعث نہ ہوگی؟ اور اگر اُسے فتح بھی حاصل ہوتی تو کیا وہ مجھے
اپنی فتح کے تمام انعامات کا حق دار تسلیم کر لے گا؟"

وہ خود ہی ان سوالات کا جواب دے رہا تھا۔ ابو عبد اللہ! تم غرناطہ کے آسمان پر ایک
محموس ستارہ ہو۔ فرڈینینڈ کے ہاتھوں سے اپنے لئے غرناطہ کے بند دروازے کھلوانے کا یہ
مطلب ہوگا کہ غرناطہ کے مسلمانوں کی تمام قوتِ مدافعت کچل دی جائے۔ الحمازہ کے دروازے پر
مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگا دئے جائیں۔ یہ لوگ جو اس وقت نعرے لگا رہے ہیں تمہارے
اس تخت کا احترام نہیں کریں گے جو تمہیں فرڈینینڈ کی مدد سے حاصل ہوگا۔ وہ تخت جس کے

نیچے مسلمانوں کی لاشیں تڑپ رہی ہوں گی وہ تمہیں ہمیشہ غدار کہیں گے۔ لیکن اب میرے سامنے صرف اپنی جان بچانے کا مسئلہ ہے۔ میں یہاں ایک یا دو دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ میرا چچا یقیناً غرناطہ پہ حملہ کرے گا۔ یہ مشتعل لوگ اس کا ساتھ دیں گے اور پھر وہ میرے مفلوج باپ کو کٹھ پتلی بنا کر غرناطہ پر حکومت کرے گا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس مقصد کے حصول کے بعد وہ فرد نینڈ سے علیح کرے۔ کیا فرد نینڈ صرف میرے لئے اس کی دوستی کا ہاتھ ٹھکانے کا کیا وہ اپنے مفاد کی خاطر مجھے الزغلی کے سپرد نہیں کرے گا؟ کیا میں نے اپنی خواہشات پر اپنے باپ تک کو قربان نہیں کیا؟ مالقہ کی معمولی فوج سے شکست کھانے کے بعد فرد نینڈ کے دل میں میری کیا وقعت ہوگی؟

اس قسم کے پریشان خیالات کا رخ بدلنے کے لئے وہ ابو داؤد کی جادو بیانی کا سہارا لیا کرتا تھا۔ ابو داؤد کی موجودگی میں اس نے کبھی زیادہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ اب تک اس نے جو غلطیاں کی تھیں وہ زیادہ تر اس لئے تھیں کہ ابو داؤد نے اسے ان غلطیوں کے بھیانک پہلوؤں پر غور کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ اسے ذرا سنجیدہ دیکھتا تو فوراً کہہ دیتا تھا کہ اندلس کو اپنے دماغ میں ایسے خیالات کو جگہ نہیں دینی چاہیے۔ بادشاہوں کو ایسے مراحل سے گزرنے پڑتا ہے۔ ایک حکمران کا دل بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ ابو داؤد ہی تھا جس نے اس کی زندگی کی پُر سکون کشتی کے ساتھ بادبان باندھ کر اسے حوادث کے سمندر کی طرف دھکیلا تھا۔ اور وہ ابو داؤد ہی تھا جو ہر نئے بھنور میں اسے تسلی دیا کرتا تھا اور اب یہ کشتی اس خطرناک چٹان کے قریب پہنچ چکی تھی جسے ابو داؤد نے آج تک اپنے تباہی گرد کی آنکھوں سے اوجھل رکھا تھا۔

ابو عبد اللہ ابستہ آہستہ پینچ در پینچ سیرٹھیں میں سے گزرتا ہوا اوپر پہنچا۔ برج کی گیلری میں اس کی والدہ اور بیوی کے علاوہ چند اور خواتین کھڑی تھیں۔ بچے جہانک رہی تھیں۔ مظاہرین کی چیخ و پکار کے باعث کسی کو ابو عبد اللہ کے پاؤں کی آہٹ سنانی نہ دی۔ وہ کچھ دیر گنبد کے

نیچے خاموش کھڑا رہا۔ نیچے دروازے کے سامنے وسیع میدان میں عوام کا بے پناہ ہجوم یہ نعرے لگا رہا تھا: "ابو عبداللہ غدار ہے۔" "ابو عبداللہ قوم فروش ہے۔" "ابو عبداللہ کو پھانسی پر لٹکا دو۔" "الحمرار کو جلا دو۔"

بعض لوگوں کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں اور بعض اپنے نیزے اور تلواریں بلند کر رہے تھے۔ ابو عبداللہ نے اپنے دل سے سوال کیا: "کیا فرڈینینڈ کی مدد سے میں ان لوگوں پر حکومت کر سکوں گا؟" "نہیں نہیں۔" اُس نے خود ہی جواب دیا: "یہ ممکن ہے کہ فرڈینینڈ میرے لئے غرناطہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے اور غرناطہ کے ہر چوراہے پر ان لوگوں کی لاشوں کے انبار لگا دے۔ لیکن یہ ممکن نہیں کہ وہ انہیں میری اطاعت پر مجبور کر دے۔ کیا میرے ہاتھوں غرناطہ کی تباہی مقدر ہو چکی ہے؟" وہ اس خیال سے کپکپا اٹھا۔ وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا "ابو عبداللہ! تمہارے لئے اب ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ تم اس تخت و تاج سے ہمیشہ کے لئے دست بردار ہو جاؤ۔ تم اُندلس کی سرزمین سے روپوش ہو جاؤ۔ لیکن تم کہاں جاؤ گے؟ فرڈینینڈ کے پاس؟ نہیں وہاں جانے کا یہ مطلب ہو گا کہ تم اس کے ہاتھوں غرناطہ کو تباہ کرنے کا عزم کر چکے ہو۔ وہ تمہیں ہمیشہ اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرتا رہے گا۔ تم اس کی خواہشات کی تکمیل سے انکار نہیں کر سکو گے اور اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اُندلس کو مسلمانوں کے وجود سے پاک کیا جائے۔ تم بھڑوں کی گلہ بانی کے لئے ایک بھیڑے کی مدد چاہتے ہو تم فرڈینینڈ کے پاس نہیں جاؤ گے۔ آج تک تم اُس کے آلہ کار تھے اور وہ اب وہ بھی شاید اسی کا آلہ کار تھا اور تم نے شاید اس شخص کے اشاروں پر ناچنے کی حماقت کی جو فرڈینینڈ کا معمولی نوکر تھا۔ تمہیں اس پر بھروسہ تھا لیکن جب وقت آیا وہ تمہارا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تم اس کے ہاتھ میں ایک کھلونا تھے۔ اُس نے تمہیں تمہارے باپ کے خلاف اُکسایا اور تم نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس نے تمہیں ابو موسیٰ کو گرفتار کرنے کا مشورہ دیا اور تم نے اپنے بہترین دوست کو قید میں ڈال دیا۔ اُس نے تمہیں سرحدی عقاب کے قتل کا مشورہ دیا اور تم

اندلس کے مسلمانوں کو ان کے بہترین دوست سے محروم کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس نے تمہارے ہاتھ میں مشعل دی اور تم اپنے خرمین میں آگ لگانے پر تیار ہو گئے۔ اُس نے تم سے وہ جرم بزرگ کروائے جو تمہارے دہم دگمان میں بھی نہ تھے اور جب سزا کا وقت آیا تو وہ تمہیں غرناطہ کے عوام کی عدالت کے سامنے چھوڑ کر بھاگ گیا۔

ابو عبد اللہ کے دل میں پہلی بار ابوداؤد کے خلاف نفرت کا جذبہ بیدار ہوا۔ وہ تصور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا اتالیق فرطی نیند کے قریب بیٹھا ہوا اُس کی ہنسی اڑا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ابوالحسن کا بیٹا میری اور آپ کی توقع سے زیادہ بیوقوف تھا۔ میں اس لئے چلا آیا کہ اب اس سے کوئی اور کام نہیں لیا جاسکتا تھا۔

”مکینہ، دغاباز، ملعون — کاش میرے ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ سکتے“ ابو عبد اللہ نے محویت کے عالم میں یہ الفاظ اس قدر بلند آواز میں کہے کہ وہ خواتین جو گیلری میں اُس کی آمد سے بے خبر کھڑی تھیں چونک پڑیں۔

کچھ دیر تذبذب کے بعد ابو عبد اللہ کی والدہ آگے بڑھی اور اُس سے دو تین قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر ماں اور بیٹا چاند کی دھندلی روشنی میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔

ابو عبد اللہ نے نحیف آواز میں کہا: ”اگر اجازت ہو تو یہ مجلس برخواست کر دوں۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔“

ابو عبد اللہ کی ماں نے مُڑ کر خواتین کی طرف دیکھا اور وہ اس کا مقصد سمجھ کر نیچے اتر گئیں ابو عبد اللہ کی بیوی بھی اُن کے پیچھے چل پڑی لیکن ابو عبد اللہ نے کہا: ”بیگم کھڑو تم بھی۔“ وہ رُک گئی اور گنبد کے ایک سرے پر کھڑی ہو گئی۔ چاند کی دھندلی روشنی میں ماں، بیٹا اور بیوی تینوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور نیچے ہجوم کے نعرے بدستج بلند ہو رہے تھے۔ ”ابو عبد اللہ غدار ہے“ ”ابو عبد اللہ اسلام کا دشمن ہے“ لیکن ان

الفاظ کی نسبت ابو عبد اللہ کے لئے اپنی بیوی اور ماں کی خاموشی نگاہیں کہیں زیادہ ناقابل برداشت تھیں۔

ابو عبد اللہ نے اس خاموشی کو ناقابل برداشت محسوس کرتے ہوئے کہا: "غرناطہ کا غدار اپنی والدہ اور اپنی بیگم کے سامنے کھڑا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے بھی غرناطہ کے عوام کی طرح اس کے لئے کوئی مزا تجویز کی ہے؟"

ابو عبد اللہ کی ماں نے جواب دیا: "غرناطہ کے غدار کی ماں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ اپنی چھاتی سے دودھ پلایا تھا اور وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کاش وہ عوام کے ہجوم کے سامنے جا کر انہیں یہ بتا سکتی کہ وہ ایک ایسی ماں کا بیٹا ہے جس کے بھائی اور جس کا شوہر اس کی عصمت کی قسم کھا سکتے ہیں۔"

اگر برج کا گنبد ٹوٹ کر اس کے سر پر آگرتا تو بھی شاید ابو عبد اللہ اس قدر بوجھ محسوس نہ کرتا۔ اس نے انتہائی بے بسی کی حالت میں اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا: "امی! آج میں اپنا مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے لئے مزا تجویز کیجئے۔ مجھے کہئے کہ میں اس برج سے چھلانگ لگا دوں۔ مجھے کہئے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ ڈالوں۔"

اولوالعزم ماں کو بیٹے کے یہ الفاظ متاثر نہ کر سکے۔ اس نے کہا: "یہ تم صرف اس لئے کہہ رہے ہو کہ مائیں صرف رحم کی انجامیں سن سکتی ہیں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتیں۔ ابو عبد اللہ تم نے جس درخت کی آبیاری کی تھی وہ خاردار تھا۔ کاش! تمہاری ماں اس کے کانٹوں سے تمہارا دامن چھڑا سکتی۔ تم اپنی غلطیوں سے نادم نہیں ان کے نتائج سے بدحواس ہو۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں تسلی دوں لیکن آج تمہاری ماں کو تمہیں تسلی دینے کے لئے الفاظ نہیں ملتے۔ یہاں تک کہہ کر ابو عبد اللہ کی ماں کی آواز بلیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔"

ابو عبد اللہ نے آبدیدہ ہو کر کہا: "امی! اب میرے لئے نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ میں کل تک یہاں سے چلا جاؤں گا اور پھر کوئی میری صورت نہیں دیکھے گا۔" بیگم سے پوچھنا

چاہتا ہوں۔ عائشہ! بتاؤ کیا تم میرا ساتھ دینا چاہتی ہو؟“

عائشہ ایک لمحہ کے لئے خاموش رہی اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر بولی: ”آپ ہماری قوم کے دشمن کے پاس پناہ لینا چاہتے ہیں لیکن میں فرطینڈ کے محل میں رہنے کی بجائے غرناطہ کے قبرستان میں دفن ہونے کو ترجیح دوں گی۔“

ابو عبد اللہ کے ہونٹوں پر ایک دردناک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے اپنے آنسو چھپانے کے لئے منہ پھیر لیا۔ بچے سے اب نعروں کی بجائے کسی کی تقریر سنائی دے رہی تھی۔ ابو عبد اللہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا گیلیبی کی طرف بڑھا اور جھک کر بچے دیکھنے لگا۔ چاند مشعل برداروں کے درمیان ایک قد آور نوجوان کھڑا تقریر کر رہا تھا اور لوگ اس کے ہاتھ کے اشاروں پر اپنی اپنی جگہ بیٹھ رہے تھے۔ اس کی آواز میں رعب اور کشش تھی۔ ابو عبد اللہ نے غور سے دیکھنے پر اسے پہچان لیا۔ یہ وہی ناظم سرحد تھا جو کھوڑی دیر قبل اس کے دربار سے مایوس ہو کر نکلا تھا۔

(۲)

سرحد کا ناظم بلند آواز میں تقریر کر رہا تھا:-

”تم جس عبد اللہ کے خلاف نعرے لگا رہے ہو وہ مر

چکا ہے۔ وہ اس دن مر چکا تھا جب اس نے اپنے باپ

سے غدا، ہی کر کے غرناطہ کے تخت و تاج پر قبضہ کیا تھا۔ میں

اس کی لاش دیکھ آیا ہوں۔ تمہارے نعرے اس کی زندگی

میں عمارت پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک مردہ لاش کو چاہے

رسید کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کاش تم اس وقت آنکھیں

کھولتے جب تمہارے بعض سرداروں نے اس لاش کو غرناطہ

کے تخت پر بٹھا دیا تھا۔ آج وہ نصرانی جنہیں خوش کرنے کے
 لئے ابو عبد اللہ نے مالقہ پر حملہ کیا تھا ہماری سرحدی بستیوں
 کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ ابو عبد اللہ
 بے حس ہے لیکن تمہیں اس وقت اس کی بے حسی کا احساس
 نہ ہوا جب اس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی
 تھی۔ تم نے ایک نااہل کو غرناطہ کے تخت پر قابض ہوتے
 دیکھا اور خاموش رہے۔ ابو عبد اللہ نے اپنا مستقبل ہماری
 قہم کے دشمنوں کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا لیکن میں یہ
 کہتا ہوں کہ اس قومی گناہ میں تم بھی اس کے ساتھ شریک
 ہو۔ تمہاری بے حسی اور تمہاری مجرمانہ غفلت کے باعث
 غرناطہ کی حکومت ایسے شخص کے ہاتھ میں آگئی جو ذر ذر
 کے ہاتھوں میں ایک کھلونا ہے۔ اگر تم ابو عبد اللہ کو ایسا
 دلا سکتے کہ تم زندہ ہو اور تم اپنے مستقبل کے متعلق آنکھیں
 بند نہیں کرو گے تو وہ یقیناً ایسی غلطیاں کرنے کی جرات نہ
 کرتا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم اس جگہ جمع ہو کر ابو عبد اللہ
 کی بے حسی کا ماتم کر رہے ہو اور تمہاری اپنی بے حسی کا یہ
 عالم ہے کہ اس وقت سرحد پر عیسائی حملہ آور ہماری
 بستیاں تباہ کر رہے ہیں وہاں عورتوں، بچوں اور بوڑھوں
 کا قتل عام جاری ہے۔ ہزاروں گھر جلائے گئے ہیں اور
 سینکڑوں عورتوں کی عصمت لوٹی گئی ہے۔ میں تمہارے
 پاس ان کی فریاد لے کر آیا ہوں اور تم سے پوچھتا ہوں

کہ میں تمہاری طرف سے ان کے پاس کیا جواب لے کر جاؤں؟
 کیا میں واپس جا کر تمہاری بے کس بہنوں کو تمہاری طرف سے
 یہ جواب دوں کہ تمہاری عصمت کے رکھوالے اس وقت
 الحرام کے دروازے پر کھڑے ابو عبد اللہ کو گالیاں دینے کا
 مقدس فریضہ ادا کر رہے ہیں؟ میں تمہیں ابو عبد اللہ کو برا
 بھلا کہنے سے منع نہیں کرتا شاید فرصت کے وقت میں
 اہل کے خلاف تم سے زیادہ بلند آواز میں نعرے لگاؤں۔
 لیکن اب نعروں کا وقت نہیں عمل کا وقت ہے۔

میرے دوستو! قوم کا راہنما قوم کے کردار کا آئینہ
 ہوا کرتا ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ابو عبد اللہ بے حس ہے تو
 تم اس قوم کے متعلق کیا کہو گے جس نے اُسے اپنا حکمران
 تسلیم کر لیا تھا۔ ابو عبد اللہ بُزدل ہے اور اس پر نصرتیوں
 کے خوف کا بھوت سوار ہے لیکن یہ درست نہیں کہ جب
 ہمک سرحد کے جانبازوں اور الزغل کے مجاہدین نے تم پر
 یہ ثابت نہیں کیا کہ مسلمان کا لونا آج بھی ہر لوہے کو کاٹ
 سکتا ہے۔ تم بھی ابو عبد اللہ کی طرح نصرتیوں سے خائف
 تھے اور اس سے قبل جب تک ابوالحسن نے زبردستی
 تمہیں میدانِ جنگ کی طرف نہیں گھسیٹا تھا، تم نصرتیوں کے
 باجگزار رہ کر ذلت کی زندگی گزارنے پر مطمئن تھے؟
 یاد رکھو جب مستقبل کا مورخ یہ لکھے گا کہ ابو عبد اللہ
 ایک غلط اندیش اور پست ہمت انسان تھا تو اُسے یہ بھی

لکھنا پڑے گا کہ ابو عبد اللہ کی قوم میں ذلیل انسانوں کا ایک بہت بڑا گروہ ایسا تھا جس نے اپنے مخلص، بہادر اور دشمند حکمران سے غداری کر کے اس کے نالائق اور بزدل بیٹے کو اپنا راہنما تسلیم کر لیا ہے۔ میرے دوستو! ابو عبد اللہ نمران سے تمہاری بد اعمالیوں کی۔ ابو عبد اللہ تمہارے ان اکابرین کے ہاتھ میں ایک کھلوتا ہے جو فرد نیند کی علاجی کے طوق لعنت کو اپنا زیور سمجھتے ہیں۔

ابو عبد اللہ تمہارے جسم میں ایک ناسور ہے اور ناسور ہمیشہ اس جسم میں پیدا ہوتا ہے جس کا خون گندہ ہو چکا ہو جس درخت میں قوت نمو باقی نہ ہو اس پر جھنگل کی بلیں قبضہ جمالیتی ہیں۔ جب تک تم اپنے جسم میں صلاح خون پیدا نہیں کرتے تمہارے جسم پر ایسے ناسور ظاہر ہوتے رہیں گے۔

یاد رکھو! اگر تمہارے دلوں میں زندہ رہنے کی خواہش ہے اور تم اپنی عزت اور آزادی کی قیمت ادا کرنا جانتے ہو تو ابو عبد اللہ کی زندگی کی سرگزشت ایک انفرادی حادثہ بن جائے گی۔ مؤرخ لکھیں گے کہ ایک آوارہ مزاج اور بد طینت شہزادے نے ایک قوم کو اس کے دشمن کے ہاتھ فروخت کرنے کی کوشش کی لیکن اُسے ذلت کے سوا کچھ نصیب نہ ہوا لیکن اگر تم اپنی آزادی کی قیمت ادا کرنا نہیں جانتے تو مستقبل کے مؤرخ یہ لکھیں گے کہ وہ قوم ہی

ذلیل تھی اور اس کا انجام وہی ہوا جو کسی ذلیل قوم کا ہونا
 چاہیے تھا۔ ٹٹنے والی قوموں کی سب سے بڑی افسوسناک
 خصوصیت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ حقائق کی تلخیوں کو کھیل کھیل
 نعروں میں چھپایا کرتی ہیں۔ اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کا سارا
 بوجھ کسی نااہل فرد پر ڈال دیتی ہیں۔ ذرا غور کرو۔ تم یہ سمجھتے
 ہو کہ دشمن کے سامنے سینہ سپر ہونے کی بجائے ابو عبد اللہ
 کو برا بھلا کہنا آسان ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ دشمن کے قلعوں
 کے دروازے توڑنے کی بجائے الحماہ کا دروازہ توڑنا آسان
 ہے۔ تم یہاں اس لئے جمع نہیں ہوئے کہ تمہارا اس جگہ جمع
 ہونا ضروری تھا۔ نہیں بلکہ تم یہاں اس لئے جمع ہو کہ دشمن
 کے مقابلہ میں جنگ کی کلفتیں اٹھانے کی بجائے یہاں کھڑے
 ہو کر شور مچانا آسان ہے اور یہ بات ابو عبد اللہ کو بھی معلوم
 ہے کہ یہاں چند نعروں لگانے کے بعد تمہارا جوش و خروش
 ٹھنڈا ہو جائے گا اور تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ گے۔
 وہ جانتا ہے کہ تم وہ سیلاب نہیں جو اپنے سامنے آنے والی
 رکاوٹوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتا ہے۔ وہ یہ
 سمجھتا ہے کہ تمہاری مثال جوہڑ کے پانی کی سی ہے جس میں
 پتھر پھینکنے سے ایک ہلکا سا موج پیدا ہوتا ہے اور تھوڑی
 دیر کے بعد وہی موت کا سا سکوت طاری ہو جاتا ہے۔
 میں یہ نہیں کہتا کہ ابو عبد اللہ کے خلاف نعروں نہ
 لگاؤ لیکن یہ بھی تو دیکھو اس وقت تمہارے گھر جل رہے

ہیں۔ تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں اور وہ یہ پوچھ رہی ہیں کیا تم اسی قوم کے بیٹے ہو جو انسانیت کی محافظ بن کر اٹھی تھی کیا تم ہی وہ غیرت مند ہو جن کی تلواریں ظلم کے ہاتھ کاٹنے کے لئے بلند ہوتی تھیں؟ تمہاری مائیں۔۔۔ سوال کرتی ہیں کہ ہمارے جوانوں کو بیٹے کہاں ہیں؟ تمہاری بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ اس وقت جب ظلم کے ہاتھ ہماری عصمت کی طرف بڑھ رہے ہیں ہمارے غمور بھائی کہاں ہیں؟ اور تمہارے بوڑھے یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری سفید ڈاڑھیوں کی لاج رکھنے والوں کو کیا ہو گیا؟

کیا میں ان کے پاس تمہاری طرف سے یہ جواب لے جاؤں کہ تمہاری عزت، آزادی اور عصمت کے نگہبان اس وقت تمہارے نالائق حکمران کے خلاف نعرے لگانے میں مصروف ہیں اور انہیں تمہاری طرف توجہ دینے کی فرصت نہیں؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ بولو۔۔۔ جواب دو!

ایک نوجوان جذبات سے مغلوب ہو کر آگے بڑھا اور اس نے مقصد کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا۔۔۔ "آپ میدان کی طرف راہنمائی کریں۔ ہم میں سے کوئی ایسا بے غیرت نہیں جو آپ کا ساتھ دینے کے لئے تیار نہ ہو" دوسروں نے اس کی تقلید کی۔ تھوڑی دیر میں چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں۔ "ہم سب تیار ہیں؟ ہم سب تیار ہیں!" ہم دشمن سے انتقام لیں گے!

سرحد کے ناظم کا نام ابو محسن تھا۔ اس سے قبل اُسے کبھی اس بات کا احساس نہ ہوا تھا کہ اُس کی زبان میں اس قدر تاثیر ہے۔ لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کر اُس نے ہاتھ اٹھائے

اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ لوگوں کو اپنے الفاظ سے مسحور کرنے والا مقرر تھوڑی دیر خاموش کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو جمع ہو رہے تھے۔ اُس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ انتہائی کوشش کے بعد فقط یہ کہہ سکا۔ "میرے اللہ میری قوم کو فتح دے!"

تھوڑی دیر بعد ابو محسن پھر سنبھل چکا تھا۔ اس نے عوام سے مخاطب ہو کر کہا۔ "تم میں سے جو مسلح ہیں وہ قطاریں باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ جو مسلح نہیں وہ فوراً اپنے ہتھیار لے کر یہاں پہنچ جائیں۔ سردست میں صرف نوجوانوں کو ترجیح دوں گا۔ جو بڑی عمر کے ہیں انہیں ضرورت کے وقت بدلایا جائے گا۔ آپ وقت ضائع نہ کریں۔ ہمیں بہت جلد کوچ کرنا ہے۔"

(۳)

تیسرے پہرا الحمر کے دروازے کے سامنے پانچ ہزار مسلح رضا کار قطاریں باندھے کھڑے تھے اور ابو محسن گھوڑے پر سوار ان کی صفوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ دروازے کے اوپر ابو عبد اللہ، اس کی بیوی اور والدہ بروج میں کھڑے یہ تمام واقعات دیکھ رہے تھے ابو عبد اللہ کی نگاہیں ایک تکلیف دہ احساس کی ترجمانی کر رہی تھیں جب ابو محسن کی تقریر کے اختتام پر اس کی ماں نے یہ کہا کہ "بیٹا! تم تھکے ہوئے ہو، جاؤ آرام کرو۔" تو ابو عبد اللہ ضبط نہ کر سکا۔ اس نے سر پاپا التجابن کو کہا۔ "اتنی! مجھے معاف کر دیجئے اور اب بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟" بہادر ماں نے اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اپنی شو کی طرف دیکھا اور کہا "عائشہ اپنے کنگن اتار کر اپنے شوہر کو پیش کر دو۔ تم غرناطہ کی ملکہ ہو۔ جب سلطان غیر حاضر ہو تو ملکہ سلطنت کا بوجھ اٹھایا کرتی ہے۔ الحمر کے دروازہ کھول دو اور اپنی رعایا سے کہو کہ میرے شوہر کی ماں نے اُسے دودھ پلانے میں نخل سے کام لیا ہے اور اس کے باپ نے بھی اُسے مردوں کے کھیل نہیں سکھائے لیکن غرناطہ کی ملکہ تیروں کی بارش میں تمہارا ساتھ دے گی۔" عائشہ نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر اپنی ساس سے مخاطب ہو کر کہا۔ "اتنی!

میں اپنے شوہر کو کنگن پیش نہیں کر سکتی لیکن اگر یہ مجھے اپنی تلوار پیش کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔“

ابو عبد اللہ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اُس نے بلند آواز میں کہا: ”عائشہ! خدا کے لئے خاموش رہو۔“

ابو عبد اللہ کی والدہ نے کہا: ”ہاں عائشہ! میرا بیٹا بہت حساس ہے اسے پریشان نہ کرو۔“

ابو عبد اللہ نے انتہائی کرب کی حالت میں اپنی ماں اور عائشہ کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا سیر پھریوں کی طرف بڑھا۔ جب تک سیر پھریوں سے اترنے کی آہٹ سنائی دیتی رہی ساس اور ابو خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہیں۔ کھوڑی دیر کے بعد عائشہ نے کہا: ”امی! اگر واقعی آپ کی اجازت ہو تو میں ان مجاہدوں کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں۔“

ابو عبد اللہ کی ماں نے کہا: ”بیٹی! ان باتوں کے بعد میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ابو عبد اللہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا لیکن اگر قدرت نے ہماری قسمت میں دولت کے سوا کچھ نہیں لکھا تو میں عزت میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ دعا کرو کہ خدا ابو عبد اللہ کے بھٹکے ہمتے پاؤں کو صحیح راستے پر ڈال دے۔“

ساس اور ابو کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد گیلری میں کھڑی ہو کر دروازے کے سامنے قطار در قطار کھڑے ہونے والے مجاہدین کی طرف دیکھنے لگیں۔ ابو محسن نے رضا کاروں کی صفوں کا معائنہ کرنے کے بعد محل کے دروازے کے سامنے گھوڑا روکا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بلند آواز میں کہا:

”مجاہدو! کچھ دن قبل میں یہ خیال کر رہا تھا کہ ہم اپنے زوال کی اس منزل تک پہنچ چکے ہیں جہاں سے کوئی

قوم دوبارہ نہیں اٹھا کرتی لیکن انہیں غل اور سرحد کے مجاہدین
 کی شاندار فتوحات نے میری مایوسی کو اُمید میں بدل دیا
 ہے۔ تھوڑی دیر قبل جب میں آپ کے سامنے کھڑا تھا تو
 مجھے معلوم نہ تھا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ تاہم میں نے آپ
 سے کچھ کہنا ضروری سمجھا اور خدا معلوم میں کیا کچھ کہ چکا
 ہوں۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں تقریر کے
 فن سے نا آشنا ہوں لیکن آپ کا یہ جذبہ اس بات کا
 ثبوت ہے کہ آپ زندہ ہیں اور کوچ کرنے سے پہلے
 میں الجزائر کے آہنی دروازوں کے پیچھے آرام کی نیند
 سونے والے ابو عبد اللہ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں
 کہ اے ابو عبد اللہ میری قوم زندہ ہے تم اسے فریادیں
 غلام نہیں بنا سکتے۔ تم وہ بد نصیب ہو جس نے اپنی غیور قوم
 کا ساتھ چھوڑ کر اپنا مستقبل ایک ذلیل دشمن کے ساتھ قائم
 کر دیا۔ ابو عبد اللہ! تمہاری قوم بہت فیاض ہے۔ اگر اب
 بھی تم راہِ راست پر آ جاؤ تو وہ تمہاری تمام گزشتہ خطائیں
 معاف کر دے گی۔ آؤ اور پیشتر اس کے کہ تمہارے لئے
 نجاشی کے قلم دروازے بند ہو جائیں اپنی قوم سے
 معافی مانگ لو ورنہ یاد رکھو تم زیادہ دیر اس محل میں آرام
 کی نیند نہیں سو سکو گے جس کی تعمیر میں قوم کے نوجوانوں
 کا خون اور پڑیاں صرف ہوئی ہیں۔ تم اپنے بھوٹے وقار کی
 خاطر قوم کی عزت اور آزادی فروخت نہ کرو۔ خدا کی قسم

جو عزت قوم دے سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا
 اور جسے قوم گواہ دے گی اُسے کوئی نہیں اٹھا سکتا غرناطہ
 کے لوگو! تم گواہ رہنا کہ ہم ابو عبد اللہ کے محل کے آہنی
 دروازوں پر دستک دے کر جا رہے ہیں۔“

ابو محسن کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ اچانک الحمرار کا دروازہ کھلا اور چند سپاہی ہاتھوں میں مشعلیں
 اٹھائے نمودار ہوئے۔ اُن کے پیچھے پیلوہ سپاہیوں کا ایک دستہ تھا اور ان کے پیچھے بیس
 سوار تھے۔ سب سے آخر میں سفید گھوڑے پر ایک سوار نمودار ہوا۔ اس کے سر پر سفید عمامہ
 تھا اور اس کے ہاتھ میں غرناطہ کا شاہی جھنڈا تھا۔ قلعہ سے باہر نکلنے والے باقی سوار اور سپاہی
 اس کے دائیں بائیں دو قطاریں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے دروازے سے باہر نکل کر
 گھوڑا روکا۔ گھوڑی دیر کے لئے جھجکا اور بالآخر ایک فیصلہ کن انداز میں اپنے گھوڑے کو ایڑے
 لگا کر ابو محسن کی طرف بڑھا۔ یہ ابو عبد اللہ تھا! اس نے کہا: ابو محسن! میرے متعلق تم نے جو کچھ
 کہا سب درست تھا لیکن ایک بات غلط تھی۔ اپنے محل کے آہنی دروازے بنا کر کے کوئی
 حکمران آرام کی نیند نہیں سو سکتا۔ میں قوم کی عدالت کے سامنے حاضر ہوں۔ میں قوم سے رحم
 کی درخواست نہیں کرتا صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی غلطیوں کی تلافی کا موقع دیا جائے۔
 تم اس فوج کے سالار ہو۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں بھی ان رضا کاروں کی جماعت میں
 شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میں آج سے غرناطہ کے تخت کا دعویٰ نہیں۔ میرا چچا اور میرا والد
 غرناطہ پہنچ کر میرے لئے جو سزا تجویز کریں گے میں خوشی کے ساتھ قبول کروں گا۔

ایک لمحہ کے لئے مجمع پر سکوت طاری ہو گیا اور پھر حاضرین دینی آوازوں میں ایک دوسرے
 سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ابو محسن سنتے کے عالم میں ابو عبد اللہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ابو عبد اللہ
 نے نخیف آواز میں کہا: ابو محسن! میں جانتا ہوں۔ میرا جرم ناقابل تلافی ہے۔ میں قوم کی عدالت
 کے سامنے کھڑا ہوں۔ قوم سے کہو کہ میری بوٹیاں تو چر ڈالے۔ میں قوم سے جہاں کی التجا نہیں

کرتا لیکن تم مجھے اگر ساتھ لے چلو تو ممکن ہے کہ میرے خون کے چند قطرے میرے دامن کی سیاہی دھو سکیں۔

ابو محسن نے حاضرین کی طرف دیکھا اور ابو عبد اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا: "آپ کی قوم شکر کے آنسوؤں سے آپ کے دامن کی سیاہی دھور ہی ہے۔"

تھوڑی دیر بعد پانچ ہزار سپاہی شہر کے مغربی دروازے سے باہر نکلے۔ ابو عبد اللہ اور ابو محسن سب سے آگے تھے۔ شہر سے تھوڑی دُور باہر اس فوج نے صبح کی نماز ادا کی۔ دوبارہ کوچ کرنے سے پہلے ابو محسن نے ابو عبد اللہ کو ایک طرف لے جا کر کہا: "میں نے سنا ہے کہ ابو موسیٰ آپ کی قید میں ہے۔ اگر یہ درست ہے تو اس فوج کی قیادت کے لئے اس سے زیادہ موزوں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو ابھی تک یہ خیال نہیں آیا تو اب یہی ہم زیادہ دُور نہیں آئے۔"

ابو عبد اللہ نے انتہائی پریشانی کی حالت میں ابو محسن کی طرف دیکھا اور کہا: "ابو موسیٰ الحارثی میں نہیں۔ اور میں جنگ سے واپس آنے سے قبل اس کے متعلق شاید کسی سوال کا جواب نہ دے سکوں۔۔۔ بہر حال تم تسلی رکھو کہ ابو موسیٰ زندہ ہے اور میں وقت آنے پر اس کے سامنے پیش ہو کر کہوں گا کہ ابو موسیٰ! تمہارا مجرم تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ میرے لئے سزا تجویز کرو اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت میرا نامہ اعمال اس قدر سیاہ نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر وہ مجھ سے دُور نہ بھی ہوتا تو بھی مجھے اُس کے سامنے جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اُس کے سامنے جاؤں تو میرا دامن میرے خون سے تر اور میرا چہرہ زخموں سے داغدار ہو اور مجھ میں فقط یہ آخری الفاظ کہنے کی ہمت ہو۔" ابو موسیٰ! تمہارا مجرم اب ایک بڑی عدالت کے سامنے جا رہا ہے کیا تم اس کا گناہ معاف نہیں کرو گے؟

ابو محسن، ابو عبد اللہ کے الفاظ سے زیادہ اُس کی آواز سے متاثر ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد ابو عبد اللہ نے ابو محسن کی طرف دیکھا اور کہا: "تم میرے دل کا حال سمجھ

سکتے ہو لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر ان لوگوں نے مجھ سے ابو موسیٰ کے متعلق پوچھا تو شاید میرا کوئی بیان ان کی تسلی نہ کر سکے۔“

ابو محسن نے کہا: ”آپ تسلی رکھیں۔ اس وقت یہ لوگ فقط اتنا جانتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں۔ وہ اس سے زیادہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔“

(۴)

الزغل نے اپنی شاندار فتوحات کے بعد مالقہ میں پڑاؤ ڈال کر اپنی فوج کو از سر نو منظم کیا۔ اور غرناطہ کا رخ کرنے سے پہلے اپنے بھتیجے ابو عبد اللہ کو پیغام بھیجا کہ ابھی تک تمہارے لئے تویہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اب تمہیں یقین ہو گیا ہو گا کہ تم نے عیسائیوں کے ساتھ جو امیدیں وابستہ کی تھیں وہ پوری نہیں ہو سکتیں۔ ہم کھلے دروازوں غرناطہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں لیکن اگر تم نے مزاحمت کی تو یقین رکھو کہ الحرامہ کے آہنی دروازے ہمارے راستے میں حائل نہیں ہو سکتے۔“

الزغل کے ایلچی نے واپس آ کر بتایا کہ غرناطہ میں ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور ابو عبد اللہ سرحد پر حملہ آوردوں کے مقابلہ کے لئے روانہ ہو چکا ہے۔ ایلچی نے الزغل کو ابو الحسن کی بیوی کا خط پیش کیا اور کہا: ”ملکہ عالیہ نے یہ خط سلطان معظم کی خدمت میں بھیجا ہے۔“ الزغل ایلچی سے چند سوالات پوچھنے کے بعد اٹھا اور سیدھا ابو الحسن کے پاس پہنچا۔ بوڑھا سلطان بستر علالت پر زندگی کی آخری گھڑیاں گزار رہا تھا۔ اس کی بیٹائی جواب دے چکی تھی۔ اپنے بیٹے کے متعلق غیر متوقع خبر سن کر وہ بستر سے اٹھ بیٹھا: ”کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ وہ اپنے بھائی سے بار بار پوچھ رہا تھا: ”نہیں۔ نہیں۔ تم ایلچی کو بلاؤ۔ مجھے یقین نہیں آتا۔“

الزغل نے کہا: ”ملکہ نے یہ خط بھیجا ہے۔“

ابو الحسن نے بمقار ہو کر کہا: "کیا لکھا ہے ملکہ نے۔ مجھے پڑھ کر سناؤ۔" الزغل نے خط کھول کر پڑھا۔ مختصر سی تحریر کا مفہوم یہ تھا:

"میرے آقا! میری مامتا نے مجھے ابو عبد اللہ سے مایوس نہ ہونے دیا اور میں نے المہرارہ میں ٹھہرنا ضروری سمجھا قدرت نے میری دعاؤں کو اس وقت شرف قبولیت بخشا جب میں چاروں طرف سے مایوس ہو چکی تھی۔ ابو عبد اللہ دشمن کے مقابلہ کے لئے روانہ ہو چکا ہے اور میری مامتا مجھے دھوکا نہیں دیتی تو اس کا مقصد اپنی غلطیوں کی تلافی کے سوا اور کچھ نہیں۔ غرناطہ آپ کے لئے چشم براہ ہے۔ اگر آپ فوراً نہ پہنچ سکیں تو الزغل کو بھیج دیں مجھے ڈر ہے کہ سرفروشیوں کے علاوہ ابو عبد اللہ کے ساتھ وہ لوگ بھی جا چکے ہیں جن کی غداروں کے باعث ہمیں یہ دن دیکھنے نصیب ہوئے۔ منافقین کا یہ گروہ آخری وقت تک ابو عبد اللہ کو بہکانے کی کوشش کرے گا اس لئے ابو عبد اللہ کی آمد سے قبل غرناطہ پر قبضہ کر لینا ضروری ہے۔"

اگلی صبح الزغل نے فوج کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ بدر بن مغیرہ اعداس کے جانباز سپاہی عیسائیوں کو شکست دینے کے بعد انہیں شمال اور مشرق کی سرحدوں سے دُور رکھنے کے لئے عقابوں کے مسکن میں پہنچ چکے تھے۔ بشیر بن حسن کو ابو الحسن کے علاج کے لئے مالقہ ٹھہرنا پڑا۔

اپنی علالت کے باوجود ابو الحسن غرناطہ پہنچنے پر مُصر تھا۔ الزغل کو مجبوراً بگھی پر اس کے سفر کا انتظام کرنا پڑا۔ مالقہ کی حفاظت الزغیری کے سپرد کی گئی۔

الزغل کی فوج فتح اود کامرانی کے پرچم لہراتی ہوئی غرناطہ میں داخل ہوئی۔ شہر کے دروازے سے لے کر الحمراء کے دروازے تک الزغل کے گھوڑے کے سامنے پھولوں کی سیج بچھی ہوئی تھی۔ ابوالحسن کی علالت کے باعث معمولی رفتار سے ایک نگھی پر سفر کرنے کی وجہ سے ابھی غرناطہ سے کئی منزل دور تھا تاہم لوگ "الزغل زندہ باد" کے ساتھ ساتھ سلطان ابوالحسن زندہ باد کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔

لوگوں کے جوش و خروش کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ شمال مغربی سرحد سے ابو عبد اللہ کی شاندار فتوحات کی خبریں سن چکے تھے۔ محاذ جنگ سے غرناطہ میں خبریں لانے والے لوگ انہیں یہ بتا چکے تھے کہ ابو عبد اللہ سرحد کو حملہ آوروں سے پاک کرنے کے بعد دشمن کے علاقے میں داخل ہو چکا ہے اور چند قلعوں پر قبضہ کر چکا ہے۔

الزغل کو یقین تھا کہ تازہ شکست کے بعد فرڈینیڈ کی فوج ایک لمبی تیاری کے بغیر کسی وسیع پیمانہ پر نقل و حرکت نہیں کر سکتی اس لئے اُس نے ابو عبد اللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں چند دنوں میں فوج کو از سر نو منظم کر کے تمہاری مدد کے لئے پہنچ جاؤں گا۔ فی الحال تم دشمن کے علاقے میں پیش قدمی کرنے کی بجائے سرحد کے کسی محفوظ مقام پر پڑاؤ ڈال کر دشمن کے ساتھ معمولی چھڑ چھاڑ جاری رکھو۔ فیاض چچا نے اپنے ہتھیار کو یہ بھی لکھا کہ تم اپنی گزشتہ خطاؤں کا کفارہ ادا کر چکے ہو اور جب تم واپس آؤ گے تو اپنے والد اور چچا کو غرناطہ کے عوام سے کم فیاض نہیں پاؤ گے۔ ابو موسیٰ لاپتہ ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ہو گا لیکن محاذ سے آنے والے لوگوں نے ہمارے اس خیال کی تصدیق نہیں کی۔ وہ کہاں ہے؟ غرناطہ کے لوگ اُس کے متعلق بہت بے چین ہیں +

(۵)

چار دن کے بعد غرناطہ میں کھرام مچا ہوا تھا۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی غرناطہ کے

لوگوں کو یہ الم ناک خبر ملی کہ ابو عبد اللہ دشمنی کے ہاتھوں شکست کھا کر گرفتار ہو چکا ہے اور غروب آفتاب تک غرناطہ کے لوگوں کو اس خبر کی بہت سی تفصیلات معلوم ہو چکی تھیں۔

غرناطہ میں الزغل آئی آمد سے خوفزدہ ہو کر چند غدار سر نظر اور ان کے ساتھی ابو عبد اللہ کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے۔ باقی غداروں نے بھی جب یہ دیکھا کہ غرناطہ کے لوگوں پر ان کی اس تبدیلی کا ایک خوش گوار ردِ عمل ہوا ہے تو وہ بھی غرناطہ چھوڑ کر ابو عبد اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ ان غداروں کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح ابو عبد اللہ کو ساتھ لے کر فرٹینیڈ کی پناہ میں چلے جائیں۔ لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مازہ فتوحات نے ابو عبد اللہ کی ذہنیت میں ایک غیر متوقع تبدیلی پیدا کر دی ہے تو انہوں نے ایک سازش کی۔ ایک شام ابو عبد اللہ فرٹینیڈ کے ایک قلعے پر قبضہ کر چکا تھا۔ اس کی فوج کے دو جاسوس جو ان غداروں کے آلہ کار تھے یکے بعد دیگرے اس کے پاس پہنچے۔ ایک نے اسے اطلاع دی کہ کوئی ہزار نصرانیوں کی ایک فوج مغرب کی طرف سے اس قلعے کا رخ کر رہی ہے۔ دوسرے نے اسے یہ خبر دی کہ اس نے شمال کی طرف نصرانیوں کے دو ہزار سپاہیوں کو دیکھا ہے اور ان کا رخ بھی اس قلعے کی جانب ہے۔ یہ اطلاعات سننے کے بعد جب ابو عبد اللہ نے مجلس شوریٰ بلائی تو منافقین نے ایک زبان ہو کر یہ کہا کہ ہمیں ان لوگوں کو قلعے کا محاصرہ کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ ممکن ہے کہ فوج آگے بڑھ کر ہمارے سرد و ملک کے راستے کاٹ دے اور ایک دو دن کے بعد ایک بڑی فوج آکر قلعے پر حملہ کر دے۔

ابو محسن نے رات کے وقت قلعے سے نکل کر دشمن پر حملہ کرنے کی مخالفت کی۔ اس نے کہا: "اگر بغرض محال دشمن ہمیں نرغے میں لے بھی لے تو بھی ہم کم از کم تین ہفتے قلعہ بنا ہو کر دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس دوران میں غرناطہ سے ہمیں کمک پہنچ جائے گی۔ لیکن غداروں نے عبد اللہ کے جذبات کو کسلیا اور اس نے رات ہوتے ہی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ ابو محسن کی قیادت میں مغرب کی طرف روانہ

ہوا۔ اور دوسرا ابو عبداللہ کی قیادت میں شمال کی طرف چل پڑا۔ غداروں کی بہت بڑی اکثریت ابو عبداللہ کے ہمراہ تھی۔

ابو محسن نے اپنے جاسوس کی راہنمائی میں رات کے وقت مغرب کی طرف کوئی بیس کو س علاقہ چھان مارا لیکن دشمن کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تنگ آکر اُس نے جاسوس کو کوسنا شروع کیا۔ تیسرے پہاڑوں نے تھکے ہوئے گھوڑے کی باگ موڑ لی۔ اور واپس قلعے کا رخ کیا۔ صبح کے وقت جب ابو محسن قلعے سے چار کوس دُور تھا اُسے سپاہیوں کا ایک گروہ دکھائی دیا جو ابو عبداللہ کے ساتھ رات کے وقت گئے تھے۔

ابو محسن کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ فوج کو رکنے کا حکم دے کر اپنا گھوڑا بھکاتا ہوا آگے بڑھا۔ جب وہ اس گروہ کے قریب پہنچا تو ایک نوجوان نے جس کی تباہی پر خون کے نشان تھے، اس کے سوالات کا انتظار کئے بغیر کہا۔ "ہمیں شکست ہوئی۔ یہ ایک سازش تھی۔ ہماری فوج میں غدار ہم سے زیادہ تھے۔ جاسوس نے ہمیں ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا جو چاروں طرف سے دشمن کے تیروں کی زد میں تھا اور منافقین نے دشمن کا نعرہ اُٹھاتے ہی ابو عبداللہ سے کہا کہ ہم نرسے میں آچکے ہیں۔ اب لڑائی بے سود ہے۔ جب ہم نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا تو وہ ایک طرف ہو گئے۔ جب دشمن نے گھات سے نکل کر ہم پر حملہ کیا تو کچھ دیر وہ خاموش کھڑے رہے اور پھر دشمن کے ساتھ شامل ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی آن میں ہمارے آٹھ سو نوجوان قتل ہو گئے اور ہمارے لئے بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔"

ابو محسن نے کہا۔ "اور عبداللہ۔۔۔۔۔؟"

نوجوان نے جواب دیا۔ "لڑائی کے وقت وہ ہمارے ساتھ تھا۔ چند آدمیوں نے اُسے گھوڑے سے گرتا ہوا دیکھا تھا۔ میرے خیال میں اُسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک سازش تھی۔ کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ ہمارے ساتھ منافقین کی اتنی بڑی تعداد شامل ہو چکی ہے۔"

ابو محسن نے کہا۔ "ہمیں بھی دھوکا دیا گیا ہے۔ کھڑو میں اُس جاسوس سے پوچھتا ہوں۔"

ابو محسن نے فوج کے قریب واپس پہنچ کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد پوچھا: "وہ جاسوس کہا گیا؟"
 سپاہیوں نے ادھر ادھر دیکھنے اور ایک دوسرے سے سوال کرنے کے بعد جواب دیا۔
 "اُسے صبح کی نماز کے بعد کسی نے نہیں دیکھا۔"

ابو محسن نے مایوس ہو کر کہا: "اب ہمارے لئے اپنی سرحد کا رخ کرنے کے سوا کوئی چارہ
 نہیں۔"

فوج کی شکست اور ابو عبد اللہ کے لاپتہ ہو جانے کی خبر ابو محسن کی زندگی کے مٹاتے
 ہوئے چراغ کے لئے ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی۔ غرناطہ پر پھر ایک بار ادبار کے بادلی چھا گئے۔
 اگلے دن ایک درد مند نے ابو محسن کا جنازہ دیکھ کر کہا۔ غرناطہ کے آسمان نے کسی بادشاہوں
 اور کسی شہنشاہوں کے جنازے دیکھے ہیں لیکن اس مجاہد کی لحد میں غرناطہ کے مستقبل کی ہزاروں
 امیدیں بھی سو جائیں گی۔"

ان واقعات کے بعد اندلس میں ہلال و صلیب کی جنگ کچھ عرصہ کے لئے سرد پڑ گئی۔
 ربیع الثانی سنہ ۸۹ھ میں فرٹینینڈ نے ایک لشکر حجاز کے ساتھ صوریہ مالقہ پر یورش کر دی۔
 اس کی پیش قدمی اس قدر اچانک تھی کہ الزغل اپنی پوری قوتِ مدافعت بروئے کار نہ لاسکا۔
 تاہم بقیمان اور رندہ کے قلعوں پر قبضہ کرنے کی کوشش میں عیسائیوں کو بھاری نقصانات
 اٹھانے پڑے اور انہیں آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ فرٹینینڈ کی فوج پسپا ہوتے ہوئے
 سرحد کے اہم قلعہ مشیل پر حملہ کیا لیکن انہیں ناکامی ہوئی۔ الزغل نے دشمن کو شکست دینے کے
 بعد جوابی حملہ کیا اور ان کے بہت سے ساز و سامان پر قبضہ کر لیا۔

الزغل کو اس بات کا احساس تھا کہ جب تک وہ خود فرٹینینڈ کی مملکت میں داخل ہو کر
 اُسے ایک فیصلہ کن شکست نہیں دیتا عیسائیوں کے حملے جاری رہیں گے لیکن ایک بڑی
 جنگ کی تیاری کے لئے وقت کی ضرورت تھی۔ جنوب مشرق اور شمال مشرق کی سرحدوں پر بڑی
 عقاب کا پہرا تھا اور اس طرف سے اُسے پوری تسلی تھی۔ جنوب میں مالقہ کی حفاظت کے لئے

الزغری جیسا تجربہ کار جرنیل موجود تھا۔ ایک بڑی مہم کے لئے تمام وسائل کو بروئے کار لانے کے لئے الزغل کامرکز میں رہنا ضروری تھا۔ اس لئے اس نے شمال مغربی سرحد کی حفاظت کے لئے ابو محسن کو منتخب کیا اور خود غرناطہ پہنچ کر تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔

(۶)

ابو عبداللہ دشمن کے قیدی کی حیثیت میں قسطلہ پہنچا۔ اُسے یقین تھا کہ فرڈیننڈ اس کے لئے بدترین سزا تجویز کرے گا لیکن جب پریدار اسے محل کے سامنے لائے تو فرڈیننڈ، اس کا دلی عہد اور امرائے سلطنت محل کے دروازے پر کھڑے تھے۔ فرڈیننڈ نے چند قدم آگے بڑھ کر ابو عبداللہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ابو عبداللہ نے اضطراری حالت میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔

فرڈیننڈ نے اپنے اُمراء کی طرف دیکھا اور کہا: "تم کیا دیکھ رہے ہو غرناطہ کے بادشاہ کی تعظیم کرو۔ یہ ہمارے مہمان ہیں۔" اور امرائے ابو عبداللہ کی تعظیم میں سر جھکا دئے۔ فرڈیننڈ ابو عبداللہ کی بغل میں اپنا ہاتھ دٹے محل کے اندر داخل ہوا۔ ملاقات کے کمرے کے دروازے کے سامنے چند خواتین کے درمیان ملکہ ازابیلا کھڑی تھی۔ فرڈیننڈ نے اُس کے قریب پہنچ کر کہا: "ملکہ! یہ میرا وہ بیٹا ہے جسے دیکھنے کے لئے تم مدت سے بے قرار تھیں۔" ابو عبداللہ کا چہرہ ابھی تک یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہمارا قیدی سمجھتا ہے۔ تم اسے یقین دلاؤ کہ یہ ہمارا مہمان ہے جس کا راستہ ہم ایک مدت سے دیکھ رہے تھے۔"

ملکہ ازابیلا نے کہا: "ہمارے سپاہیوں نے انہیں راستے میں تکلیف تو نہیں دی۔" فرڈیننڈ نے جواب دیا: "ہماری طرف سے انہیں ہدایت تھی کہ ہمارے دوست کا بال بیکانہ ہو لیکن اگر ہمیں پتہ چلا کہ راستے میں انہیں کوئی تکلیف ہوئی ہے تو ہم انہیں بدترین سزا دیں گے۔"

امراء دروازے سے کچھ دُور کھڑے رہے اور فرڈیننڈ، ازا بیلا اور ولی عہد، ابو عبد اللہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ چاروں ایک نصف دائرے میں کرسیوں پر بیٹھ گئے تو فرڈیننڈ نے کہا: "آپ کے تمام ساتھیوں کو شاہی مہمان خانے میں جگہ دی گئی ہے اور آپ کے لئے ہم نے اپنے محل کے بہترین کمرے منتخب کئے ہیں۔"

ابو عبد اللہ نے بیاب ساہو کر کہا: "ایسی دل لگی شاید فرڈیننڈ کی شان کے شایان نہ ہو۔ میں اپنی سزا کا حکم سننے کے لئے تیار ہوں۔"

فرڈیننڈ نے کہا: "ہم ایک بار دوستی کا ہاتھ بڑھا کر واپس نہیں کھینچا کرتے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کیا مجبوری کی حالت میں کیا۔ ہماری بات پر یقین کیجئے کہ آپ کے علاقے پر ہمارے سپاہیوں کا حملہ ہمارے احکام کی خلاف ورزی تھی۔ وہ اپنی شکست سے بوکھلائے ہوئے تھے اور آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے آپ کے ساتھ بد عہدی کی ہے۔ اس صورت میں آپ ان کے ساتھ لڑنے بلکہ ایک انتقامی جذبے کے ماتحت ہمارے علاقہ پر حملہ کرنے میں بھی حق بجانب تھے۔ ہمیں اگر کوئی افسوس ہے تو اس بات کا ہے کہ ہمارے چند بے وقوف آدمیوں کی افسوس ناک حرکت نے ہمارے اس حلیف کو ہم سے بدظن کر دیا ہے، جسے ہم اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ ہم ان لوگوں کے لئے بدترین سزائیں تجویز کر چکے ہیں۔"

ابو عبد اللہ پھیٹ پھیٹنگا ہوں سے اپنے میزبانوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فرڈیننڈ نے کہا: "آپ کو ابھی تک ہماری باتوں پر یقین نہیں آیا۔ شاید ایک شخص آپ کی تسلی کر سکے۔"

فرڈیننڈ ولی عہد کی طرف متوجہ ہوا: "شہزادے! کسی کو حکم دو کہ ابوداؤد کو بلا لائے۔"

"ابوداؤد؟ ابو عبد اللہ نے پوچھا۔"

فرڈیننڈ نے جواب دیا: "ہاں وہ ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اور اس کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم آپ کو آپ کی کھوئی ہوئی سلطنت واپس دلانے کے لئے فوراً کوئی قدم اٹھائیں لیکن

اب اس مقصد کے لئے ایک لمبی تیاری کی ضرورت ہے۔“

ابو عبد اللہ کے دل میں ابوداؤد کے متعلق بہت سے شکوک پیدا ہو چکے تھے لیکن ایک کمزور انسان ہر طاقت ور انسان کو اپنا آخری سہارا فرض کر لیتا ہے۔ ابو عبد اللہ نے ابوداؤد کو اپنی کشتی کا ملاح منتخب کیا تھا۔ اُس کے روپوش ہو جانے کے بعد وہ ابو عیسیٰ کی تقریر سے مرعوب ہوا اور اب پھر وہ زندگی کے نئے موڑ پر کھڑا تھا۔ اس احساس کے باوجود کہ اُس کی زندگی کی تمام تلخیاں ابوداؤد کی پیدا کردہ تھیں۔ ابو عبد اللہ کو اب بھی یہ یقین تھا کہ ابوداؤد سے ہم کلام ہوتے ہی اُسے ذہنی کوفت سے نجات مل جائے گی۔ فرڈیننڈ کی مسکراہٹوں نے اُس کے دل میں وہ خطرناک عزائم جنہیں وہ غرناطہ سے نکلنے وقت ہمیشہ کے لئے خیر یاد کہہ چکا تھا پھر ایک بار بیدار کر دئے تھے۔ وہ فرڈیننڈ کا آلہ کار بننے سے گھبراتا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی اُسے یہ بھی احساس تھا کہ فرڈیننڈ کی مسکراہٹیں کسی نہ کسی دن اُسے پھر اُن ٹھکرانی ہوئی راہوں پر دھکیل دیں گی۔ ابوداؤد کے الفاظ اس کے ضمیر کی آواز کو دبا لیں گے۔ الغرض ایک کمزور آدمی میں منافقت کے سوتے ہوئے جذبات پھر بیدار ہو رہے تھے اور وہ اپنے ضمیر کو لوہیاں دینے کے لئے ایک بڑے منافق کے سہارے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ ابو عبد اللہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا: "میں اس بے ایمان سے کہوں گا کہ تم نے مجھے سونا کیا، تم نے مجھے اپنی ہی قوم کا غدار بنایا۔ میں بیوقوف تھا لیکن اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اب مجھے کو دھوکا نہیں دے سکتا۔ تم مجھے تباہی کے راستے کی طرف مت دھکیو۔ مجھے غرناطہ کے تخت کی ضرورت نہیں۔ لیکن شاید میں اپنے مقدر کے خلاف جنگ نہ کر سکوں۔ شاید میری تقدیر کے ستارے میری مرضی کے خلاف مجھے غرناطہ لے جائیں اور میں فرڈیننڈ کا آلہ کار بننے پر مجبور ہو جاؤں۔ نہیں نہیں میں ابوداؤد سے کہوں گا کہ خدا کے لئے مجھ پر رحم کرو۔ مجھے غلط راستہ نہ بناؤ۔ میں قوم فروشوں کی جماعت میں نام نہیں لکھوانا چاہتا لیکن فرڈیننڈ نے یہ کہا ہے کہ وہ مجھے اپنی قوم کا آزاد حکمران دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ میں ابوداؤد

سے کہوں گا کہ وہ میرے سامنے فرعونینڈ کے جھوٹ کو بیچ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے لیکن یہ ضروری نہیں کہ میں ان لوگوں کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کروں۔ میں انہیں غلط فہمیوں میں مبتلا رکھوں گا اور یہاں سے موقع ملتے ہی فرار ہو جاؤں گا۔ ابوداؤد مکرے میں داخل ہوا اور ابو عبداللہ نے محسوس کیا کہ وہ کسی بھیانک خواب سے بیدار ہوا ہے۔ ابو عبداللہ غیر ارادی طور پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ابوداؤد نے مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھایا۔ اُس کے چہرے کی مسکراہٹ اپنے شاگرد سے یہ کہہ رہی تھی۔ ”مجھ سے چھپ کر کہاں جاؤ گے بیٹا! میں تمہارے دل کا حال جانتا ہوں“

الزُّغَل کی مایوسی

(۱)

بدر بن مغیرہ ایک پہاڑی قلعہ میں مقیم تھا۔ ایک شام وہ قلعے کے صحن میں کھڑا اپنے گرد جمع ہونے والے سپاہیوں اور افسروں کو رات کے لٹے ہدایات دے رہا تھا کہ ایک سرپٹ سوار قلعے کے اندر داخل ہوا۔ بدر بن مغیرہ سے چند قدم کے فاصلے پر اس نے باگیں کھینچ کر گھوڑا روکا۔ بدر بن مغیرہ نے دو تین قدم آگے بڑھ کر کہا: "بشیر! معلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی اچھی خبر نہیں لاتے۔"

بشیر بن حسن نے گھوڑے سے اتر کر بدر بن مغیرہ سے مصافحہ کیا اور بولا: "میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جسے غرناطہ کے لوگ اچھی سمجھتے ہیں لیکن میں اس کے متعلق بہت پریشان ہوں۔ منصور کہاں ہے؟"

"وہ ابھی نماز پڑھ کر اپنے کمرے میں گیا ہے۔ آج اُس کی باری ہے۔ وہ تیاری کر رہا ہوگا۔ چلو اُس کے پاس چلتے ہیں۔" یہ کہہ کر بدر بن مغیرہ سپاہیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ "تمہیں عشاء کی نماز کے بعد ہدایات مل جائیں گی۔"

بدر اور بشیر سیڑھیوں پر چڑھنے کے بعد دوسری منزل کے ایک کمرے میں داخل ہوئے
 کمرے میں شمع جل رہی تھی اور منصور زندہ بکتر پہنے ایک کرسی پر پاؤں رکھ کر موندے کے تسمے
 باندھ رہا تھا۔ بشیر بن حسن کو دیکھ کر اس نے آگے بڑھ کر مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھاتے ہوئے
 کہا: "بشیر! یہ بہت اچھا ہوا کہ تم آگئے۔ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آج رات میں زخمی
 ہو جاؤں تو میرا علاج کون کرے گا؟"

بشیر بن حسن نے کہا: "قسطہ کے اسلحہ خانہ میں ابھی تک وہ تلوار نہیں بنی جو منصور
 کو زخمی کر سکے۔"

تینوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ منصور نے بشیر بن حسن سے سوال کیا: "اہل غرناطہ ہمارے
 نقاب پوش کے متعلق بہت پریشان ہوں گے۔"

"ہاں۔ اب غرناطہ کی ہر محفل میں سرحدی عقاب کی جگہ سرحدی نقاب پوش نے لے لی
 ہے۔"

"تو انہیں ابھی تک بدر کی موت کا یقین ہے۔"

فوج کے بعض افسروں کو شک ہے کہ یہ زندہ ہیں۔ اور بھی بہت سے لوگ مجھ سے
 کیریڈ کرید کر پوچھتے تھے اور میں یہ جواب دے کر خاموش ہو جاتا تھا کہ مجھ پر ہمیشہ زندہ
 رہتا ہے۔"

بدر نے کہا: "اچھا اب وہ خیر سناؤ جس کے متعلق غرناطہ کے لوگ خوش تھے اور تم
 پریشان ہو۔"

بشیر نے کہا: "ابو عبداللہ فرطیہ کی قید سے فرار ہو کر غرناطہ پہنچ چکا ہے اور الزغل نے
 یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بیرونی خطرات سے نجات حاصل کرتے ہی غرناطہ کا تخت اپنے بھتیجے
 کے حوالے کر دے گا۔ سردست اسے لوشہ کا حاکم مقرر کیا گیا ہے۔"

بدر بن مغیرہ نے کہا: "کیا یہ صحیح ہے؟ الزغل ایسی غلطی نہیں کر سکتا۔"

بشیر نے جواب دیا: "اگر یہ غلطی ہے تو الزغل اس کا ارتکاب کر چکا ہے۔ میں ابو محسن سے ملا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ سرحد پر حملہ کرنے سے پہلے وہ فزونیہ کی پناہ لینے کے لئے تیاریاں کر رہا تھا۔ حالات کی مجبوری نے اُسے رضا کاروں کی صف میں لاکھڑا کیا تھا۔ اُس کی نیت پر میں شک نہیں کرتا لیکن وہ ایک متلون مزاج نوجوان ہے۔ موجودہ حالات میں اُسے کوئی ذمہ داری سونپنا خطرے سے خالی نہیں۔ اس کے علاوہ ابو داؤد کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ فزونیہ کے پاس پہنچ چکا ہے اور وہ ایک ایسا آدمی ہے جو ابو عبد اللہ کو ہر بُرے سے بُرے کام پر آمادہ کر سکتا ہے۔"

بدر بن مغیرہ نے پوچھا: "اور غرناطہ کے لوگ اس پر خوش ہیں؟"

"ہاں! ان کی نگاہوں میں ابو عبد اللہ کے دامن کی سپاہی دھل چکی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بے چین ہیں لیکن وہ بھی کسی عملی مخالفت کے لئے تیار نہیں۔"

"کیا موسیٰ کے متعلق ان کی بے چینی دُور ہو چکی ہے؟"

"ابو عبد اللہ نے اس کے متعلق یہ مشہور کر دیا ہے کہ وہ اس کی قید سے فرار ہو گیا تھا۔ الزغل کے سامنے اُس نے چند گواہ پیش کر دئے تھے۔"

"اور الزغل نے اس بات پر یقین کر لیا۔"

"میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر وہ فرار ہوتا تو یقیناً آپ کے پاس آتا لیکن الزغل نے کہا: "ابو موسیٰ بے حد غمیور تھا اور ابو عبد اللہ اس کا بچپن کا دوست تھا۔ یہ ممکن ہے کہ ابو عبد اللہ کی بدسلوکی کے بعد اس نے غرناطہ میں کسی کو منہ دکھانا گوارا نہ کیا ہو۔ شاید وہ مراکش چلا گیا ہو قرطبہ سے اس کے خاندان کے بہت سے افراد مراکش ہجرت کر چکے ہیں۔ میں اُس کی تلاش کر رہا ہوں اور اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ ابو عبد اللہ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے تو میں اُسے کسی نیک سلوک کا مستحق نہیں سمجھوں گا۔"

بدر بن مغیرہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا: "منصُور! تم غرناطہ جانے کے لئے تیار ہو جاؤ۔"

منصور نے جواب دیا: "لیکن میں تو حملے کی تیاری کر چکا ہوں اور سرحد پر سپاہی میرا انتظار

کر رہے ہوں گے۔"

"تمہاری جگہ میں چلا جاؤں گا۔"

"لیکن آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ آپ کل ساری رات گھوڑے پر تھے۔"

"تمہارا فوراً غرناطہ پہنچنا ضروری ہے۔ الزغل کے پاس میرا خط لے جاؤ۔ اسے ہماری طرف

سے غیر مبہم الفاظ میں کہہ دو کہ ہماری جنگ کسی سلطان، امیر یا بادشاہ کے لئے نہ تھی۔ ہماری

قربانیوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم غرناطہ کو اپنا دفاعی مورچہ بنا کر اپنے منتشر شیرازے کو اکٹھا

کریں اور باقی اندلس کے مظلوم اور بے کس مسلمانوں کو نصرانیوں کی غلامی سے نجات دلائیں۔

ابو الحسن اور اس کے بعد ہم نے الزغل کو اپنا امیر اسی مقصد کے لئے تسلیم کیا تھا۔ لیکن ابو عبد اللہ

کو آزمایا جا چکا ہے۔ ایک چچا کی حیثیت میں الزغل کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے نالائق بھتیجے کی ہر

خطا معاف کر دے لیکن اُسے یہ حق نہیں دیا جاسکتا کہ وہ قوم سے یہ کہے کہ یہ ملت فروش

تو رہ کر چکا ہے اس لئے تم اسے اپنا حاکم تسلیم کر لو۔ الزغل سے کہو کہ اگر ابو عبد اللہ غلبوں صل

سے تائب ہو چکا ہے تو بھی وہ ایک بے جان لاش ہے اور وہ اس لاشے کو اس قوم کے کندھوں

پر نہ لادے جو موت و حیات کی کش مکش میں مبتلا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں اپنا فرض پورا کرے

اور اپنے بعد امیر کا انتخاب ان لوگوں پر چھوڑ دے جو غرناطہ کی آزادی اور مسلمانوں کے ناموس کے

لئے اپنی جانیں پیش کر چکے ہیں۔ مجھے ابو عبد اللہ سے پرغاش نہیں۔ اس نے مجھے دھوکا دے کر

قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اُسے معاف کر سکتا ہوں لیکن میں قوم کی امانت اس شخص کے

سپر د کرنے کے خلاف ہوں جو اُسے ایک بار دھوکا دے چکا ہوں۔ اگر ابو عبد اللہ نے سرحد

سے چند حملہ آوروں کو نکال کر تبدیلی قلب کا ثبوت دیا ہے تو اس کا زیادہ سے زیادہ صلہ

یہ ہو سکتا تھا کہ اسے اس کی گزشتہ خطاؤں کی سزا نہ دی جائے لیکن اسے لوشہ کا حاکم بنانا

اور غرناطہ کے تخت کا وارث تسلیم کر لینا ایک ایسا انعام ہے جس کا وہ کسی صورت میں

مستحق نہیں۔“

منصور نے کہا: ”میں جانتا ہوں الزغل کیا جواب دے گا۔ وہ یہ کہے گا اگر میں ابو عبد اللہ کے ساتھ فیاضانہ برتاؤ نہ کرتا تو لوگ یہ کہتے کہ میری جدوجہد ذاتی اقتدار کے لئے تھی۔ اس کے علاوہ میں انتشار سے ڈرتا ہوں۔ ابو عبد اللہ کے حامی غرناطہ میں خانہ جنگی شروع کروادیں گے۔“

بدر بن مغیرہ نے کہا: ”ابو عبد اللہ کے ساتھ اس سے زیادہ فیاضانہ برتاؤ کیا ہو سکتا تھا کہ اُس کے گلے میں پھندا ڈال کر اُسے غرناطہ کے بازاروں میں نہیں گھسیٹا گیا۔ الزغل سے کہو کہ وہ ایسے لوگوں کی رائے کو کوئی وقعت نہ دے جن کی خود فریبی کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک آزمائے ہوئے غدار سے تعمیر ملت کا کام لینا چاہتے ہیں، اور اتحاد کا یہ مطلب نہیں کہ گھوڑے اور گدھے کو ایک ہی گتھی میں جوت دیا جائے۔ اگر بچاس سپاہی اپنے کندھوں پر بچاس لاشیں اٹھالیں تو وہ سو سپاہی نہیں بن جاتے۔ خانہ جنگی کو روکنے کا یہ طریقہ نہیں کہ نا اہل آدمیوں کے ہاتھوں میں اقتدار سونپ دیا جائے بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ ایسی رائے عامہ پیدا کی جائے کہ نا اہل لوگ اقتدار کی کرسیوں کی طرف دیکھنے کی جرأت نہ کریں۔ وہ قوم جو زندہ رہنا چاہتی ہو غداروں کی سرکوبی کرتی ہے، انہیں رشتہ میں دے کر خوش نہیں کرتی۔“

منصور نے کہا: ”آپ خط لکھیں میں غرناطہ جانے کے لئے تیار ہوں۔“

(۲)

چند دن بعد منصور الزغل کی طرف سے بدر بن مغیرہ کے خط کا یہ جواب لایا :-

”میرے عزیز! تمہارا خط مجھے اُس وقت ملا۔

جب ابو عبد اللہ ہم پر آخری ضرب لگا چکا تھا۔ ابو عبد اللہ نے

لوشہ دشمن کے حوالے کر دیا ہے۔ فرڈینینڈ کے آٹھ ہزار
سپاہی اس شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ میری نیت بری نہ
تھی لیکن شاید قدرت سیاسی غلطیاں معاف نہیں کرتی۔
تمہارے سامنے اور قوم کے سامنے میرے پاس ندامت
کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں۔

لوشہ پرنسزائیوں کا قبضہ ہمارے سینے پر خنجر سے کم
نہیں شاید غرناطہ کے دن گئے جا چکے ہیں۔ اگر تم میرے
پاس ہوتے تو میں شاید اتنی بڑی غلطی نہ کرتا اور اب ایک
دل شکستہ بوڑھا تمہاری اعانت کا محتاج ہے۔ اپنے
لئے نہیں غرناطہ کے لئے۔ غرناطہ کے تخت و تاج کی حفاظت
کے لئے نہیں مسلمانوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت
کے لئے۔

اپنی اعانت کے لئے میں تمہیں ابھی غرناطہ نہیں
بلا تا۔ تم غرناطہ کی آخری امید ہو۔ تم اس ڈوبتی ہوئی کشتی کا
آخری سہارا، در اور میں تمہیں شہر سے محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں۔
عقاب کی وادی ہمارا آخری حصار ہے۔ تم اگر سرحد پر اپنے
حملے تیز کر دو تو دشمن کی توجہ دو محاذوں پر مبذول ہو جائے
گی اور میں لوشہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کرونگا۔
میرے خیال میں فرڈینینڈ کے نزدیک عقاب کی
وادی کی اہمیت غرناطہ سے کم نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ
وہ غرناطہ پر حملہ کرنے سے پہلے تمہارے علاقے پر حملہ

کرے۔ اس لئے اپنی تیاریوں کو تیز کر دو۔ میرے بیٹے !
 ہماری کوتاہیوں سے بد دل ہو کر کہیں بہت نہ ہار بیٹھنا۔
 اگر تم مایوس ہو گئے تو مجھے ڈر ہے کہ اُنڈلس میں مسلمانوں
 کی اُمید کے چراغ طلوعِ سحر سے پہلے ہی گل ہو جائیں گے۔

بدر بن مغیرہ، بشیر اور منصور ایک انتہائی مغموم فضا میں کچھ دیر الزغل کے مکتوب کی
 روشنی میں غرناطہ اور اُنڈلس کے مسلمانوں کے مستقبل پر تبصرہ کرتے رہے۔ اس کے بعد
 منصور بن احمد نے اپنی جیب سے ایک اور خط نکال کر بدر بن مغیرہ کو پیش کرتے ہوئے کہا۔
 یہ خط مجھے ابو عبد اللہ کی بیوی نے دیا تھا اور اس نے مجھ سے یہ درخواست کی تھی کہ جب تک
 آپ کے دل سے لہشہ کے نکل جانے کا اضطراب دور نہ ہو جائے میں یہ خط پیش نہ کروں۔
 انہوں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ آپ اس غلط فہمی میں آکر کہ میں نے اپنے شوہر کی کالت
 کی ہوگی کہیں اس خط کو پڑھنے سے پہلے نہ پھاڑ ڈالیں۔

بدر بن مغیرہ نے منصور کے ہاتھ سے خط لے کر بشیر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا: تم

پڑھو۔

بشیر نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا:

”میرے قابلِ فخر بھائی! میں نے چچا کی اجازت سے
 آپ کا مکتوب پڑھ لیا تھا اور چچا آپ کے مکتوب کا جواب
 بھی دکھا چکے ہیں۔ انہوں نے سارا گناہ اپنے سر لے لیا ہے
 حقیقت یہ ہے کہ اس قومی گناہ میں زیادہ حصہ میرا ہے اگر
 میں چچا کو یہ یقین نہ دلاتی کہ میرا شوہر خلوصِ دل سے تائب
 ہو چکا ہے تو وہ یقیناً اس پر اعتماد کرنے سے قبل اُسے اچھی
 طرح آزما کر دیکھتے۔ ملک نے اپنے بیٹے کی سفارش کی اور

میں نے اُن کی تائید کی اور اب آپ کی خدمت میں میں یہ
مکتوب اس لئے لکھ رہی ہوں کہ کہیں آپ کو چچا کی نسبت
پر شبہ نہ ہو جائے۔

میں اٹلیس میں آپ کی ان لاکھوں بہنوں میں سے
ایک ہوں جن کے ناموس کی حفاظت کے لئے آپ نے
تلوار اٹھائی ہے اور یقین کیجئے کہ مجھے پھر راز چار دیواری
کی نسبت آپ کی تلوار پر زیادہ بھروسہ ہے۔ کیا آپ
کی ایک بہن ندامت کے آنسو بہانے کے بعد آپ سے
یہ توقع رکھ سکتی ہے کہ آپ اس کی پہلی اور آخری غلطی
معاف کر دیں گے اور خدا شاہد ہے کہ جب میں آپ کو
کہانی کہتی ہوں تو میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ میرا اور آپ
کارشتہ خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہے۔

آپ کی بہن عائشہ

بدر بن مغیرہ نے منصور کی طرف متوجہ ہو کر سوال کیا۔ "تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو عبد اللہ
کی بیوی ابھی تک غرناطہ میں ہے۔"

"ہاں۔ ابو عبد اللہ اسے اپنے ساتھ لے جا۔ نہ پر مصر تھا لیکن اُس کی ماں نے کہا کہ
جب تک جنگ کا خطرہ باقی ہے میری بہو کو الحرام سے باہر نہیں جانا چاہیے۔"

(۳)

لوشر میں عیسائیوں کی پندرہ ہزار فوج جمع ہو چکی تھی۔ ابو عبد اللہ نے غرناطہ کے مختلف شہروں
میں اپنے جاسوس بھیج دئے اور فرٹینڈ کی عطا کردہ دولت سے منافقین کے ضمیر خریدنے کی

مہم شروع کر دی۔ وہ لوگ جو پہلے ہی اپنی توقعات فرٹھینڈ کے ساتھ وابستہ کر چکے تھے اب زیادہ پُر امید ہو گئے اور ابو عبد اللہ کی قوت میں آئے دن اضافہ ہونے لگا۔

اس کے علاوہ عافیت پسندوں کی وہ جماعت جو ہر قیمت پر امن چاہتی تھی عوام میں یہ تبلیغ کرنے لگی کہ اگر غرناطہ کے مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ جنگ جاری رکھی تو اس کی سزا وہ اندلس کے باقی مسلمانوں کو دیتے رہیں گے۔ اندلس عیسائیوں اور مسلمانوں کا مشترکہ وطن ہے اور عیسائی چونکہ قوت اور تعداد میں زیادہ ہیں اس لئے ہمیں ان کی سرپرستی تسلیم کر لینا چاہیے۔ وہ یقیناً اپنے ہم وطنوں پر ظلم نہیں کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا وہم ہے کہ انہوں نے عیسائیوں کی حکومت تسلیم کر لی تو وہ انہیں نگل جائیں گے۔ اگر مسلمان کے دل میں ایمان ہے تو اسے کسی سے خطرہ نہیں۔

ابو عبد اللہ کے متعلق یہ لوگ عوام کو یہ سمجھاتے تھے کہ وہ فرٹھینڈ کے ساتھ مصالحت کر کے اندلس کے باقی مسلمانوں کو تباہی سے بچانا چاہتا ہے۔ فرٹھینڈ نے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور ابو عبد اللہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے اس وقت اس کی دوستی کا ہاتھ ٹھکرا دیا تو کل وہ ایک فاتح کی حیثیت میں ہمارے ساتھ نیک سلوک نہیں کرے گا۔

عیسائیوں کی فوج کے ساتھ ابو داؤد بھی لوشہ پہنچ چکا تھا۔ اس نے چند دن حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد فرٹھینڈ کو لکھا کہ اب غرناطہ پر فیصلہ کن ضرب لگانے کا موقع ہے فرٹھینڈ نے بذاتِ خود لوشہ پہنچ کر فوج کی قیادت سنبھال لی اور اچانک البیرہ اور مشیل کے قلعے فتح کرنے کے بعد صخرہ کا محاصرہ کر لیا۔ الزغل اپنی ایک تہائی فوج غرناطہ میں چھوڑ کر صخرہ کی طرف بڑھا اور شہر سے چند میل دور پڑاؤ ڈال دیا۔ چند دن فریقین میں معمولی جھڑپیں ہوتی رہیں اہل شہر قلعہ بند ہو کر لڑتے رہے اور الزغل دشمن کے عقب سے معمولی حملوں پر اکتفا کرتا رہا۔ شمال مشرق میں بربن مغیرہ نے اچانک ایک وسیع پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ فرٹھینڈ نے مجبوراً صخرہ کا محاصرہ اٹھالیا اور اس کے ساتھ ہی فرٹھینڈ کو اطلاع ملی کہ شاہِ فرانس نے

زبردست لشکر کے ساتھ پیرینیز کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ فرٹینینڈ نے مجبوراً صخرہ کا محاصرہ اٹھایا اور دس ہزار فوج کو شمال مشرق کی طرف سے پیش قدمی کرنے والے مجاہدین کو روکنے کے لئے بھیج دیا۔ لوشہ، البیرہ اور متینل کی حفاظت کے لئے جس قدر فوج کی ضرورت تھی وہ اس نے ابو عبد اللہ کے پاس چھوڑ دی اور خود شاہ فرانس کے حملہ کے خطرے کی روک تھام کے لئے واپس چلا گیا۔

(۴)

شاہ فرانس کے ساتھ صلح کرنے کے لئے فرٹینینڈ نے پادریوں کا ایک وفد اس کے پاس بھیجا اور اسے اس بات کا احساس دلایا کہ غرناطہ اور ہسپانیہ کی جنگ ہلال و صلیب کی جنگ ہے اور اس نازک موقع پر صلیب کے دو علم برداروں کی لڑائی سے مسلمان فائدہ اٹھائیں گے۔ قسطلہ اور فرانس کے بشپ نے ایک دوسرے سے بغل گیری ہو کر بادشاہوں کو مصافحہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ فرانس کے بادشاہ نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے ثواب میں حصہ دار بننے کے لئے دو ہزار سوار اور بیس بحری جہاز فرٹینینڈ کے سپرد کر دیئے۔

فرٹینینڈ کو مدت سے اس بات کا احساس تھا کہ جب تک وہ مالقہ پر قبضہ نہیں کرتا غرناطہ کی قوت نہیں ٹوٹے گی۔ مالقہ غرناطہ کی اہم ترین بندرگاہ تھی اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد وہ غرناطہ کے تمام ساحلی علاقہ پر قابض ہو سکتا تھا۔ اس صورت میں المیرہ کی بندرگاہ کے سوا وہ اندلس اور مراکش کے درمیان تمام راستے کاٹ سکتا تھا اور مسلمانوں کی اس امید کو خاک میں ملا سکتا تھا کہ اسلامی دنیا ان کی پشت پر ہے۔ اسے یقین تھا کہ مالقہ چھین جانے کے بعد غرناطہ کے مسلمان یہ محسوس کریں گے کہ وہ عیسائیوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ مالقہ سے وہ سیرانویدا کے سرکش قبائل کی سرکوبی کر سکتا تھا۔ فرانس سے بیس جہاز مل جانے کے باعث اس کا بحری بیڑہ مضبوط ہو چکا تھا۔ اس نے ابو عبد اللہ کو لکھا کہ میری فوج اچانک

مالقہ پر حملہ کرے گی اور مالقہ کی اہمیت کے پیش نظر الزغل فوراً غرناطہ چھوڑ کر وہاں پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ تم کسی مزاحمت کے بغیر غرناطہ پر قبضہ کر سکو گے۔

چند دنوں کے بعد فرٹیفینڈ کا بحری بیڑہ مالقہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا اور وہ خود بھی فوج کے ساتھ جنوب مغرب سے ایک لمبا چکر کاٹنے کے بعد مالقہ کا رخ کر رہا تھا۔ مالقہ پر بحری حملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ نصرانی فوج نے معمولی مزاحمت کے بغیر ساحل پر اتر کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔

الزغل کی ساری توجہ لوشہ کی طرف تھی۔ اُسے اچانک مالقہ کے محاصرے کی خبر ملی تو اس نے غرناطہ کو مٹھی بھر سپاہیوں کی حفاظت میں چھوڑ کر مالقہ کا رخ کیا لیکن وہ ابھی مالقہ سے ایک منزل دُور ہی تھا کہ اُسے یہ اطلاع ملی کہ ابو عبد اللہ آٹھ ہزار فوج کے ساتھ غرناطہ کا رخ کر رہا ہے۔ وہ بالیوسی کی حالت میں اپنی فوج کا بیشتر حصہ مالقہ کی طرف روانہ کر کے غرناطہ لوٹ آیا۔ لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے غداروں کی جماعت ابو عبد اللہ کے لئے شہر کے دروازے کھول چکی تھی اور الحمرار پر ابو عبد اللہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ الزغل نے شکستہ دل ہو کر پھر مالقہ کا رخ کیا لیکن دعا باز بھتیجے نے اُس کی فوج کی معمولی تعداد سے باخبر ہوتے ہی اس پر عقب سے حملہ کر دیا۔ الزغل کے سپاہی بہادری سے لڑے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی تلواریں فقط نصرانیوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کی تلواروں کے ساتھ بھی لٹک رہی ہیں تو وہ دیر تک ثابت قدم نہ رہ سکے۔ الزغل نے شکست کھا کر الپسیر کے علاقہ میں پناہ لی۔ اگلے دن اُسے خبر ملی کہ مالقہ کے راستے میں اس کی باقی فوج فرٹیفینڈ کے ہاتھوں شکست کھا چکی ہے اور مالقہ اور اس کے درمیان خشکی اور سمندر کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ الپسیر کے جنگجو قبائل کی ایک مختصر سی فوج منظم کرنے کے بعد الزغل نے بسط کو اپنا مستقر بنا لیا۔ مالقہ میں الزغری نے ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن ایک ماہ تک رسد اور ملک نہ ملنے کے باعث لوگ بے بس ہو گئے۔ الزغل نے چند بار پہاڑوں سے نکل کر مالقہ کی طرف پیش قدمی کی لیکن میدان میں فرٹیفینڈ کے

شکر جہا کے سامنے اس کی پیش نہ گئی۔

بدر بن مغیرہ نے بھی اپنے حملوں کا رخ شمال مشرق کی بجائے جنوب مشرق کی طرف پھیر دیا۔ لیکن فرطینڈ کی ٹڈی دل فوج کو معمولی نقصانات بدحواس نہ کر سکے اور فرطینڈ نے اپنے گزشتہ تلخ تجربات کے پیش نظر اپنی فوج کو آگے بڑھ کر اس کے حملوں کا جواب دینے کی اجازت نہ

دی۔

(۵)

اہل مالقہ کی حالت نازک ہو چکی تھی۔ بھوک سے مرتے ہوئے لوگ ہتھیار ڈالنے کے حق میں ہو رہے تھے لیکن الزغیری نے ہمت نہ ہاری۔ صلح پسندوں کے سامنے اس کا ایک ہی جواب تھا۔ "دشمن میری لاش کو روندے بغیر شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔" جب سپاہی حوصلہ ہار دیتے تو اُس کی تقریریں اُن کی رُوح تازہ کر دیتیں۔ لیکن جب مالقہ کے ہر اُفق پر تاریکی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا تو شہری آبادی کی طرح فوج میں بھی پھوٹ پڑ گئی۔ چند غداروں نے فرطینڈ سے ساز باز کر کے شہر کے دروازے کھول دئے اور الزغیری کو گرفتار کر کے دشمن کے حوالے کر دیا۔

فرطینڈ کے حکم سے الزغیری کو بدترین اذیتیں دے کر قتل کیا گیا۔ اس کے بعد اہل مالقہ نے وحشت اور بربریت کا وہ دور دورہ دیکھا جو اُن کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ فرطینڈ کی فوج کے سپاہیوں نے فتح کے نشہ کے بعد شراب کے نشے میں مدھوش ہو کر مالقہ میں قیامت برپا کر دی۔ عورتوں کو گھروں سے گھسیٹ کر بازار میں لایا گیا۔ انہیں سوڑ کا گوشت کھانے اور شراب پینے پر مجبور کیا اور بنوک شمشیر سے سمجھایا گیا کہ فاتح کے ہر حکم کی تعمیل مفتوح پر فرض ہے۔ جن مردوں نے اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا انہیں زندہ جلانے کی سزا دی گئی اور جب وہ لوگ جنہوں نے الزغیری سے غداری کر کے دشمن کے لئے شہر کے دروازے کھولے تھے، فرطینڈ

کے پاس شکایت لے کر گئے تو اس نے جواب دیا۔ "مالقہ اندلس کا دروازہ ہے۔ میں اُسے دشمن کے وجود سے پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارے لئے میری فوج کا سلوک ناقابل برداشت ہے تو تم شہر کو چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ اگر تم سے کوئی مراکش جانا چاہے تو میرے جہاز موجود ہیں۔"

مالقہ چھین جانے کے بعد غرناطہ کی سلطنت کا تمام حصہ عیسائیوں کے قبضہ میں آ گیا اور جنوب میں مالقہ کے آس پاس ساحلی علاقے کے شہر بھی ان کے قبضے میں چلے گئے۔ الزغل کی مختصر سی سلطنت شمال میں جیان سے لے کر جنوب میں المیر یہ تک تھی۔ مالقہ کی بندرگاہ چھین جانے کے بعد المیر یہ کی بندرگاہ مسلمانوں کے لئے شاہ رگ کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ گاؤز اور بیغہ الزغل کے قبضہ میں تھے۔ اپنے وسائل کے لحاظ سے یہ مختصر سی سلطنت کافی خوشحال تھی۔ الپکسرا کی وادیاں کوہ سیرانویدیا کی برفانی چوٹیوں کی ندیوں سے سیراب ہوتی تھیں۔ اس علاقہ میں میوہ جات کی پیداوار سارے اندلس سے زیادہ تھی۔ اور باقی علاقے میں جو زیادہ تر پہاڑی تھا۔ لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ مویشی پالتے تھے اور دفاعی اعتبار سے اس علاقے کے جنگل اور پہاڑ کافی محفوظ تھے۔

فرڈینینڈ نے چند دنوں کی تیاری کے بعد بیغہ پر حملہ کیا اور شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ لیکن پہاڑی قبائل نے نیچے اتر کر چاروں اطراف سے جنگ چاویل شروع کر دی۔ بیغہ کی اہمیت محسوس کرتے ہوئے بدر بن مغیرہ اپنی سرحد کی حفاظت منصور بن احمد کے سپرد کر کے دو ہزار جانبازوں کے ساتھ ملیغار کرتا ہوا بیغہ پہنچا اور پہلے شب خون میں اُس نے فرڈینینڈ کے پانچ ہزار سپاہیوں کو تہ تیغ کر دیا۔ اگلی رات اس نے دوبارہ عقب سے حملہ کیا اور الزغل نے شہر سے نکل کر دشمن پر دھاوا بول دیا۔ صبح کے وقت فرڈینینڈ نے محاصرہ اٹھالیا اور مالقہ واپس چلا آیا۔

مالقہ میں ایک سال کی تیاری کے بعد فرڈینینڈ نے پھر بیغہ پر چڑھائی کی لیکن اس دفعہ

اس نے شہر پر حملہ کرنے کی بجائے اردگرد کے تمام علاقے میں تباہی مچا دی، کسانوں کے بولتی چھین لئے اور ان کی فصلیں اور باغات برباد کر دیئے۔ قبائلیوں کے غیر متوقع حملے کی روک تھام کے لئے اس نے بیغہ کے ہر راستے پر مورچے بنا دیئے۔ بدر بن مغیرہ کے جانا بازوں اور قبائلیوں کے لچانک حملے فرطینڈ کو کافی نقصان پہنچاتے رہے لیکن وہ اہل بیغہ کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ چھ ماہ کے طویل محاصرے کے بعد اہل بیغہ نے سخت قحط میں مبتلا ہو کر اطاعت قبول کر لی۔

فرطینڈ نے بیغہ کو اپنا مستقر بنا کر اپکسر کے تمام قلعے ایک ایک کر کے الزغل سے

چھین لئے۔

(۶)

بشیر بن حسن بدر بن مغیرہ کے زخمی بازو پر پٹی باندھ رہا تھا منصور مکرے میں داخل ہوا۔

بدر بن مغیرہ نے سوال کیا۔ "منصور بتم ابھی تک گئے نہیں؟"

منصور نے جواب دیا۔ "میں قلعے سے نکلا ہی تھا کہ وہ مل گئے۔"

"الزغل خود یہاں آ گیا ہے۔"

"ہاں میں انہیں نیچے ملاقات کے کمرے میں بٹھا آیا ہوں۔"

"ان کے ساتھ اور کون ہے؟"

"ان کے ساتھ ابو محسن ہے۔ وہ اپنے ساتھ چند سپاہی بھی لائے تھے لیکن ہمارے

آدمیوں نے انہیں پل کے پار روک لیا ہے۔"

"انہوں نے شکایت تو نہیں کی؟"

"وہ اس بات پر پریشان تھے لیکن میں نے یہ کہہ کر ان کی تسلی کر دی ہے کہ یہ ایک

عام حکم تھا اور چونکہ آپ کی آمد غیر متوقع تھی اس لئے سپاہیوں کو اس بارے میں کوئی خاص

ہدایت نہیں دی گئی تھی۔"

بدربن مغیرہ نے کہا۔ "تم نے انہیں بتایا کہ تم میرا خط لے کر ان کے پاس جا رہے تھے۔"
 "ہاں میں نے خط پیش بھی کر دیا تھا لیکن انہوں نے پڑھے بغیر مجھے واپس دے دیا۔
 وہ یہ کہتے تھے کہ اتنی دُور آنے کے بعد میں زبانی بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔"
 "تم نے انہیں بتایا نہیں کہ ملاقات کی صورت میں میرا جواب وہی ہوگا جو میں نے خط
 میں لکھ دیا ہے۔"

"وہ اس قدر مخموم اور پریشان ہیں کہ میں نے ایسی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔"
 بدر نے کہا۔ "میں اس ملاقات سے بچنا چاہتا تھا۔ بہر حال اب یہ ایک مجبوری ہے
 لیکن تم دونوں میرے ساتھ رہو۔ اگر میں اپنے فرض سے کوتاہی کروں تو میری اصلاح کر دینا۔"
 تھوڑی دیر بعد بدر بن مغیرہ، بشیر اور منصور اس پہاڑی قلعے کے ایک کٹادہ کمرے میں
 الزغل اور ابومحسن سے مصافحہ کر رہے تھے۔ جب وہ رسمی مزاج پرسی کے بعد کرسیوں پر بیٹھ
 گئے تو الزغل نے تھوڑی دیر سر جھبکا کر سوچنے کے بعد کہا: "آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں کیوں
 آیا ہوں۔ میں آپ کے جواب کا انتظار نہ کر سکا۔ آپ کی صورتیں تباہی ہیں کہ آپ مجھ سے
 خفا ہیں۔ میں اپنی صفائی پیش کرنے کی نیت سے یہاں نہیں آیا۔ مجھے افسوس ہے کہ حالات
 نے مجھے آپ سے مشورہ لینے کا موقع نہ دیا۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے بُزدلی کی لیکن
 غلط شاہد ہے مجھے اپنی جان بچانے کی فکر نہ تھی۔ میں اس وقت بھی اپنے آپ کو زندوں
 میں شمار نہیں کرتا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے تلوار اس وقت پھینکی ہے جب کہ
 میرے بازو کٹ چکے تھے۔ کاش! مجھے چند برس پہلے یہ احساس ہوتا کہ دریا کا پانی روکنے
 کے لئے ریت کے بند کام نہیں دیتے۔ میرے اندازے غلط تھے اور مجھ جیسے غلط اندیش آدمی
 کو قوم کی قیادت کا حق نہ تھا اور تمہارے سامنے میرے پاس ندامت کے آنسوؤں کے سوا کچھ
 نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے معاف نہ کرو گے۔ ابو عبد اللہ پر اہتمام کرنا ایک ایسا گناہ تھا جس
 کے لئے میں خود اپنے آپ کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں۔ میرا ضمیر ہمیشہ مجھے ملامت کرتا

رہے گا۔ میں نے فرطینڈ کی اطاعت اس وقت قبول کی ہے جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اب مزید قربانیاں بے سود ہیں۔ ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے اور دشمن ہمیں چاروں طرف سے گھیر چکا ہے۔ قوم کا ایک حصہ دشمن کی غلامی پر قانع ہو چکا ہے اور جو حریت پسند تھے وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اب ان کی قوتِ مدافعت جواب دے چکی ہے۔ میرے لئے دو ہی راستے تھے ایک یہ کہ فرطینڈ کی غلامی قبول کر کے ہرے سے مسلمانوں کو تباہی سے بچاؤں دوسرا یہ کہ میں ایک ایسی جنگ جاری رکھوں جس کا انجام شکست کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس صورت میں مر کر بھی اپنے نام کو داغدار ہونے سے بچا لیتا۔ لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا یہ فعل اندس اور غرناطہ کے مفتوحہ علاقوں کے مسلمانوں کے حال اور مستقبل سے آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہوگا میرا ساتھ دینے والے مسلمانوں کی ایک مٹھی بھر جماعت فقط چند برس آزاد رہ سکے گی لیکن باقی لاکھوں مسلمان جن کی آزادی چھین چکی ہے دشمن کے انتقام کی آگ میں بھسبم ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ امن قائم ہو جانے کے بعد وہ پھر کبھی اٹھ کھڑے ہوں اور قدرت ان کی راہنمائی کے لئے کسی بہتر انسان کو بھیج دے۔ بہر حال اپنے متعلق مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں اگر اس مسئلہ کی حالت میں انہیں لڑاتا رہا تو ان کی تباہی کے دن قریب تر آتے جائیں گے۔ میری قوم کی رگوں میں صرف خون کے چند قطرے باقی ہیں جب وہ بہہ جائیں گے تو ان کے پاس بھی میری طرح ندائت کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔

یہاں تک کہ کہہ کر الزغل نے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش تھا۔ تھوڑی دیر بوجھنے کے بعد الزغل نے کہا۔ "لیکن کہنیج یہ نہ سمجھے کہ میں آپ سے اور آپ کے جانبازوں سے مایوس ہو چکا ہوں۔ آپ غرناطہ اور اندس کے مسلمانوں کی آخری اُمید ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کسی دن یہ وادی ہماری قوم کا آخری قلعہ ہوگی لیکن اس وقت یہ ضروری ہے کہ آپ کو تیاری کو موقع دینے کے لئے نصرانیوں کے سیلاب کو اس وادی سے دُور رکھا جائے اور اس مقصد کے لئے

میں ۔۔۔۔۔"

الزغل یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔

بدر نے کہا: "ہاں ہاں کہنے آپ خاموش کیوں ہو گئے؟"

الزغل نے جھکتے ہوئے کہا: "میں فرٹھینڈ کو یقین دلا چکا ہوں کہ آپ کو صرف میں نے

میدان میں گھسیٹا تھا۔ اب اگر وہ آپ کے اس علاقے کی آزادی تسلیم کر لے تو آپ غرناطہ

کے لوگوں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھیں گے۔"

بدر نے پوچھا: "آپ نے اُسے یہ تو نہیں بتایا کہ میں زندہ ہوں۔"

"نہیں۔ میں نے اُسے یقین دلا دیا تھا کہ آپ کا جانشین میری ہدایات پر عمل کرے گا۔"

"تو آپ ہمارے پاس فرٹھینڈ کی دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔"

"خدا کے لئے اس بارے میں آپ میری نیت کے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔"

میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو تیاری کا موقع دیا جائے۔ میں آپ کے پاس فرٹھینڈ کا خط

لے کر آیا ہوں۔"

الزغل نے یہ کہتے ہوئے اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کاغذ نکال کر بدر

بن مغیرہ کو پیش کیا۔

بدر بن مغیرہ نے کاغذ بشر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا

"تم پڑھو۔ بشر نے گھٹی ہوئی آواز میں فرٹھینڈ کا مکتوب

پڑھا شروع کیا۔

"سلطان الزغل کی سفارش پر ہم منصور بن احمد اور

اس کے ساتھیوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں ایک

طویل جنگ کے بعد ہم اندلس کے عوام کی فلاح کے لئے

عیسائیوں اور مسلمانوں میں صلح اور امن کی ضرورت محسوس

کرتے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا ایک بہادر دشمن

ہماری طرف سے ایک نہایت فیاضانہ پیش کش کے بعد
قیام امن کے لئے ہمارا ساتھ دے گا۔ سمجھوتہ کے لئے ہماری
پیش کش یہ ہے :-

(۱) کوہ تد میر اور جبل اشیر کے درمیان وہ علاقہ جسے
عقاب کی وادی کے نام سے پکارا جاتا ہے آزاد اور خود مختار
ہوگا اور اس علاقے کے باشندوں کو یہ حق ہوگا کہ وہ منصور
بن احمد یا جسے وہ چاہیں اپنا حکمران بنالیں۔

(۲) بیرونی حملے کی مدافعت کے لئے ہم اس علاقے
کے حکمران کی مدد کریں گے۔

اس انتہائی فیاضانہ پیش کش کے بعد ہم صرف یہ
مطالبہ کرتے ہیں۔

”ہماری شمالی اور مشرقی سرحدات کے وہ قلعے جن پر
اب تک منصور بن احمد کا قبضہ ہے ہمیں واپس کرنے
چاہئیں اور آئندہ کے لئے ہمیں اس بات کا یقین دلایا
جائے کہ منصور بن احمد یا اس کے جانشین ہماری سلطنت
کی سرحدوں پر حملے نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ
غزناط اور انڈرکس کی سلطنتوں کے معاملات میں جن کے
حکمران اب ہمارے حلیف بن چکے ہیں مداخلت نہیں
کریں گے اور ہمارے خلاف کسی باغی کو مدد نہیں دیں
گے خواہ وہ عیسائی ہو یا مسلمان“

فرطہ بندی کا مکتوب ختم کرنے کے بعد بشر نے بدر کی طرف دیکھا اور باقی تمام کی نگاہیں بھی

اس کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ بدر بن مغیرہ نے گردن اٹھا کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا۔
"منصور! تم اس کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہو؟"

منصور نے بشر کی طرف دیکھا اور پھر بدر کی طرف متوجہ ہو کر جواب دیا۔ "اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمانان اندلس کی اُمیدوں کے جنازے کو کندھا دینے کے لئے تیار ہوں یا نہیں تو میرا جواب نفی میں ہے۔"

بدر نے کہا۔ "اور بشر تم؟"

بشر نے جواب دیا۔ "اگر مجھے اس بات کا یقین بھی ہو جائے کہ میری قوم کا سفینہ ڈوب رہا ہے تو بھی میں اُسے چھوڑ کر تنکوں کا سہارا لینا گوارا نہیں کروں گا۔"

بدر بن مغیرہ نے الزغل کی طرف دیکھا اور کہا۔ "فرڈیننڈ کو یقین ہے کہ ہم تھک چکے ہیں اور ہم پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہے۔ ہمارا گلا گھونٹنے سے پہلے وہ ہمیں سلانا ضروری سمجھتا ہے اور ہمیں لوریاں دینے کے لئے اُس نے اُس شخص کو منتخب کیا ہے جس نے غرناطہ کو چھوڑ دیا۔"
"کہ خوابِ غفلت سے جگایا تھا۔ اُس کی فیاضانہ پیش کش ایک خواب آور دوا ہے اور اس دوا کو ہماری حلق میں اتارنے کے لئے اس نے اس شخص کے ہاتھ منتخب کئے ہیں جو کل تک غرناطہ کا بازوئے شمشیر زن تھا۔ آج غرناطہ کی آخری اُمید ہمیں مایوسی کے آخری گڑھے کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے محسن اور ہمارے راہنما کی نگاہ میں ہماری جانیں بہت قیمتی ہیں۔ اس لئے آپ ہمیں یہ مشورہ دینے کے لئے آئے ہیں کہ ہمیں ذلیل رہ کر بھی زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔"

"سلطان الزغل! آپ کہتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ مصالحت کر کے ہمیں تیاری کا موقع مل جائے گا لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دشمن ہم پر آخری ضرب لگانے کے لئے خود تیاری کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ عمل کی دنیا میں طاقتور اور کمزور کے معاہدوں کے کوئی معنی نہیں ایسے معاہدے کمزور کو بائند سلاسل بنا دیتے ہیں اور طاقتور کو اپنی تلوار تیز کرنے کا موقع دیتے

ہیں۔ اگر ہم طاقتور ہیں تو اپنے دشمن کی بُری خواہشات کے باوجود بھی زندہ رہ سکتے ہیں اور اگر ہم کمزور ہیں تو دشمن کی طرف سے نیک خواہشات کا اظہار ہماری بقا کے لئے کافی نہیں۔ ہماری عزت، ہماری آزادی اور ہماری بقا کی ضامن فقط ہماری تلوار ہے اور ہماری تلوار ہماری فتح یا موت سے پہلے نیام میں نہیں جائے گی۔ کیا ہم اس دشمن کا اختیار کریں جس نے مالقہ کی فتح کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ساحل کا علاقہ خالی کر دیں۔ کیا آپ ہمیں اس شخص کی تحریر پر اعتبار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں جس کے ہاتھ ہماری قوم کے بچوں اور عورتوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ جب مالقہ کی گلیوں میں مسلمان لڑکیوں کی عصمت دری ہو رہی تھی تو وہ فیاض اور رحم دل حکمران کہاں سو رہا تھا؟ اگر آپ خود فریبی میں مبتلا ہو چکے ہیں تو خدا کے لئے ہمیں خود فریبی میں مبتلا نہ کیجئے۔ آپ کو اس بات کی پریشانی ہے کہ ہماری قربانیاں بے مقصد ثابت ہونگی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قربانی بذاتِ خود ایک مقصد ہے۔ اگر ہمارے مقصد میں عزت کی زندگی نہیں تو عزت کی موت کا راستہ بند نہیں ہوا۔

بددین مغیرہ جوش کی حالت میں کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کسی قوم کی رگوں کا خون بہنے سے ختم نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس صورت میں خشک ہوتا ہے جب وہ ذلت کی زندگی قبول کر لیتی ہے۔ فرٹنی سٹڈ سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنی آزادی کی قیمت ادا کرنا جانتے ہیں۔ اب ہم فرٹنی سٹڈ کی فتوحات کے سیلاب نے فقط ریت کے بند توڑے ہیں لیکن اس وادی کا رخ کرنے کے بعد اسے ان چٹانوں سے واسطہ پڑے گا جو گزشتہ صدیوں میں کسی طوفانوں کا مقابلہ کر چکی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو ہماری ہمدردی کا جذبہ یہاں تک کھینچ لایا ہے۔ آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس راستے پر بڑھتے چلے جائیں جس میں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں لیکن یہ پاؤں ان کانٹوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہ جسم پھولوں کی سیجوں سے آشنا نہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا افسوس ہے کہ آپ کی راہنمائی میں ہماری قربانیاں رائیگاں گئیں تو ہمیں بھی اس بات کا افسوس ہے کہ وہ شخص جو الجھراء میں سنگِ مرمر کے مکانات میں رہنے

اور مچلیں بستروں پر سونے کا عادی تھا بڑھاپے کے ایام میں ہمارے ساتھ جنگ کی صعوبتیں
 جھیلتا رہا۔ ابو عبد اللہ کو غرناطہ کا تخت اور آپ کو انڈرکس کی سلطنت مبارک ہو۔ آپ ہماری فکر
 نہ کریں۔ ہم نے تو اوروں کے سائے میں آنکھ کھولی ہے اور تیروں کی بادشس میں سو
 جائیں گے۔“

وہ آنسو جنہیں الزغل روکنے کی کوشش کر رہا تھا بے اختیار اُبل پڑے۔ اس کے
 کانپتے ہوئے ہونٹوں سے درد میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی۔ ”بدر! بیدار! اپنے گورے ہونے
 رفیق کو غیر ضروری ٹھوکریں نہ لگاؤ۔ تم مجھے اس شرم و خجالت کی زمین میں دوبارہ نہیں دیکھو گے
 میں افریقہ جا رہا ہوں۔ آپ کو مجھ جیسے کمزور انسان کی ضرورت نہیں اور باقی قوم عبد اللہ پر
 قناعت کر چکی ہے۔ اندلس میں اگر مسلمانوں کا کوئی مستقبل ہے تو اس کے امین آپ ہیں۔
 انڈرکس کے وہ لوگ جو آپ کے نقش قدم چلنا چاہتے ہیں آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔
 میرے پاس کچھ سونا اور جواہرات ہیں۔ میں قوم کی امانت آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ نصرت
 ہونے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو میرے آنسوؤں سے غلط فہمی نہ ہو۔ یہ ندامت کے
 آنسو تھے اور ابو محسن تمہارا مقام بھی یہ وادی ہے۔“

الزغل یہاں تک کہہ کر اُٹھ کھڑا ہوا۔ ”اب میں جانا چاہتا ہوں۔“

بدر نے کہا: ”آپ تھکے ہوئے ہیں کل تک آرام لیجئے۔“

”نہیں میں آج ہی جانا چاہتا ہوں۔“

شام کے وقت بدر اور اس کے چند ساتھی ایک ندی کے پُل پر الزغل کو ”خدا حافظ کہہ“

رہے تھے۔

طرفین بن مالک

(۱)

ابو عبد اللہ کو جب اپنے چچا کے متعلق یہ اطلاع ملی کہ وہ اندر کس چھوڑ کر افریقہ چلا گیا ہے تو اس نے فرٹینیڈ کو مالقہ میں مبارکباد کا پیغام بھیجا اور غرناطہ میں جشن منانے کا حکم دیا۔ رات کے وقت الحمرار کے در و دیوار تقیلوں کی روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ محل کے ایک کشادہ کمرے میں ابو عبد اللہ کی طرف سے اپنے وفادار سرداروں اور ارکان سلطنت کی دعوت کا اہتمام تھا۔ طعام کے بعد ناچ اور راگ شروع ہوا۔ شراب کے دور چلے اور جب یہ محل اپنے شباب پر تھی تو ابو عبد اللہ شراب کے نشے میں جھومتا ہوا اٹھا اور بولا: "تم میں سے بعض یہ کہا کرتے تھے کہ میں بد نصیب ہوں۔ آج سے مجھے کوئی بد نصیب نہ کہے۔ میں غرناطہ کا بادشاہ ہوں۔ فرٹینیڈ کے وعدے سچے ہیں۔ مجھے غرناطہ کے تمام علاقے واپس مل جائیں گے۔ تم خاموش کیوں ہو گئے؟ ہنسو، گاؤ اور شراب جی بھر کر پیو۔ میں تمہارے لئے الحمرار کے محل میں شراب کی ایک نہر بنواؤں گا۔ ایکسرا کے باغات کے تمام انگوروں سے شراب بنائی جائے گی۔ ہم نے اہل شہر کو بھی جشن منانے کا حکم دیا تھا لیکن ہم نے سنا ہے کہ بعض فرٹینیڈ

نے گلیوں اور بازاروں کے چراغ بجھا دئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو باہر سے آکر غرناطہ میں یہ مشہور کر رہے ہیں کہ عیسائیوں نے ان پر بہت مظالم کئے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے۔ آئندہ ایسے لوگوں کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فرڈیننڈ اعظم کے خلاف کو نعرہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وہ ہمارا محسن ہے۔ آج الحمرار میں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ سب اسی کی بدولت ہے۔“

لیکن شہر کی حالت الحمرار سے بہت مختلف تھی۔ شام کے وقت سرکاری حکم سے شہر کے کوچوں اور گلیوں میں جو چراغ جلائے گئے تھے وہ ابو عبداللہ کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں نے زبردستی بجھا دئے تھے۔ مظاہرین رات بھر گلیوں، کوچوں اور چوراہوں میں جمع ہو کر غداران قوم کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ شہر میں ابو عبداللہ کے جن حامیوں نے اپنے گھروں میں چراغاں کیا ان کے مکانوں پر نشت باری کی گئی۔ علماء کا ایک بااثر گروہ مظاہرین کے ساتھ تھا اور جن نام نہاد علماء نے اپنی مسجدوں میں جلسے کر کے ابو عبداللہ کی درازی عمر کے لئے دعائیں مانگیں انہیں نوجوان طلباء نے مساجد کے باہر گھسیٹ کر بھی زد و کوب کرنے سے دریغ نہ کیا۔ مردوں کی طرح خواتین کا ایک جلوس بھی رات بھر شہر میں چکر لگاتا رہا اور اس جلوس میں غرناطہ کی خواتین کے علاوہ پناہ گزین عورتیں بھی شریک تھیں جن کے آنسو اہل غرناطہ کو مالتھ اور بیغہ میں عیسائیوں کے مظالم کی داستانیں سنا چکے تھے۔

ابو عبداللہ نے تین دن جشن منایا۔ تین دن الحمرار کی دیواریں حکومت کے عشرت پسند اہل کاروں کے قہقہوں اور رعایا کی آہوں کے درمیان حدِ فاصل کا کام دیتی رہیں۔ تین دن الحمرار میں ارخوانی شراب کے جام چھلکے اور غرناطہ کے عوام کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے رہے اور چوتھے دن ابو عبداللہ فرڈیننڈ کا یہ مکتوب پڑھ رہا تھا:

”ہمیں معلوم ہوا ہے کہ غرناطہ میں ہماری رعایا تم سے خوش نہیں اور شہر میں ہمارے باغی جمع ہو رہے

ہیں۔ ہم مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان آئندہ کسی جنگ کے امکانات ختم کرنے کے لئے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ تم غرناطہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس خط کے جواب میں ہم صرف یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہماری فوج کے لئے غرناطہ کے دروازے بند نہیں کئے جائیں گے۔ بصورتِ دیگر ہم قوت کے استعمال پر مجبور ہوں گے۔ غرناطہ پہنچ کر ہم تمہارے مستقبل کے متعلق کوئی فیصلہ کریں گے۔ اگر تمہیں ہماری طرف سے فیاضانہ برتاؤ کی خواہش ہے تو غیر مشروط اطاعت ضروری ہے۔“

ابو عبداللہ کی طرح ارکانِ سلطنت کی آنکھوں سے بھی شراب کا خمار اتر چکا تھا۔ سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہماک کے در و دیوار پر مایوسی کی گھٹائیں چھا رہی تھیں۔

ابو عبداللہ نے فرٹینڈ کے ایچی کی طرف دیکھا اور نحیف آواز میں کہا: ”دو دن تک شہنشاہ فرٹینڈ کو ہماری طرف سے جواب مل جائے گا۔“

ابو عبداللہ کا نیا وزیر طرف بن مالک بربی قابل کا سب سے بڑا سردار تھا۔ اُس نے اٹھ کر جواب دیا: ”فرٹینڈ کو یقیناً ہمارے متعلق کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ غلط فہمی دُور ہو جائے گی۔ اگر آپ کا مشورہ ہو تو میں خود اُس کے پاس جانے کے لئے تیار ہوں۔“

دوسرے سردار نے اٹھ کر کہا: ”فرٹینڈ نے ہمارے لئے صرف دو ہی راستے چھوڑے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اس کے حکم کی تعمیل کریں اور اپنے گھروں میں ان دشمنوں کا استقبال کرنے کے لئے تیار ہو جائیں جن کا اولین مقصد ہماری بہو بیٹیوں کی بے حرمتی کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ

ہم ایک باعزت موت کے لئے تیار ہو جائیں۔“

ایک اور سردار نے اٹھ کر کہا: جگ ہمارے لئے موت کے مترادف ہے۔“

ابو عبداللہ کو اچانک ایک خیال آیا اور اس نے قدم پرامید ہو کر کہا: ”طریف ہم ابو داؤد کے پاس جاؤ۔ اس وقت اس کے سوا ہمیں کوئی صحیح راستہ نہیں بنا سکتا۔ اگر فرٹینڈ کو ہمارے متعلق کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو وہ یقیناً دور کر سکے گا۔ فرٹینڈ اُسے لوشہ کا حاکم بنا چکا ہے، تم فوراً اُس کے پاس پہنچ جاؤ۔“

تھوڑی دیر بعد طریف لوشہ کا رخ کر رہا تھا۔

(۲)

ابو داؤد نے طریف بن مالک کو دیکھتے ہی پہچان لیا لیکن طریف کی توقع کے خلاف اس نے کسی گرم جوشی سے خیر مقدم کرنے کی بجائے اپنی کرسی سے اٹھ کر مصافحہ تک بھی نہ کیا فقط اپنے سامنے خالی کرسی کی طرف اشارہ کر دیا۔

طریف نے کرسی پر بیٹھ کر جھکے ہوئے کہا: ”مجھے ابو عبداللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔“

ابو داؤد نے جواب دیا: ”مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے مشورہ لینے آئے ہیں۔“

”تو آپ کو معلوم ہے کہ فرٹینڈ نے ہمارے ساتھ عہد شکنی کی ہے۔“

ابو داؤد نے جواب دیا: ”میں ایک گورنر کی حیثیت میں اپنے بادشاہ کے خلاف کوئی

بات سننے کے لئے تیار نہیں اور میں ابو عبداللہ کو بھی یہ مشورہ نہیں دے سکتا کہ وہ اپنے شہنشاہ کے حکم سے سرتابی کرے۔“

”لیکن میں یہ سمجھ کر آیا ہوں کہ آپ ایک مسلمان ہیں۔ آپ غرناطہ کے خیر خواہ ہیں اور لوشہ

کے گورنر ہونے کی حیثیت میں بھی آپ غرناطہ کی حکومت کے ایک رکن ہیں۔ یہ شہر ہمارا ہے۔

میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیئے۔“

ابوداؤد نے جواب دیا: "ماقتور کے سامنے کمزور کی اطاعت ہمیشہ غیر شرط ہوتی ہے ابو عبد اللہ
کو میرا ہی مشورہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فرطینڈ کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔"
"لیکن آپ نے میرے سامنے ابو عبد اللہ کو کئی بار یقین دلایا تھا کہ فرطینڈ ہمارے ساتھ
دھوکا نہیں کرے گا۔ وہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ اُسے اپنی سلطنت وسیع کرنے کا لالچ نہیں۔ وہ
از غل کو شکست دینے کے بعد غرناطہ کی تمام سلطنت ابو عبد اللہ کے حوالے کر دے گا۔ اب
وہ وعدے کیا ہوتے۔ افسوس آپ لوشہ کی گورنری کے شوق میں یہ بھول گئے کہ آپ مسلمان قوم
کے ایک فرد ہیں اور اگر غرناطہ میں عیسائی فوجیں داخل ہو گئیں تو ہمارا انجام مالقہ کے لوگوں سے
بھی بُرا ہوگا۔"

ابوداؤد نے پھر اُسی لاپرواہی سے جواب دیا: "میں نے ابو عبد اللہ اور فرطینڈ کے
درمیان ایک ایچی کے فرائض انجام دئے تھے۔"
"نہیں۔ آپ نے ابو عبد اللہ کو فرطینڈ کے جھوٹے وعدوں پر اعتماد کرنے کی ترغیب
دی تھی۔"

ابوداؤد نے جواب دیا: "کیا ابو عبد اللہ کی طرح میں بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ کیا اس وقت
آپ سب میرے ہمنوا نہ تھے؟ اگر آپ تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا ضروری نہیں کہ ابو عبد اللہ
کی جگہ کوئی زیادہ دُور اندیش آدمی اہل غرناطہ کی قیادت سنبھال لے؟ نصرانیوں کے انتقام
سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی راہنما نہیں غرناطہ کے لوگوں کی طرف سے کامل
وفاداری کا یقین دلائے۔"

طرفی نے کہا: "اگر آپ کو غرناطہ کے لوگ راہنمائی کے لئے بلائیں تو آپ اس خدمت
کے لئے تیار ہوں گے؟"

"جب میں یہ محسوس کروں گا کہ میں اُن کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو میں بن بلائے بھی چلا
آؤں گا۔"

” لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ کے زیر سایہ پوشہ کے مسلمان بھی اپنے آپ کو زندگی کی بجائے موت سے زیادہ قریب محسوس کرتے ہیں۔“

” اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے ابھی تک خلوصِ دل سے مجھے اپنا راہنما تسلیم نہیں کیا اور میں پوری تسلی کے ساتھ ان کی طرف سے فرٹینینڈ کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا۔“
 طرف نے اٹھ کر کہا: ” تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک غرناطہ کے تمام شہروں کے مسلمان متفق ہو کر فرٹینینڈ کے کسی ادنیٰ جاسوس کو اپنا قائد نہیں بنا لیتے اس وقت تک ان کی نجات ممکن نہیں۔“

طرف کی توقع کے خلاف ابو داؤد نے اطمینان سے جواب دیا: ” ایسے موقعوں پر جہاد باقی باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں فرٹینینڈ کا جاسوس سہی لیکن تم نے بھی اس کی خدمت میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ اپنے دل کو ٹوٹل کر دیکھو۔ کیا تم یہ محسوس نہیں کرتے کہ تم ابو عبداللہ کی جگہ ہوتے تو اہل غرناطہ کے لئے بہتر ہوتا۔“

” نہیں میں ابو عبداللہ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔“

” بہت اچھا یونہی سہی لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ ابو عبداللہ کو غرناطہ کا بہترین راہنما سمجھتے ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم کے منصب تک پہنچنے کے لئے ایسے آدمی کو سلطان بنانا ضروری سمجھتے تھے۔ اگر آپ کو یہ اطمینان ہوتا کہ آپ ابو الحسن اور الزغل جیسے حکمرانوں کی موجودگی میں بھی اس منصب تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ غداری نہ کرتے اور اپنے دعویٰ کے ثبوت کے لئے میں صرف یہ کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ موسیٰ جیسے آدمی کو آپ نے صرف اس لئے قتل کروایا کہ اس کی موجودگی میں آپ کا کسی معمولی عہدے تک پہنچنا بھی محال تھا اور نہ یہ کون نہیں جانتا کہ وہ غرناطہ کا بہترین راہنما بن سکتا تھا۔ میرے دوست ہم دونوں کے سامنے اپنے اپنے مقاصد تھے۔ تم اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے ابو عبداللہ کے آلہ کار بنے اور میں اپنے مقصد کے لئے فرٹینینڈ کا آلہ کار بنا اور اب بھی آپ کو اہل غرناطہ کی تباہی کا خطرہ نہیں، آپ کو

صرف اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر ابو عبد اللہ کا تخت چھین گیا تو آپ کی وزارت کی کرسی بھی چھین جائے گی۔“

طرفین نے کھسیانا ہو کر کہا: ”تم شیطان ہو۔“

ابو داؤد کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ نمودار ہوئی: ”ایک چھوٹا شیطان بڑے شیطان کی عظمت کا اعتراف کر رہا ہے۔“ اور پھر اُس نے سنجیدہ ہو کر کہا: ”طرفین تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری منزل مقصود غرناطہ کی وزارت ہے لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے لئے عبد اللہ کا بادشاہ رہنا ضروری ہے تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ ابھی مجھے یہ معلوم نہیں کہ فرڈیننڈ نے غرناطہ کی مسند کے لئے کس کو منتخب کیا ہے لیکن وقت آنے پر میں اُسے بتا سکوں گا کہ وزارت کے عہدے کے لئے تم سے زیادہ موزوں کوئی نہیں۔ تم ڈوبتی ہوئی کشتی کا سہارا لینے کی بجائے اس طلح کا سہارا کیوں نہیں لیتے جس کے اشاروں پر ایسی کشتیاں ڈوبتی اور تیرتی رہیں گی۔ تم جانتے ہو کہ اب کسی شخص کے لئے غرناطہ کا بادشاہ یا وزیر بننے کے لئے فرڈیننڈ کی رضامندی کی ضرورت ہے۔ اگر تم چاہو تو وزارت کے لئے اس کی رضامندی حاصل کرنا مشکل نہیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جو شخص موسیٰ کے قتل پر نادم نہیں ابو عبد اللہ جیسے احمق کو فرڈیننڈ کے حوالے کر دینے پر کیوں پشیمان ہوگا۔“

طرفین نے کہا: ”جب میں غدار تھا تو مجھے اس بات کا احساس نہ تھا کہ نصرانی اس قدر بدعہد اور سفاک ہیں۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مالقہ میں انہوں نے میری قوم کے ساتھ جو سلوک کیا ہے میں اسے فراموش کر سکتا ہوں تو یہ غلط ہے۔“

”تم پھر جذبات میں آگئے۔ مالقہ میں الزغیری اگر فوراً ہتھیار ڈال دیتا تو عیسائی مسلمانوں کے ساتھ یقیناً یہ سلوک نہ کرتے۔“

طرفین نے کہا: ”اچھا اب میں جاتا ہوں۔“

ابو داؤد نے اٹھ کر مصلحی کے لئے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا: ”خدا حافظ! لیکن اچانک

طرف کے دل میں کوئی خیال آیا اور اس کا ہاتھ ابو داؤد کے ہاتھ کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گیا۔
اس نے کہا۔ "نہیں آج سے شاید ہمارے راستے مختلف ہوں۔"

ابو داؤد نے اطمینان کے ساتھ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ "تمہاری مرضی۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ تم ایک مباحکے کاٹنے کے بعد مجھ سے آلوگے۔ اگر تم اپنے آپ کو دھوکا نہیں دینا چاہتے تو تمہارے لئے ابو عبداللہ کے پاس جانے کی بجائے فرٹنہینڈ کے پاس جانا بہتر ہوگا۔"
طرف دروازے کے قریب پہنچ کر رُکا اور مڑ کر ایک ثانیہ کے لئے ابو داؤد کی طرف دیکھنے کے بعد باہر نکل گیا۔

ابو داؤد نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد تالی بجائی۔ ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور ادب سے سر جھکا کر اس کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ ابو داؤد نے کہا۔ "تم کو تو ال کے پاس جاؤ اور اُسے کہو کہ مجھے فوراً چار مستعد سمجھ دار اور دلیر آدمیوں کی ضرورت ہے۔"

نوکر چلا گیا اور ابو داؤد قلم اٹھا کر لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد چار نصرانی جو باس سے فوجی افسر معلوم ہوتے تھے اُس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ابو داؤد اپنی تحریر پر نظر ثانی کرنے کے بعد اُن کی طرف متوجہ ہوا۔ "غرناطہ کا ایچی ہمارے مہمان خانے میں کھڑا ہوا ہے اور اب کوچ کی تیاری کر رہا ہوگا۔ تم اُس کا اُس وقت تک بیچھا کرنا جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اُس کا رخ غرناطہ کی طرف ہے یا مالقہ کی طرف۔ اگر وہ مالقہ کا رخ کرے تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے شہنشاہ کا دوست ہے۔ اس صورت میں تم میں سے صرف ایک آدمی کو شہنشاہ معظم کی خدمت میں میرا مکتوب پہنچانے کے لئے مالقہ جانا پڑے گا اور اگر وہ غرناطہ کا رخ کرے تو یہ سمجھ لینا کہ ہماری سلطنت کے لئے اس کا وجود خطرناک ہے۔ اس صورت میں تمہارا یہ فرض ہوگا کہ تم اپنی جان پر کھیل کر بھی اسے غرناطہ جانے سے روکو۔ اُس کے ساتھ صرف پانچ آدمی ہیں۔ تم دو تین اچھے تیر انداز اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھی اس وقت باخبر ہوں جب تیرا اُس کے سینے میں پوریت ہو چکا ہو۔ اگر کوئی مجبوری

نہ ہو تو اُس کے باقی ساتھیوں پر حملہ نہ کیا جائے۔ اس کے بعد تم میں سے ایک آدمی مالقہ پیش
جائے اور شہنشاہ کی خدمت میں میرا خط پیش کرنے کے علاوہ باقی واقعات زبانی عرض
کر دے۔ اب جاؤ اگر طرف روانہ ہو چکا ہے تو بھی وہ زیادہ دُور نہیں گیا ہوگا؟

(۳)

لوشہ سے نکلنے کے بعد طرف نے کئی کوس تک اپنے ساتھیوں میں سے کسی کے
ساتھ بات نہ کی۔ رات کے وقت اس نے رستے کی ایک بستی کی چھوٹی ٹسی سرائے میں قیام
کیا۔ سرائے کا مالک ایک مراکشی مسلمان تھا۔ طرف نے گھوڑے سے اترتے ہی کہا: ہم
سے زیادہ ہمارے گھوڑوں کو خوراک کی اور آرام کی ضرورت ہے۔ ہم کچھلے پہرہاں سے
روانہ ہو جائیں گے۔

سرائے کے مالک نے کہا: آپ معزز آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ سرائے کے بہترین کمرے
میں نصرانی فوج کے دو افسر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آپ کے لئے میں
اپنے گھر کا ایک کمرہ خالی کر سکتا ہوں۔ آپ کے نوکروں کو سرائے میں جگہ مل جائے گی۔
طرف نے جواب دیا: میں صرف سونا چاہتا ہوں۔

سرائے کے مالک نے کہا: مجھے یہ ڈر ہے کہ سرائے میں آپ آرام کی غیند نہیں سو
سکیں گے۔ وہ فوجی گھوڑی دیر میں بستی کے ایک عیسائی کے گھر سے شراب پی کر آجائیں گے
اور رات بھر نہ خود سوئیں گے اور نہ کسی کو سونے دیں گے۔ میرے گھر اور اس سرائے کے
درمیان صرف ایک دیوار حائل ہے۔ شور تو آپ کو وہاں بھی سنائی دے گا لیکن وہ رات کے
وقت شراب کے نشے میں آپ کا دروازہ نہیں توڑیں گے۔

طرف نے کہا: بہت اچھا میں تمہارا مہمان ہوں۔

کھانا کھانے کے بعد طرف بستر پر لیٹنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اُسے سرائے کی طرف سے

شور سنائی دیا۔ غور سے سننے کے بعد اُسے کسی عورت کی چیخیں سنائی دیں۔ اس نے سرائے کے مالک کو آواز دی۔ سرائے کا مالک برابر کے کمرے سے نکل کر اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے طرف کے سوال کا انتظار کئے بغیر کہا: "معلوم ہوتا ہے کہ آج وہ پھر کوئی شکار پکڑ لائے ہیں۔"

"تمہارا مطلب ہے کہ وہ زبردستی لوگوں کی لٹکیاں اٹھلاتے ہیں۔"

سرائے کے مالک نے جواب دیا: "ہاں ایک فاتح قوم اپنے غلاموں سے اس قسم کے حقوق منوالیا کرتی ہے۔"

"اور لوگ مزاحمت نہیں کرتے۔"

"اس بستی میں مسلمانوں کی آبادی بہت تھوڑی ہے اور ہر ایک اپنا گھر بچانے کی فکر میں دوسرے کا گھر جلتا دیکھ کر خاموش رہتا ہے۔"

"کیا ان کی غیرت جواب دے چکی ہے؟"

"معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی اور ملک سے آئے ہیں۔ جس قوم کا سلطان بزدل ہو اور اُمرا غدار ہوں اس کے لئے غیرت کے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے۔"

طرف نے اپنی تلوار اٹھاتے ہوئے کہا: "میرے دوست! میں ایک مدت سے بھٹک رہا تھا، آج تم نے مجھے راستہ دکھایا ہے۔"

طرف بھاگتا ہوا مکان سے نکل کر سرائے میں داخل ہوا۔ عورت کی چیخیں اُوپر کی منزل کے کمرے سے آرہی تھیں۔ طرف کے ساتھی شش و پنج کی حالت میں برآمدے میں کھڑے تھے۔

"بزدلوا! کیا سوچ ہو؟ طرف یہ کہہ کر بھاگتا ہوا سیڑھیوں پر چڑھا۔ گیلبری کے آخری سرے پر کمرے کا دروازہ تھا لیکن ایک درجہ کھلا تھا جس سے روشنی باہر آرہی تھی۔

"مجھ پر رحم کرو۔ مجھے چھوڑ دو۔ مجھے جانے دو۔"

طریف نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اور وہ ایک دلخراش منظر کی تاب نہ لاسکا:

اس نے پوری قوت کے ساتھ دھکادے کر دو واڑہ توڑ دیا۔ شراب کے نشے میں بدہوش سپاہی عورت کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے لیکن پلک جھپکنے کی دیر میں طرف کی تلوار ایک کی گردن اڑانے کے بعد دوسرے کے پیٹ سے آ رہا بوجھا کھٹی۔ دہشت زدہ لڑکی ایک لمحہ کے لئے بے حس و حرکت زمین پر پڑی رہی۔ پھر اس نے اپنے عریاں جسم کی طرف دیکھا اور اٹھ کر چیخیں مارتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اتنی دیر میں طرف کے ساتھی تلواریں لے کر اوپر چڑھ رہے تھے۔ لڑکی نے انہیں دیکھتے ہی ایک جگہ دوڑ چخ کے ساتھ گیلری سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ طرف بھاگتا ہوا نیچے اتر ا۔ سرانے کا مالک نیچے کھڑا تھا۔ طرف نے تباہ مار کر لڑکی کے عریاں جسم پر ڈال دی۔ سرانے کے مالک نے جھک کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا: "یہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکی ہے۔"

طرف نے اپنے ساتھیوں سے کہا: "گھوڑوں پر زینیں ڈالو۔ ہم ابھی کوچ کریں گے۔" اور پھر وہ سرانے کے مالک کی طرف متوجہ ہوا: "اگر تم سے کوئی پوچھے کہ ان بد معاشوں کا قاتل کون تھا تو کہہ دینا کہ غرناطہ کے غدار وزیر کو اپنی قوم کی ایک لڑکی کی مظلومیت نے پھر ایک بار مسلمان بنا دیا تھا۔"

گھوڑی دیر بعد جب یہ لوگ باہر نکل رہے تھے آٹھ سوار سرانے کے سامنے رُکے۔ ان میں سے ایک نے گھوڑا آگے بڑھا کر غور سے طرف کی طرف دیکھا اور کہا: "اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟"

طرف نے ترش لہجے میں جواب دیا: "تم کون ہو؟"

"ہم سپاہی ہیں۔ خیال تھا کہ رات یہاں قیام کریں گے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہاں

آپ کو بھی جگہ نہیں ملی۔"

"بہت جگہ ہے اور ایک کمرہ تو ہم نے ابھی خالی کیا ہے۔"

یہ کہہ کر طرف نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ تھوڑی دُور جا کر طرف کے ایک ساتھی نے
 جو دوسروں کی نسبت اس سے زیادہ بے تکلف تھا اپنا گھوڑا اُس کے قریب کرتے ہوئے کہا۔
 ”کیا آپ اس واقعہ کے بعد مالقہ جانا مناسب سمجھتے ہیں؟“
 ”تمہیں مالقہ جانے کے لئے کس نے کہا ہے؟“
 ”آپ نے کہا تھا شاید ہمیں مالقہ جانا پڑے۔“
 ”نہیں ہم غرناطہ جا رہے ہیں۔“

تھوڑی دیر بعد طرف نے اپنے ساتھی سے کہا۔ ”حسن! تم نے اکثر یہ سوچا ہو گا کہ میں
 غرناطہ کا سب سے بڑا فدا رہوں۔“

حسن نے پریشان ہو کر کہا۔ ”آپ میرے آقا ہیں۔“
 ”نہیں حسن میں جانتا ہوں۔ تمہاری محبوبیاں تمہیں اپنے دل کی بات کہنے کی اجازت نہیں
 دیتیں۔ تم زندگی کی تلخ راہوں میں بھی میرا ساتھ دینے پر مجبور تھے لیکن فرض کرو کہ میں آج سے
 صحیح راستہ اختیار کرتا ہوں تو تم اپنے لئے کیا فرق محسوس کرو گے؟“
 حسن نے جھکے ہوئے جواب دیا۔ ”میرے آقا! ضمیر کے بوجھ تلے دب کر اور اس کے
 بوجھ سے آزاد ہو کر چلنے میں بڑا فرق ہے۔“

طرف نے کہا۔ ”حسن! نصرانی ہمارے بدترین دشمن ہیں۔“

”میرے آقا! اگر یہ گستاخی نہ ہو تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نے خود اپنے ساتھ دشمنی کی ہے۔
 ایک شخص کو اپنا قاتل تسلیم کر لینے کے بعد اُس سے یہ مطالبہ نہیں کیا جاسکتا کہ تم مجھے اس
 طریقہ سے قتل نہ کرو اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر دشمن کے سامنے
 کھڑے ہو گئے ہیں اور ہم نے اپنا خنجر بھی اُس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اب یہ
 اُس کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں آہستہ آہستہ ذبح کرتا ہے یا ہماری شہ رگ فوراً کاٹ
 ڈالتا ہے۔“

طریف نے جوش میں آکر کہا: "نہیں ہمارے خنجر ابھی تک ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ ہم لڑیں گے۔ اگر عزت کی زندگی نہیں تو عزت کی موت کا راستہ ہمارے لئے بند نہیں ہوا۔"
 "خدا آپ کو ہمت دے۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ ابو عبد اللہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔"
 "وہ ہمارا ساتھ دینے پر مجبور ہے۔"

گھوڑی دیر بعد حسن نے چونک کر کہا: "ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔"
 طرف کے اشارے پر اس کے ساتھیوں نے گھوڑے روک لئے۔ پیچھے کچھ فاصلے سے سرپٹ گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دے رہی تھی۔

حسن نے کہا: "یہ وہی سپاہی ہوں گے جو ہمیں مراٹھے کے دروازے پر ملے تھے۔ مراٹھے کے مالک نے اپنی جان بچانے کے لئے انہیں تباہ دیا ہو گا کہ نصرانی فوج کے واقعوں کا قاتل کون ہے اور آپ نے بھی مراٹھے کے مالک سے اپنا راز پوشیدہ نہیں رکھا۔ یقیناً تعاقب میں آ رہے ہیں۔"

طریف نے کہا: "یہ دیر سے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ لوشہ سے نکلے ہی ہم نے انہیں دیکھا تھا۔ راستے میں بھی میں نے انہیں دو تین بار دیکھا ہے۔ تم سب ایک طرف ہٹ کر درختوں کی آڑ میں کھڑے ہو جاؤ۔"

طریف کی قیادت میں اس کے ساتھی راستہ چھوڑ کر گھنے درختوں کی آڑ میں کھڑے ہو گئے۔

سوار گزر گئے اور طرف اور اس کے ساتھی درختوں کی آڑ سے نکل کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔

(۴)

پچھلے پیرچاند کی دھندلی روشنی میں یہ لوگ کشادہ مٹک چھوڑ کر ایک پگڈنڈی پر سے

گزر رہے تھے۔ طرف اپنے گھوڑے پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جوں جوں منزل مقصود قریب آ رہی تھی، اس کا ذہنی اضطراب بڑھتا تھا۔ وہ اس منزل سے گزر چکا تھا۔ جب ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جب ابو داؤد سے ملاقات کے بعد وہ لوشہ سے نکلا تھا تو اس کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے۔ وہ کبھی سوچتا کہ میں غرناطہ جاؤں گا اور ابو عبد اللہ سے کہوں گا کہ ہم نے اپنے آپ کو دھوکا دیا ہے۔ اب ہمارے لئے جنگ کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ وہ سیلاب جس کے بند ہم نے خود توڑے تھے اب ہمارے گھروں کا رخ کر رہا ہے جب فرڈیننڈ کی افواج غرناطہ میں داخل ہو جائیں گی تو نہ تم بادشاہ رہو گے اور نہ میں وزیر رہوں گا۔ وہ شاید ہمیں عام انسانوں کی طرح زندہ رہنے کا بھی حق نہ دے سکیں کیا ہم اس قابل ہیں کہ دشمن کے ساتھ لڑ سکیں۔ اس دشمن کے ساتھ جس کے لئے ہم نے اپنے مضبوط ترین قلعوں کے دروازے کھول دیئے۔ وہ ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہے۔ اب ہم اسے دھمکی بھی نہیں دے سکتے۔“

پھر وہ یہ سوچتا — ”کیا یہ ہو سکتا ہے کہ فرڈیننڈ اس قدر ذلیل ثابت ہو۔ اگر میں اس کے پاس جاؤں اور اسے یہ کہوں کہ ہم تمہارے لئے قوم کی نظروں میں ذلیل ہوئے۔ ہم نے تم پر اعتبار کیا اور تمہارے لئے ابو محسن اور انزل سے لڑائی کی۔ ہمیں یقین تھا کہ تمہارے سائے میں ہم امن کی زندگی بسر کر سکیں گے۔ ہم نے اندلس میں امن کے لئے اپنی سلطنت کا بیشتر حصہ تمہارے حوالے کر دیا اور اب تم غرناطہ بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہو۔ تم اندلس کے شہنشاہ ہو۔ یہ عہد شکنی تمہاری شان کے شایان نہیں۔ دنیا کیا کہے گی۔ مورخ کیا لکھیں گے۔ کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ اگر ہم تمہارا ساتھ نہ دیتے تو اندلس میں کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو ابو محسن کی فتوحات کے سیلاب کو روک سکتی۔ اگر کسی نے تمہارے خلاف آواز اٹھائی تو ہم نے اس کا گلا گھونٹنے سے دریغ نہ کیا۔ اگر کسی نے تم سے سرکشی کی تو ہم نے اسے ذبح کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دیا۔ کیا ہماری خدمت کا یہی صلہ ہے کہ غرناطہ کے دروازے ان بھڑوں

کے مٹے کھول دئے جائیں جو مالقہ میں انسانیت کا دامن تار تار کر چکے ہیں؟ آخر ہم نے کیا جرم کیا ہے — نہیں نہیں اب ان باتوں سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب فرطی نینڈ کو ہماری ضرورت نہیں۔ اب اُسے ابوالحسن اور الزغل سے کوئی خطرہ نہیں۔ اب اس کے لئے وہ قوم بے ضرر بن چکی ہے جس نے صدیوں تک اندلس کے میدانوں میں اپنے اقبال کے پرچم لہرائے ہیں۔ فرطی نینڈ نے تیروں کی بارش میں پتھروں کی آڑ لی تھی۔ اب اس کے خلاف لڑنے والوں کی کمائیں ٹوٹ چکی ہیں اور وہ ان پتھروں کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ ابو عبداللہؓ میں اور میرے تمام ساتھی وہ پتھر ہیں جن کے مورچے بنا کر فرطی نینڈ نے جگ جیتی ہے۔ اب وہ ہماری ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا۔ لیکن ابوداؤد بھی تو ہماری طرح اُس کے مورچے کا پتھر تھا اور اُس نے اسے لوشہ کا گورنر بنا دیا۔ طرف نے خود ہی اس سوال کا جواب دیا۔ نہیں وہ اُسے ابھی تک کارآمد سمجھتا ہے۔ فرطی نینڈ اپنے ہار ماننے والے دشمن کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے اور ابوداؤد پتھر کی حیثیت میں بھی اس کی تلوار تیز کرنے کے کام آسکتا ہے۔ فرطی نینڈ چاہتا ہے کہ اس کے دشمن کی رگوں میں زندگی کے خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے اور ابوداؤد اُسے بتا سکتا ہے کہ اُسے کون سی رگ کاٹنی چاہیے، شاید وہ دن بھی آجائے جب فرطی نینڈ یہ محسوس کرے کہ اب ہماری طرح اُسے اس کی بھی ضرورت نہیں رہی لیکن ابھی اُسے اس کی ضرورت ہے۔ ابوداؤد نے مجھے یقین دلایا ہے کہ میں ابو عبداللہؓ کے ساتھ غداری کیے فرطی نینڈ کو خوش کر سکتا ہوں، لیکن یہ دھوکا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ فرطی نینڈ نے ابو عبداللہؓ کے خلاف جو فیصلہ کیا ہے اس میں ابوداؤد کا مشورہ شامل ہو — اور اگر ابوداؤد ابو عبداللہؓ کو فریب دے سکتا ہے تو کیا وہ مجھے فریب نہیں دے گا۔ میں مالقہ نہیں جاؤں گا، میں غرناطہ جاؤں گا لیکن غرناطہ پہنچ کر میں کیا کر سکتا ہوں۔ موسیٰ میری قید میں ہے۔ میں اُسے رہا کرنے کا خطرہ مول لے سکتا ہوں۔ میں اس کے پاؤں پر گر کر کہوں گا۔ موسیٰ! قوم کو تمہاری ضرورت ہے لیکن اب موسیٰ بھی کیا کر سکتا ہے؟“

اور جب طرفیہ کے لئے یہ ذہنی کش مکش ناقابل برداشت ہو جاتی وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کوئی بات چھیڑ دیتا۔ بستی کی سڑکوں میں پہنچنے سے قبل اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی منزل مقصود کیا ہے۔ اس کا ایک قدم غرناطہ اور دوسرا مالقہ کی طرف اُٹھ رہا تھا لیکن جب وہ سڑک سے نکلا تو اُس کے سامنے صرف ایک ہی منزل تھی۔ ایک مظلوم لڑکی کی المٹا موت کا حادثہ اس کے اُونگھتے ہوئے ضمیر کے لئے آخری جھٹکا تھا۔ اس کے ڈنگاتے ہوئے پاؤں سنبھل چکے تھے۔ قوم کی ایک بکس لڑکی کی جگہ دو زچہ چوٹیوں نے غرناطہ کے وزیر اعظم کو ان لوگوں کی صف میں لاکھڑا کیا تھا جنہیں حالات فتح و شکست سے بے نیاز ہو کر لڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ طرفیہ کے سامنے اب صرف ایک ہی راستہ تھا۔

جب صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے اُس نے ایک ندی کے کنارے گھوڑا روکا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ "اب نماز کا وقت ہے۔"

ندی سے وضو کرنے کے بعد طرفیہ اور اس کے ساتھی قبلہ رو کھڑے ہو گئے اور جب نماز کے بعد طرفیہ نے دُعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو الفاظ کی بجائے اُس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے طرفیہ نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ انتہائی کوشش کے بعد اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے:

"میرے مولیٰ! ہم عزت کی زندگی کے راستے سے

بہت دُور آچکے ہیں۔ اب شاید ہمارے آنسو ہمارے

دامن کی سیاہی نہ دھو سکیں۔ ہم نے تیرے احکام سے

بغاوت کی اور تیری رحمت سے انکار کیا اور اب جب کہ

ہمارے سامنے ولت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہم تجھ

سے عزت کی موت مانگتے ہیں۔ ہمیں عزت کا لفظ ہم

جیسے انسانوں کے لئے نہیں۔ ہم اس قابل بھی نہیں کہ

عزت کی موت کا تصور کر سکیں۔ ہم فقط اپنے ضمیر کے
عذاب سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ ہمارے لئے زندگی کا ہر
لمحہ موت سے کہیں زیادہ تلخ ہے۔ اب تیری زمین کے
لئے ہمارا بوجھ ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔“

یہ دعا جو آنسوؤں کے ساتھ شروع ہوئی تھی آنسوؤں کے ساتھ ختم ہوئی۔ طرفی اور
اُس کے ساتھی اٹھ کر پھر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔

ندی عبور کرنے اور گنجان درختوں میں سے گزرنے کے بعد طرفی کو غرناطہ کی مساجد کے
مینار اور المزار کے گنبد دکھائی دے رہے تھے۔ اُس نے افق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
”وہ دیکھو! غرناطہ! ہمارا غرناطہ۔ حسن! یہ اندلس میں ہمارا آخری قلعہ ہے۔ ہم اس کی حفاظت
کریں گے۔ ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر غرناطہ کی دس لاکھ کی آبادی
میں سے ایک لاکھ نوجوان زندہ رہنے کا عہد کریں تو انہیں کون مٹا سکتا ہے۔ کیا سرحدی
عقابوں کی مٹھی بھر جماعت نے بارہا فرٹینڈ کی ٹڈی دل فوج کے دانت کھٹے نہیں کئے؟
کیا طارق کے ایک ہزار جانبازوں نے راڈرک کی سطوت کے الموانوں کی اینٹ سے اینٹ
نہیں بجا دی تھی۔ جب ہم ہزاروں کی تعداد میں تھے تو ہم نے دشمن کی بڑی سے بڑی طاقت
کو شکست دی اور آج ہماری تعداد لاکھوں میں ہے۔ کیا ہم ہمیشہ کے لئے فرٹینڈ کی
غلامی کی ذلت قبول کر لیں گے۔ کیا ہمارے پاس وہ تلواریں نہیں جو ہمارے اسلاف۔۔۔“

طرفی اپنا فقرہ پورا نہ کر سکا۔ درختوں کی آڑ سے ایک تیر سنسناٹا ہوا آیا اور طرفی کی
پسلی میں پیوست ہو گیا۔ وہ اُف کہہ کر ایک طرف جھکا لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور تیر اس
کی پیٹھ میں بگا۔ طرفی کے ساتھیوں نے گھوڑوں کی باگیں موڑیں لیکن اتنی دیر میں چند تیر
اور آٹے اور طرفی کا ایک اور ساتھی زخمی ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی درختوں کے عقب
میں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔

طرف نے بلند آواز میں کہا۔ "حسن! ان کے تعاقب کے لئے مت جاؤ۔ میرا بہت سا کام باقی ہے۔"

طرف نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور اُس کے ساتھی جو غصے کی حالت میں ہونٹ کاٹ رہے تھے اس کے پیچھے ہوئے۔ گھوڑی دُور آگے جا کر حسن نے اپنا گھوڑا طرف کے قریب لاتے ہوئے کہا۔ "ذرا گھوڑا روکنے میں یہ تیر نکال دوں۔"

"نہیں میرے یہ لمحات بہت قیمتی ہیں۔ اب وقت ضائع نہ کرو۔"

"آپ اس حالت میں زیادہ دُور نہیں جا سکتے۔ کم از کم مجھے اپنے زخم دیکھنے دیجئے۔" یہ کہتے ہوئے حسن نے ہاتھ بڑھا کر طرف کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچ لی۔

طرف نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا۔ "تم بہت ضدی ہو حسن! وہ گھوڑے کے ساتھ اپنا سینہ لگا کر کھڑا ہو گیا اور تین کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولا۔ "جلدی کرو۔" حسن نے جلدی سے اپنا عامر اُتار کر اپنے ایک ساتھی سے کہا۔ "اسے دو حصوں میں بھاڑ ڈالو۔"

دو آدمیوں نے گھوڑوں سے اتر کر طرف کو سہارا دینے کی کوشش کی لیکن اُس نے جھنجھلا کر کہا۔ "میں ٹھیک ہوں۔ حسن جلدی کرو۔"

حسن نے اچانک ایک تیر نکال کر پھینک دیا لیکن دوسرا تیر نکالتے وقت طرف بیہوش ہو چکا تھا۔ دونوں زخموں پر ٹپیاں باندھنے کے بعد طرف کو اس کے ساتھیوں نے زمین پر لٹا دیا۔ گھوڑی دیر بعد طرف نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں اور پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد اٹھنے کی کوشش کی لیکن حسن نے کہا۔ "اس حالت میں گھوڑے پر سفر کرنا ٹھیک نہ ہوگا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم آپ کو پاس کی بستی میں چھوڑ کر غرناطہ سے کوئی جراح لے آئیں۔"

طرف نے اٹھ کر فیصلہ کن انداز میں جواب دیا۔ "نہیں میں فقط اپنا آخری فرض پورا کرنے

کے لئے زندہ ہوں۔“

طرف گھوڑے پر سوار ہوا لیکن کوئی آدھ میل جانے کے بعد حسن نے محسوس کیا کہ اس کا گھوڑے کی زمین پر جم کر بیٹھنا مشکل ہے۔ وہ کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف جھک جاتا تھا۔ گھوڑے کی باگ پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو رہی تھی۔ حسن اپنا گھوڑا قریب لے گیا اور اس نے طرف کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے گھوڑے پر ڈال لیا۔ طرف نے کراہتے ہوئے کہا: ”مجھے موسیٰ کے پاس لے چلو!“

(۵)

سرسبز باغات میں سے گزرنے کے بعد حسن نے ایک پرانے مکان کی چار دیواری کے آہنی پھاٹک کے سامنے گھوڑا روکا۔ ایک حبشی غلام نے پھاٹک کی سلاخوں سے جھانک کر باہر دیکھا۔

حسن نے کہا: ”دروازہ کھولو۔ جلدی کرو۔“

حبشی نے حسن اور اس کے ساتھیوں کو پہچانتے ہی دروازہ کھول دیا۔ مکان کی ڈیڑھ سی عبور کرنے کے بعد حسن کشادہ صحن میں داخل ہوا۔ اتنی دیر میں چند غلام اور نوکر جمع ہو گئے اور وہ حسن کے اشارے پر طرف کو گھوڑے سے اتار کر ایک کمرے میں لے گئے۔ طرف بے ہوش تھا۔ حسن نے نوکروں سے کہا: ”یعقوب کو ذرا بلاؤ۔“

ایک حبشی بھاگ کر باہر نکلا اور جلد ہی واپس آکر بولا: ”وہ آ رہا ہے۔“

ایک اُدھیٹر عمر لیکن قوی ہیکل آدمی اندر داخل ہوا۔ طرف کو بے ہوشی کی حالت میں بستر پر دیکھ کر اس نے جواب طلب نگاہوں سے حسن کی طرف دیکھا۔

حسن نے کہا: ”یعقوب آقا کا حکم ہے کہ موسیٰ کو فوراً قید سے نکال کر یہاں لے آؤ۔“

یعقوب نے تذبذب اور پریشانی کی حالت میں پہلے حسن اور پھر اس کے ساتھیوں کی طرف

دیکھا۔ اس کی خاموش نگاہیں اس غیر متوقع حکم کے خلاف احتجاج کر رہی تھیں۔

حسن نے کہا: یعقوب! وقت ضائع نہ کرو۔ جلدی کرو!

یعقوب نے قدرے جرات سے کام لیتے ہوئے کہا: "لیکن آقا بے ہوش ہیں اور جب

تک وہ خود مجھے حکم نہ دیں۔۔۔۔۔"

حسن نے گرج کر کہا: "آقا کی طرف سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ جلدی کرو!"

"لیکن وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔"

"شیر لومڑیوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں!"

تھوڑی دیر بعد حسن، یعقوب اور ایک غلام اس مکان کے دوسرے سرے پر ایک تنگ برآمدے سے گزرتے ہوئے ایک کوٹھڑی کے آہنی دروازے کے سامنے رُکے۔ برہی

نے دروازے کا تالہ کھولا۔ کوٹھڑی کے ایک سرے پر پتھر کی تنگ سیرھی نیچے کی طرف اترتی تھی۔ کوئی بیس سیرھیاں اترنے کے بعد یہ لوگ ایک آہنی سلاخوں والے دروازے

کے سامنے رُکے۔ یعقوب نے دروازہ کھولا۔ انار سخت اندھیرا تھا۔ یعقوب نے دروازے کے قریب دیوار کے ساتھ ایک لہے کی چرخ کو گھمایا تو سامنے کی دیوار میں چھت کے قریب

ایک چھوٹا سا رُفتن کھل گیا اور کمرے میں دھندلی سی روشنی آگئی۔ یہ کمرہ خالی تھا اور ایک آدمی دائیں ہاتھ دوسری کوٹھڑی کے تنگ دروازے کی آہنی سلاخوں کے پیچھے کھڑا اپنی

تنہائی میں نخل ہونے والوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ موسیٰ ابن ابی عسان تھا۔ سطوت و جرأت کا پیکر۔ مجسم جس کا مڑھایا ہوا چہرہ بھی دیکھنے والوں کے دل ہلا دینے کے لئے کافی تھا۔

حسن نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا: "ہم طرفیہ بن مالک کے حکم سے آپ کو قید سے

نکلنے آئے ہیں!"

موسیٰ خاموشی سے حسن کی طرف دیکھتا رہا۔ حسن نے پھر کہا: وہ زخمی ہے اور اس کی

آخری خواہش یہ ہے کہ آپ اسے پاؤں پر گرنے کا موقع دیں۔ ہم اُسے بے ہوشی کی حالت

میں یہاں لاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ اُسے معاف نہیں کریں گے لیکن وہ توبہ کر چکا ہے اور اب کھوڑی دیر میں شاید اُس کا معاملہ خدا کے سامنے ہوگا۔ ہم سب آپ کے مجرم ہیں اور اگر آپ سزا دینا چاہیں تو ہماری طرف سے سرتابی نہیں ہوگی۔“

حسن کے اشارے پر یعقوب نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول دیا۔ موسیٰ کو کھڑی سے باہر نکل کر ایک لمحہ کے لئے خاموش کھڑا رہا۔ اور پھر بولا: ”میری سمجھ میں نہیں آتا طرف ابو عبد اللہ کے لئے ہر گناہ کر سکتا تھا اس پر یہ عتاب کیسے نازل ہوا؟“

حسن نے جواب دیا: ”طرف کو زور دینے کے آدمیوں نے زخمی کیا ہے۔ آپ تمام حالات سے باخبر ہونے کے بعد اُسے شاید قایل معافی سمجھیں لیکن اب اس کی زندگی کا چراغ ٹمٹا رہا ہے۔ وہ آپ کا منتظر ہے۔ وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔“

موسیٰ نے کہا: ”چلو!“

(۶)

طرف نے درد سے کراہتے ہوئے کہا: ”جلدی کرو۔ مجھے موسیٰ کے پاس لے چلو۔“

اس کے ایک ساتھی نے کہا: ”حسن موسیٰ کو لینے گیا ہے۔ وہ آہی رہے ہوں گے۔“

طرف نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا اور اٹھ کر بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا: ”میں اس حالت میں اُسے دیکھنا نہیں چاہتا۔ مجھے اس کی کھوڑی کے سامنے لے چلو۔ میں اس قابل نہیں کہ وہ میرے پاس آئے۔ جلدی کرو۔“

طرف نے اپنے پاؤں بستر سے نیچے لٹکائے۔ دو آدمیوں نے اُسے سہارا دیا۔ جب اسے دروازے سے باہر نکالا گیا تو ایک حبشی غلام نے کہا: ”وہ آ رہے ہیں۔“

طرف نے کہا: ”مجھے چھوڑ دو۔ مجھے سہارے کی ضرورت نہیں۔“ نوکروں نے اپنی مرضی کے خلاف اُس کے حکم کی تعمیل کی۔ طرف نے چند قدم اٹھائے۔ برآمدے کے دوسرے سرے

پراسے موسیٰ دکھائی دیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور برآمدے کے ستون کے ساتھ لپٹ کر کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ اس کے قریب پہنچ کر رکھا اور مذہب کی حالت میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ طرفیہ کے کانپتے ہوتے ہونٹوں سے درد میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی۔ "موسیٰ! تمہارا مجرم موت کے دروازے پر دستک دے رہا ہے لیکن اس سے پہلے..... اس سے پہلے....."

طرفیہ ستون کا سہارا چھوڑ کر ایک قدم آگے بڑھا اور بے اختیار موسیٰ کے پاؤں پر گر پڑا۔ موسیٰ ایک ثانیہ کے لئے بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ پھر اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن اس کے پاؤں طرفیہ کے بازوؤں کی گرفت میں تھے۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی یہ گرفت کافی مضبوط تھی۔ اچانک موسیٰ نے محسوس کیا کہ اس کے پاؤں بھیگ رہے ہیں۔ طرفیہ اس کے پاؤں پر آنسوؤں کی پونجی لٹا رہا تھا۔ نہیں یہ آنسو نہ تھے۔ موسیٰ کے دل پر چرکا لگا۔ وہ ماضی کی تمام تلخیوں کو بھول چکا تھا۔ اس نے جھک کر طرفیہ کو اٹھایا۔ آنسوؤں کی بجائے اس کے منہ سے خون کی دھار بہ رہی تھی۔ موسیٰ اسے اٹھا کر اندر لے گیا۔ اسے بستر پر لٹا کر ہوش میں لانے کی کوشش کی لیکن تھکا ہوا مسافر اپنی آخری منزل پر پہنچ کر دم توڑ چکا تھا۔

موسیٰ نے انا اللہ وانا الیہ راجعون کہا اور قبضہ کی کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ آنسو طرفیہ کے چہرے پر گرے۔ ابو موسیٰ نے اس کا سر اپنی گود سے اٹھا کر تکیے پر رکھ دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا: "طرفیہ! تم ہمارے تھے؟"

نئے ولولے

(۱)

موسیٰ مدت کے بعد پھر ایک بار ندی کے اس پُل کے قریب کھڑا تھا جس کے دوسرے کنارے سے سرحدی عقاب کی آزاد مملکت شروع ہوتی تھی۔ پُل کے پاس اسی درخت کے ساتھ اسی طرح لکڑی کا ایک تختہ لٹکا رہا تھا لیکن اُس پر لکھی تحریر اس تحریر سے مختلف تھی جسے موسیٰ نے شاہین کی وادی میں پہلی بار دیکھا۔ اس تحریر کے الفاظ یہ تھے :-

”اس ندی کے پار سرحدی عقاب کی مملکت ہے۔“

کسی ایسے شخص کو جو غدار ابو عبد اللہ کی بادشاہت تسلیم کر چکا

ہو، اس وادی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں نظر نہیں

کے مظالم سے پناہ لینے والے مسلمانوں کو اس وادی میں داخل

ہونے کی اجازت ہے لیکن دشمن کے جاسوس کی سزا موت ہے۔“

عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ موسیٰ نے گھوڑے سے اتر کر اُسے ایک درخت کے ساتھ

باندھ دیا اور ندی کے پانی سے وضو کرنے کے بعد سر سبز گھاس پر نماز کے لئے کھڑا ہو گیا کوئی
 پچیس کے لگ بھگ مسلح نوجوان درختوں کی آڑ سے نمودار ہوئے اور موسیٰ کے قریب جمع ہو
 گئے۔ موسیٰ نماز سے فارغ ہو کر اٹھا اور ان کی طرف متوجہ ہو کر بولا۔ "میں تمہارے امیر سے ملنا
 چاہتا ہوں۔ میرا نام موسیٰ ہے۔"

"موسیٰ! آپ؟ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر اُسے غور کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ
 زندہ تھے! لیکن اتنی دیر آپ کہاں رہے؟" نوجوان کی پریشانی مسرت میں تبدیل ہو رہی تھی۔
 موسیٰ نے کہا۔ "اپنے امیر سے کہو کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت
 چاہتا ہوں۔ میں یہاں ٹھہر کر ان کے حکم کا انتظار کروں گا۔"
 نوجوان نے جواب دیا۔ "غزاطہ کے شیر کو عقاب کی وادی میں داخل ہونے کے لئے
 اجازت کی ضرورت نہیں۔"

یہ نوجوان مجاہدین کے اس گروہ کا سالار تھا۔ اُس کے اشارے پر ایک سپاہی موسیٰ کا
 گھوڑا کھول لایا۔ نوجوان نے موسیٰ سے مخاطب ہو کر کہا۔ "آپ سوار ہو جائیں ہمارے گھوڑے ندی
 کے پار کھڑے ہیں۔"

ندی عبور کرنے کے بعد نوجوان اور اس کے پانچ ساتھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر موسیٰ
 کے ساتھ ہوئے اور باقی پھر درختوں کی آڑ میں روپوش ہو گئے۔ جنگل اور پہاڑ کے تنگ تاریک
 راستوں سے گزرنے کے بعد آدھی رات کے قریب وہ ایک قلعے کے دروازے کے سامنے
 پہنچے۔ موسیٰ کی توقع کے خلاف قلعے کا دروازہ کھلا تھا اور باہر چند آدمی کھڑے ان کا انتظار
 کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں مشعل تھی۔ موسیٰ دروازے کے قریب پہنچا
 تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ موسیٰ گھوڑے سے اتر ا اور
 مشعل کی دھندلی روشنی میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ "کون بشر؟ بشر بے اختیار اس
 کے ساتھ لپٹ گیا۔ جذبات کے ہیجان میں بشر بار بار یہ الفاظ دہرا رہا تھا۔ آپ کہاں تھے؟

آپ نے اپنے متعلق ہمیں اتنی دیر بے خبر کیوں رکھا؟ یہ ایک خواب تو نہیں۔“

بشیر کی گرفت سے علیحدہ ہونے کے بعد موسیٰ دوسرے آدمیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک سیاہ پوش نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ موسیٰ نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے بشیر کی طرف دیکھا اور بشیر نے کہا: ”یہ منصور بن احمد ہیں۔“

منصور کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد موسیٰ کی نظر ابو محسن پر جا پڑی۔ ابو محسن بے حس و حرکت کھڑا اپنے سالار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا: ”ابو محسن! تم مجھے نہیں پہچانتے؟“

ابو محسن نے فرط عقیدت سے موسیٰ کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔

وہ قلعے کے اندر داخل ہوئے۔ ایک وسیع کمرے میں دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ موسیٰ نے کہا: ”آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔“

بشیر نے جواب دیا: ”ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔“

”تو دروازے پر بھی میرا ہی انتظار ہو رہا تھا لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں آ رہا ہوں؟“

منصور نے جواب دیا: ”جب آپ ہماری سرحد سے چار کوس کے فاصلے پر تھے تو ہمیں معلوم

ہو چکا تھا کہ ایک مہمان آ رہا ہے اور مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر بعد ہمیں یہ اطلاع مل گئی کہ ہمارا مہمان کون ہے؟“

دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد موسیٰ کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ گیا جب وہ الزغل کے ساتھ

پہلی بار عتاب کی وادی میں داخل ہوا تھا۔ وہ جنگل کی اس دعوت کا تصور کر رہا تھا جس میں ان کا

میزبان بدر بن مغیرہ تھا۔ آج جب بدر بن مغیرہ کی بجائے منصور بن احمد نے اس کے ہاتھ دھلائے

تراسے اچانک اس محفل میں اجنبیت کا احساس ہوا۔ بشیر کی بے تکلفی اور منصور کے خلوص

کے باوجود وہ اس محفل میں ایک تنہائی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بدر بن مغیرہ کا ذکر

چھیڑنا چاہا لیکن وہ بول نہ سکا۔ میزبان اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ان کا مہمان کھانے

کی طرف ہاتھ بڑھائے۔

بشیر نے کہا۔ "شروع کیجئے۔"

موسیٰ نے غیر ارادی طور پر ایک لقمہ اٹھایا لیکن اس کی بھوک مرچکی تھی۔ اس کا ہاتھ منہ تک پہنچتے پہنچتے رک گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آنسوؤں کے پردے حائل ہونے لگے۔ اس کے منہ سے درد میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی۔ "بدر! بدر! بدر!" اور اُس نے اٹھایا ہوا نوالہ پھر دسترخوان پر رکھ دیا۔

میزبان انتہائی پریشانی کی حالت میں اُس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ نے اپنا چہرہ آستین میں چھپا لیا۔ وہ مجاہد جس کے سامنے شیروں کے دل دہل جاتے تھے، جس نے ساری عمر طوفانوں سے لڑنا اور بجلیوں سے کھیلنا سیکھا تھا، جو موت کے بھیانک چہرے کے سامنے قہقہہ لگانے کی جرأت رکھتا تھا اس بھری مغل میں رو رہا تھا، اس معصوم بچے کی طرح جس کا عزیز ترین کھلونا ٹوٹ چکا ہو۔ معاف کیجئے مجھے بھوک نہ تھی۔ "موسیٰ بھڑائی ہوئی آواز میں یہ کہہ کر اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔

میزبانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ منصور نے کہا۔ "کھوڑی دیر انتظار کرو میں ابھی آتا ہوں۔" بشیر اقم میرے ساتھ آسکتے ہو۔"

موسیٰ صحن میں کھڑا آسمان کے جگمگاتے ہوئے ستاروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ "بدر!" "بدر!" اس نے بچکی لیتے ہوئے کہا۔

منصور نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ "یہ مایوسی غرناطہ کے مجاہد اعظم کی شان کے شایان نہیں۔ غرناطہ کا انجام بہت اطم ناک ہے لیکن ہمیں بہت نہیں ہارنی چاہیے۔"

ابو موسیٰ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "میں اس وقت غرناطہ کے متعلق نہیں سوچتا۔ منصور اقم نہیں جانتے ٹوٹی ہوئی دیواریں پھر کھڑی کی جاسکتی ہیں۔ قلعے دوبارہ تعمیر کئے

جاسکتے ہیں اور قوم کی مردم شماری میں بھی اضافہ کیا جاسکتا ہے لیکن وہ مسیح جو مردہ اقوام کی رگوں میں ایمان کی حرارت پیدا کرتے ہیں، بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ بدر ہماری قوم کا مسیح تھا لیکن ہم نے اُسے تختہ دار پر لٹکا دیا۔ وہ اس مردہ قوم کی رگوں میں زندگی کے خون کا آخری قطرہ تھا۔ وہ ہماری تلوار تھا جو ٹوٹ گئی، وہ ہمارا بازو تھا جو کٹ گیا، وہ ایک آفتاب تھا جو غروب ہو چکا ہے اور ہم تاریکی میں بھٹک چکے ہیں ۛ

(۲)

قلعے سے باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ منصور نے بشیر کی طرف دیکھا اور بشیر اس کا اشارہ سمجھ کر قلعے کے دروازہ کی طرف چل دیا۔

منصور نے موسیٰ سے کہا: "آپ تھکے ہوئے ہیں چلئے اندر بیٹھیں۔"

ابو موسیٰ کچھ کہے بغیر منصور کے ساتھ چل دیا۔ پتھر کی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ بالائی منزل کے ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر شمعیں جل رہی تھیں۔ منصور کے اشارے پر موسیٰ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ منصور نے اس کے قریب دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا: "اگر قدرت ایک معجزہ کر سکتی ہے تو وہ دوسرا معجزہ بھی کر سکتی ہے۔ ہم آپ کے متعلق نا اُمید ہو چکے تھے۔ آج جب ہمیں آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے آدمیوں کو دھوکا ہوا ہے۔ لیکن یہ ممکن نہیں کہ جس طرح ہمیں موسیٰ مل گیا ہے اسی طرح آپ کو بدل جاتے، کیا آپ کی طرح وہ بھی لوپوش نہیں ہو سکتا۔"

موسیٰ نے قدرے پُر اُمید ہو کر منصور کی طرف دیکھا لیکن پھر ایسے سا ہو کر کہنے لگا: "حالات نے تمہیں بھی میری طرح شاعر بنا دیا ہے۔ مایوسی ہر شخص کو شاعر بنا دیتی ہے۔ میں سارا راستہ اپنے دل کو یہ جھوٹی تسلی دیتا آیا تھا کہ بدر بن مغیرہ زندہ ہے ممکن ہے کہ وہ شخص جسے ابو عبد اللہ نے قتل کیا ہو کوئی اور ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ قتل ہونے کی بجائے میری طرح قید میں ہو اور تمہارے

دسترخوان پر بیٹھتے وقت بھی میری نگاہیں دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ میں قدرت کے معجزے کا انتظار کر رہا تھا اور جب تم نے مجھے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لئے کہا تو میری لمبید کا ٹٹما ہوا چراغ بجھ گیا۔ حقیقت میرے لئے ناقابل برداشت تھی کہ اس محفل میں بدر بن مغیرہ کی جگہ خالی ہو چکی ہے۔ اگر میں آتے ہی اس کا ذکر چھڑ دیتا تو مجھ سے دسترخوان پر چوٹ کی سی حرکت سرزد نہ ہوتی۔ لیکن میں اُسے مردہ نہیں بلکہ زندہ سمجھ کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنے منہ سے کچھ کہنے کی بجائے میں آپ کی زبان سے کچھ سننا چاہتا تھا۔ منصور! میں زندگی اور موت کے مفہوم سے نا آشنا نہیں۔ مرنے والوں کی یاد نے مجھے کبھی نہیں ستایا۔ خواب میں بھی میں نے انہیں اس دنیا کی بجائے ہمیشہ کسی اور دنیا میں دیکھا ہے۔ ہماری دوستی کا زمانہ بہت مختصر تھا لیکن اس کے باوجود میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس دنیا میں وہ مجھ سے بہت زیادہ قریب تھا بلکہ وہ میرے وجود کا ایک حصہ تھا۔“

دروازے سے باہر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ منصور نے اپنے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا: ”آپ بدر بن مغیرہ سے ابھی ملنا چاہتے ہیں۔“ ایک لمحہ کے لئے موسیٰ مبہوت سا ہو کر منصور کی طرف دیکھتا رہا۔ باہر سے پاؤں کی آہٹ پا کر دروازے کی طرف متوجہ ہوا اور اچانک اس کی تمام حسیات سمٹ کر آنکھوں میں آگئیں۔ بدر بن مغیرہ سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق اس کے سامنے تھا۔

ایک ثانیہ کے لئے موسیٰ بے حس و حرکت کر سی پر بیٹھا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ اس کے ہونٹ کپکپاتے۔ وہ چلایا: ”بدر! بدر! بدر!“ بدر نے ایک قدم آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلاتے۔ موسیٰ اٹھا اور اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا: ”بدر! تم زندہ ہو۔ میرے دل نے مجھے دھوکا نہیں دیا۔ میرے دوست! میرے رفیق! میرے بازو!!!“

بدر کی آنکھوں میں آنسو آچکے تھے لیکن وہ خاموش تھا اور جب وہ ایک دوسرے

کے سامنے بیٹھ گئے تو موسیٰ منصور کی طرف متوجہ ہوا۔ تم دونوں بہت ظالم ہو۔ تم نے مجھے یہاں آنے ہی کیوں نہ بتا دیا؟

منصور نے جواب دیا: کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی دیر روپوش رہنے کے بعد آپ کسی ہنرا کے مستحق نہ تھے۔ بدر سے پوچھئے وہ آپ کے لئے کس قدر بے قرار تھا۔ تاہم ہماری نیت یہ نہ تھی کہ آپ کو پریشان کیا جائے۔ بدر ابھی باہر سے آیا ہے اگر ہم آپ کو پہلے بتا دیتے تو آپ کے لئے انتظار کے چند لمحات بھی ناقابل برداشت ہوتے۔

بشیر نے کمرے میں داخل ہو کر کہا: دسترخوان پر آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آئیے! بدر نے موسیٰ کی طرف دیکھا اور کہا: آپ چلیں میں لیا س تبدیل کر کے آتا ہوں۔

(۳)

کھانا کھانے کے بعد بدر بن مغیرہ، موسیٰ، بشیر، منصور اور ابو محسن پھر اسی کمرے میں آ گئے۔ اور دیر تک باتیں کرتے رہے۔ موسیٰ طویل سفر کے بعد یہاں پہنچا تھا اور بدر بھی اپنی ایک دور افتادہ چوکی سے اس قلعے تک پہنچنے میں تین گھوڑے تبدیل کر چکا تھا لیکن اس غیر متوقع ملاقات کے بعد کسی کو نیند یا تھکاوٹ کا احساس نہ تھا۔ دونوں نے اپنی اپنی سرگزشت سنا لی۔ اس کے بعد حال اور مستقبل کے متعلق بحث شروع ہوئی۔

موسیٰ نے ابو محسن سے چند سوالات پوچھنے کے بعد کہا: ”میں قید سے رہا ہونے کے بعد ایک تاجر کا بیس بدل کر غرناطہ گیا تھا۔ وہاں میں نے صرف دو دن قیام کیا اور ان دو دنوں میں اپنے عوام کے متعلق میں نے جو رائے قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ ذلت کی موت سے بچنے کے لئے ہمارا ساتھ دیں گے۔ سنر ٹیٹنڈ کے متعلق اب کسی کو غلط فہمی نہیں۔ دو مہرے شہروں سے قریباً چار لاکھ حاجر بن غرناطہ میں داخل ہو چکے ہیں اور ان کی منگولیت کی دستائیں سن کر غرناطہ کے ہر باشندے کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ اگر ابو عبد اللہ نے فرٹونڈ کی افواج کے لئے

فرنگی دروازے کھول دے تو ان کا انجام مالقہ اور دوسرے شہروں کے مسلمانوں سے مختلف نہ ہوگا۔ رضا کاروں کے دستے شہر کے دروازوں پر پہرہ دے رہے ہیں۔ الحمرآ کے دروازے پر ابو عبد اللہ کے خلاف شب و روز مظاہرے ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ابو عبد اللہ نے عوام کے جذبات کا استحسان کیا تو فوج عوام کا ساتھ دے گی اور غداروں کی جماعت بھی اب یہ محسوس کر رہی ہے کہ انہیں اپنے محل فرڈینڈ کے سپاہیوں کے لئے حسالی کرنے پڑیں گے۔ پہلے انہیں یہ یقین تھا کہ وہ ابو عبد اللہ کی حکومت اور فرڈینڈ کی سرپرستی سے فائدہ اٹھا کر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹیں گے۔ لیکن اب ان پر یہ خوف طاری ہو رہا ہے کہ اگر غرناطہ فرڈینڈ کے قبضے میں چلا گیا تو انہیں اپنے سے زیادہ خطرناک اور بے رحم ڈاکوؤں سے واسطہ پڑے گا۔ طرف کے ایک ساتھی نے ابو عبد اللہ کو اس کا آخری پیغام پہنچا دیا ہے اور ابو عبد اللہ اور اس کے ساتھی محسوس کر رہے ہیں کہ اگر فرڈینڈ کے آدمی طرف جیسے آدمی کو قتل کر سکتے ہیں تو ان میں سے کسی کو بھی اپنے متعلقہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ فرڈینڈ غرناطہ پر حملہ کرنے میں تاخیر نہیں کرے گا۔ وقت تھوڑا ہے اور ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔“

بدر نے کہا: ”فرڈینڈ کی افواج مالقہ سے روانہ ہو چکی ہیں۔ مجھے آج دوپہر یہ اطلاع مل گئی تھی۔“

موسیٰ نے چونک کر کہا: ”اگر یہ صحیح ہے تو میرا غرناطہ فوراً پہنچنا ضروری ہے۔“
بدر بن مغیرہ نے کہا: ”میرا خیال ہے کہ آپ ابھی تک غرناطہ کے لوگوں کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔“

موسیٰ نے کہا: ”جب میں یہ سمجھتا تھا کہ اہل غرناطہ عزت کی زندگی کے حصول کے لئے ہمارا ساتھ دیں گے تو یہ ایک خوش فہمی تھی لیکن اب وہ ذلت کی موت سے پناہ چاہتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جب ان کے سامنے موت کے سوا کوئی راستہ نہ ہوگا تو وہ ذلت کی موت پر عزت

کی موت کو ترجیح دیں گے۔ فریڈنہنڈ کے خلاف ہماری یہ پہلی جنگ ہوگی جس میں شاید قوم کے پرانے غدار اور عافیت پسند لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔“

بد بن مغیرہ نے کہا۔ ”اور اس جہاد کے لئے آپ پھر ابو عبد اللہ کے مقدس ہاتھ پر بیعت کریں گے۔“

موسیٰ نے پریشان ہو کر جواب دیا۔ ”میں ابو عبد اللہ کے لئے نہیں غرناطہ کے لئے آپ کے پاس آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اہل غرناطہ کے متعلق مجھے غلط فہمی ہو لیکن آپ کے متعلق مجھے غلط فہمی نہیں۔ اگر میں یہاں نہ بھی آتا تو بھی آپ اہل غرناطہ کی مدد کے لئے پہنچتے۔“

بد بن مغیرہ ایک لمحہ کے لئے خاموش رہا اور پھر اٹھ کر کھڑکی کے قریب جا کر باہر جھانکنے لگا۔ اس کی پیٹھ موسیٰ کی طرف تھی۔

موسیٰ نے کہا۔ ”بد بن! اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ ہم ان حالات میں بھی غرناطہ کی چار دیواری کی حفاظت کر سکتے ہیں تو میں ایک گنہگار سپاہی کی حیثیت میں تمہارے مجاہدین کی جماعت میں شامل ہو جاتا لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ ہم تمہاری مدد کے ساتھ یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ غرناطہ میں اس وقت بھی ایک لاکھ سے زیادہ رضاکار بھرتی کئے جاسکتے ہیں۔“

بد بن مغیرہ نے اچانک مڑ کر موسیٰ کی طرف دیکھا اور کہا۔ ”موسیٰ! تم جانتے ہو کہ میں غرناطہ کو بچانے کے لئے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا لیکن گزشتہ واقعات نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا ہم غرناطہ کو بچا سکتے ہیں، کیا غرناطہ کے لئے ہماری گزشتہ قربانیاں کسی کام آسکیں؟ اور اب بھی اگر ہم غرناطہ کو اپنا دفاعی مورچہ بنائیں تو کیا ہماری مزید قربانیاں کامیاب نہ جائیں گی؟ ہم کب تک ان گرتی ہوئی دیواروں کو سہارا دیں گے جن کی بنیادیں ہل چکی ہیں اور ہمارا خون کب تک اس درخت کی آبیاری کرتا رہے گا جس کی جڑوں کو کٹرے لگے ہوئے ہیں میری باتیں ذرا تلخ ہیں لیکن اب حقیقت کے بھیاناک چہرے کو الفاظ کے حسین پردوں میں چھپانے کی کوشش بے سود ہے۔ میں یہ ماننے کے لئے تیار ہوں کہ غرناطہ کے عوام

اپنی غلطیوں کو محسوس کر رہے ہیں۔ ان کے دل میں مدافعت کا جذبہ ابھر رہا ہے اور شاید وہ
 ٹریس گے بھی لیکن بد قسمتی سے آج بھی ان کا امیر ابو عبد اللہ ہے اور آج بھی وہی لوگ برسرِ اقتدار
 ہیں جن کی غداروں کے باعث ہماری شاندار فتوحات شکستوں میں تبدیل ہو کر رہ گئیں۔ اہل
 غرناطہ کے کندھوں پر لاشوں کا بوجھ ہے جنہیں آج سے کئی برس پہلے دفن کر دینا ضروری تھا۔
 تم کہتے ہو کہ لوگ الحمرار کے دروازے پر شب و روز مظاہرے کرتے ہیں لیکن کیا ان مظاہروں
 سے ان کا مقصد یہ نہیں کہ ابو عبد اللہ اپنے محل سے نکل کر ان کی راستمائی کرے۔ میں ان
 لوگوں کے متعلق کیا کہوں جو میدانِ جنگ میں راہمنائی کے لئے ایک بوسیدہ لاش اٹھا کر
 اپنے کندھوں پر رکھ لیں۔ موسیٰ! الحمرار کی تعمیر میں ہمارے اسلاف کا خون اور پسینہ صرف
 ہوا ہے لیکن اگر آج اُس کی دیواریں ابو عبد اللہ جیسے غداروں کو پناہ دیتی ہیں تو خدا کے لئے
 اہل غرناطہ سے کہو کہ وہ ان دیواروں کو گرا دیں۔ اگر الحمرار کے دروازے ان کے ہاتھوں کو
 قوم کے غداروں کی شررگ تک پہنچنے سے روکتے ہیں تو ان دروازوں کو توڑ ڈالو۔ اگر
 مردوں نے اقتدار کی کرسیاں سنبھال رکھی ہیں تو انہیں کرسیوں سمیت دفن کر دو۔
 آپ کو غلط فہمی نہ ہو۔ ہماری تلواریں کسی بادشاہ کے لئے بے نیام نہیں ہوتی تھیں۔
 ہمیں غرناطہ کے نام تھا، شاہی خاندان سے کوئی محبت نہ تھی۔ ابو الحسن کی دعوت پر ہم نے اس لئے
 بیٹیک کہا کہ اس نے قوم کو دشمن کی غلامی سے نجات دلانے کا عہد کیا تھا۔ ہم نے الزغل کی قیادت
 اس لئے قبول کی کہ وہ قوم کی آزادی کے لئے میدانِ جنگ میں کودا تھا لیکن ہماری ناکامیوں کا
 باعث صرف یہ تھا کہ انہوں نے میدان میں کودنے سے پہلے غرناطہ کو منافقین کے وجود سے
 پاک کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ الزغل کو موقع ملا لیکن اُس نے اپنے بھتیجے کو تختہ دار پر
 لٹکانے کی بجائے اسے لوشہ کا حاکم بنا دیا اور اس نے یہ شہر فریضہ بنیٹ کے حوالے کر دیا۔

ابو الحسن سے پوچھئے۔ اُسے اہل غرناطہ کی راہمنائی کا موقع ملا لیکن اس نے بھی وہی غلطی
 کی۔ اس نے رضا کاروں کی فوج تیار کی اور ابو عبد اللہ کو اپنا راہنما بنا لیا۔ ابو عبد اللہ کے ساتھ

غدار بھی میدان میں پہنچ گئے اور ان کی فتوحات شکست میں تبدیل ہو گئیں۔

”موسیٰ! اگر تم جہاد کی دعوت لے کر آتے ہو تو یہاں سے مایوس ہو کر نہیں جاؤ گے لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ان تمام واقعات کے بعد بھی ہم عبداللہ اور اس کے ساتھیوں کا تابوت اٹھائے پھریں۔ آپ اطمینان رکھیں ہم سیلاب کے سامنے آنکھیں بند کرنے والوں میں سے نہیں لیکن تنکوں کی کشتی پر بیٹھنے کی بجائے ہم اپنے بازوؤں پر بھروسہ کریں گے۔ ہم ریت کی دیواروں کی پناہ لے کر اپنے آپ کو دھوکا نہیں دیں گے۔“

تم کہتے ہو کہ اب ابو عبد اللہ اور اس کے ساتھی اپنا مفاد خطرے میں دیکھ کر عوام کا ساتھ دیں گے لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ کل اگر فریڈنٹیڈ انہیں یہ یقین دلادے کہ تمہارا مفاد خطرے میں نہیں ہے تمہیں عوام کے کندھوں پر سوار بننے اور قوم کا خون چوسنے کی اجازت دیتا ہوں تو وہ قوم کا ساتھ نہیں چھوڑ دیں گے؟ جب تک یہ لوگ زندہ ہیں غرناطہ کی زندگی خطرے میں ہے اور میں ان کی غیر طبعی زندگی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا کہ چکاہوں اس کے باوجود اگر تم حکم دیتے ہو تو میں حاضر ہوں اور میرے تمام سپاہی حاضر ہیں۔“

بدر بن مغیرہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ موسیٰ کچھ دیر سر جھبکا کر سوچا رہا۔ بالآخر اس نے کہا: ”آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ فریڈنٹیڈ غرناطہ پر حملہ کرنے والا ہے اور خدا شاہد ہے کہ اس وقت میرے سامنے صرف یہ سوال ہے کہ اندلس کے مسلمانوں کے اس آخری حصار کو بچایا جائے۔ ہمارے لئے یہ وقت ابو عبد اللہ کے متعلق سوچنے کا نہیں۔ وقت آنے پر ہم سب غداروں سے نپٹ لیں گے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے دل میں ان لوگوں کے لئے کوئی رحم ہو سکتا ہے جن کے باعث ہماری قوم کی ہزاروں بیٹیوں کی عصمت لٹ چکی ہے لیکن اب ایک طرف دشمن ہمارے سینے پر نیزہ تانے لگا ہے اور دوسری طرف یہ مجرم ہیں۔ اگر ہم ان کی طرف متوجہ ہو جائیں تو دشمن کا وار خالی نہیں جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ فریڈنٹیڈ نے غرناطہ فتح کر لیا تو ہم ہمیشہ کے لئے منہم ہو جائیں گے۔ بدر! میرے سامنے اس وقت کئی لاکھ عورتوں کی عصمت بچانے کا سوال ہے۔ اگر ہم

نے نصرانیوں کو پسا کر دیا تو ان منافقین کے لئے صرف دو ہی راستے ہوں گے۔ یا تو یہ قوم کے پیچھے لگ جائیں گے اور یا قوم کے پاؤں تک کچلے جائیں گے۔ میں صبح ہوتے غرناطہ چلا جاؤں گا۔ اگر فرٹینڈہ کا رخ غرناطہ کی طرف ہے تو چند دن تک آپ کو اہل غرناطہ کی قوتِ مدافعت کا حال معلوم ہو جائے گا۔ اگر مجھے مایوسی ہوئی تو میں یہ سمجھ لوں گا کہ غرناطہ کی بجائے یہ جنگل اور پہاڑ ہمارا آخری حصار ہے۔ میں آپ کے پاس چلا آؤں گا اور وہ لوگ میرے ساتھ ہوں گے جو دشمن کے ساتھ آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔“

بد نے کہا: ”یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ دشمن کے خلاف تلوار اٹھائیں گے تو ہماری تلواریں نیام میں نہیں رہ سکیں گی۔ اگر اہل غرناطہ کا کوئی گروہ آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو آپ ان کو یہاں آنے کا مشورہ نہ دیں۔ وہ صرف مایوسی کے وقت یہاں آئیں گے اور یہاں مایوس ہونے والوں کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ وہ اگر اپنی جگہ پر ڈٹے رہے تو صرف ہم ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر گوشے سے مسلمان ان کی مدد کے لئے پہنچیں گے۔ ابو عبد اللہ اور اس کے ساتھیوں کے متعلق میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر حالات آپ کو ان کے خلاف کسی فوجی اقدام کی اجازت نہ دیں تو بھی ان کی کڑی نگرانی ضروری ہے۔“

موسیٰ نے کہا: ”اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں ابو محسن کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔“

ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ آپ ہم میں سے جس کو چاہیں اپنے ساتھ لے جاسکتے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد بدر بن مغیرہ اور اس کے ساتھی موسیٰ اور ابو محسن کو الوداع

کہہ رہے تھے۔

(۴)

فردی بنڈ نے غرناطہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اس کی ٹڈی دل فوج نے بار بار شہرِ پناہ پر

حملے کئے لیکن ہزار تیروں کی بارش میں انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ تاہم فرٹھینڈ اور اس کے سپاہی طاقت کے نشے میں سچڑھے تھے۔ انہوں نے معمولی نقصانات کی پروا نہ کی اور شہر کا محاصرہ جاری رکھا۔ اردگرد کی بستیوں کے لوگ نصرانیوں کی پیش قدمی کی خبر سنتے ہی شہر میں پناہ لے چکے تھے۔ فرٹھینڈ کے سپاہیوں نے ان کے سرسبز باغات برباد اور فصلیں تباہ کر ڈالیں۔

اہل شہر کی قیادت موسیٰ کے ہاتھ میں تھی اور اس کی روح پرور تقریروں سے اہل غرناطہ میں ایک نئی زندگی اچھلی تھی۔ قوم کے افراد کی طرح ابو عبد اللہ اور اس کے ساتھی بھی اسے اپنا راہنما تسلیم کر چکے تھے اور قوم ان کے گزشتہ گناہ بھول چکی تھی۔ علماء اپنے شاگردوں اور عقیدتمندوں اور سردار اپنے اپنے قبائل کی طرف فرٹھینڈ کے خلاف اعلان جہاد کر چکے تھے۔ نوجوانوں کے جوش و خروش کا عالم تھا کہ وہ دو یا اثر سرداروں کو فرٹھینڈ کے جاسوس ہونے کے جرم میں پھانسی کی سزا دے چکے تھے۔

فرٹھینڈ کو یقین تھا کہ سامانِ رسد ختم ہو جانے پر اہل شہر خود بخود ہتھیار ڈال دیں گے لیکن ایک دن طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر قبل فرٹھینڈ کی فوج نینر سے بیدار ہوئی تھی، شہر کے تمام دروازے کھل گئے اور مسلمانوں نے باہر نکل کر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ فرٹھینڈ کی توقع کے خلاف تھا۔ ان کی آن میں مسلمان قریباً چار ہزار نصرانیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ اتنی دیر میں فرٹھینڈ کے تیر انداز خندقوں میں جم کر بیٹھ گئے اور اس کی پیادہ اور سوار فوج کو منظم ہونے کا موقع مل گیا۔ موسیٰ نے ایک ہزار جانباز سواروں کے ساتھ شہر کے مغربی دروازے سے نکل کر حملہ کیا اور دشمن کی کئی صفیں دہم برہم کر ڈالیں اور تیر اندازوں کے اگلے مورچوں پر قبضہ کر لیا۔

جنوبی دروازے سے ابو عبد اللہ نمودار ہوا اور دشمن کی فوج کے سپاہی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ غرناطہ کا کھٹ پستلی بادشاہ ابھی تک نیزہ بازی اور شہسواری میں اپنے اسلاف کی روایت نہیں بھولا۔

دو پہر تک فرٹھینڈ کی فوج ہر محاذ سے پیچھے ہٹتی رہی لیکن تیسرے پہر وہ آخری خندق

کے پیچھے اپنی سوار اور پیادہ افواج منظم کر چکے تھے اور غرناطہ کے حملہ آوروں کے لئے آگے بڑھنا ممکن نہ تھا۔ فریقین کی صفوں کے درمیان تیر کی پرواز حد فاصل بن چکی تھی۔ ابو موسیٰ کے پاس پیادہ فوج کی کمی نہ تھی لیکن اُس نے علم حملے کا حکم نہ دیا۔ اُس کے تیر انداز شہر نپاہ کے ارد گرد مورچے بنا چکے تھے۔ اس کے سوار چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں آگے بڑھ کر حملہ کرتے اور دشمن کو نقصان پہنچانے کے بعد واپس آجاتے۔

فریقین بھاری نقصان اٹھانے کے باوجود اس صورت حال سے پریشان نہ تھا۔ یقین ہو چکا تھا کہ فاتح کشی نے مسلمانوں کو شہر سے باہر آ کر لڑنے پر مجبور کر دیا ہے اور ایک دو دن میں اُن کی رہی سہی ہمت جواب دے جائے گی۔ اس لئے اُس نے جوابی حملہ کرنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو فقط مدافعت کی جگہ لڑنے کا حکم دیا۔

ظہر کی نماز کے بعد موسیٰ نے شہر کے چاروں طرف اپنی فوج کی صفیں درست کیں اور سالاروں کو حکم دیا کہ وہ آخری حملے کے لئے تیار رہیں۔ وقت آنے پر شہر نپاہ کے ہر رُج سے نقیب اُنہیں آوازیں دیں گے اور وہ آواز سُلتے ہی دشمن پر حملہ کر دیں۔

تجربہ کار لوگ اس حملہ کے نتائج کے متعلق پُر امید نہ تھے بلکہ وہ اس حملہ کو خود کشی کے مترادف سمجھتے تھے۔ دشمن کے تیر اندازوں کے نورچوں پر سیدھا حملہ بہت خطرناک تھا اور اس کے علاوہ فریقین کے سواروں کی تعداد موسیٰ کے سواروں سے کم از کم آٹھ گنا تھی اور پیادہ فوج جس پر موسیٰ کی طاقت کا دار و مدار تھا، اس حملے میں زیادہ کام نہیں دے سکتی تھی لیکن عوام کو موسیٰ پر اعتماد تھا۔ وہ اس کے اشارے پر آگ میں کودنے کے لئے بھی تیار تھے۔

فوج کو ہدایات دینے کے بعد موسیٰ شہر کے دروازے میں داخل ہوا اور گھوڑے سے اتر کر فصیل پر چڑھ گیا۔ باری باری ہر دروازے کے بُرج پر کھڑے ہو کر اُس نے اُن کی طرف نگاہ دوڑائی۔ ڈھلتے ہوئے سائے اُس کی بالیوسی میں اضافہ کرنے لگے۔ وہ فصیل پر بھاگتا ہوا ایک دروازے سے اتر کر دوسرے دروازے پر پہنچتا اور پھر تیسرے سے پوچھتا: "ابھی تک

تمہیں کچھ نظر نہیں آیا؟ اور جب پھر یہ نفسی میں جواب دیتے تو اطمینان کے لئے خود اُفت کی طرف دیکھتا۔

دوسری طرف فرڈیننڈ قسطلہ کے بشپ سے کہہ رہا تھا۔ "مقدس باپ! آپ دعا کریں کہ دشمن ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ ملتوی نہ کرے۔ اگر آپ کی دعا قبول ہوئی تو یہ جنگ آج ہی ختم ہو جائے گی۔" اور بشپ مریم کی مورتی کے سامنے دوڑا تو ہو کر دعا کر رہا تھا۔

(۵)

موسیٰ تیسری بار شہر کے دروازے کے برج کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا کہ اوپر سے پھر یہ آواز دی۔ اُفتی پر گرد دکھائی دے رہی ہے۔ شاید کوئی فوج آ رہی ہے۔" موسیٰ بھاگتا ہوا برج پر پہنچا اور اُفتی کی طرف دیکھ کر چلایا۔ "وہ آگئے! وہ آگئے!!" ہمارے عقاب آگئے!! آج خدا نے ہمیں فتح دی ہے۔"

اور جب گرد کے بادلوں میں سوار دکھائی دینے لگے تو موسیٰ کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو اُبل پڑے۔ اُس نے برج سے نیچے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ "ہوشیار!" اور فصیل پر کھڑے ہونے والے نصیبوں نے اُن کی آن میں امیر عساکر کی آواز سنا لی اور فصیل پر کھڑے ہونے والے نصیبوں نے اُن کی آن میں امیر عساکر کی آواز سنا لی۔ موسیٰ نے "بزن" کہا اور فصیل کے ہر کونے سے "بزن" کی آواز گونجی۔ موسیٰ بھاگتا ہوا باہر نکلا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔

دوسری طرف فرڈیننڈ نے قسطلہ کے بشپ سے کہا۔ "مقدس باپ! آپ کی دعا قبول ہوئی۔ موت کو دشمن کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں، اب وہ خود موت کی آغوش کی طرف بڑھ رہا ہے۔"

ڈوبتے ہوئے سورج کی آخری نگاہیں ہلال و صلیب کے علم برداروں کا ایک اور معرکہ

دیکھ رہی تھیں۔ اہل غرناطہ تیروں کی بارش میں آگے بڑھے۔ فرطینڈ نے سواروں کو حملے کا حکم دیا، اور گھمسان کی جنگ ہونے لگی۔

موسیٰ، ابو عبد اللہ اور ابو محسن شہر کی تین اطراف سے سواروں کے دستوں کی راہنمائی کر رہے تھے۔ اور پیادہ فوج تیر اندازوں کے مورچوں پر یورش کر چکی تھی۔ موسیٰ شمالی دروازے کی طرف دشمن کی صفوں کو توڑتا ہوا آگے نکل گیا۔ فرطینڈ گھوڑا بھگا کر آگے بڑھا اور بلند آواز میں چلایا: "اس دستے کے ایک سوار کو بھی واپس شہر تک پہنچنے کا موقع نہ دو۔ تعاقب مت کرو وہ واپس آئیں گے!"

موسیٰ پانچ سو سواروں کے ساتھ دشمن کی صفوں سے گزرنے کے بعد ایک باغ کے گھنے درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا اور فرطینڈ کے تیر انداز اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن موسیٰ شہر کی دوسری طرف اس کی فوج کے عقب میں جا نکلا اور اس کے ساتھ ہی شمال سے ایک نئی فوج نمودار ہوئی۔ وہ فوج جس کا موسیٰ ابو محسن کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔

سرحدی عتاب کے مجاہد اہل غرناطہ کی مدد کے لئے پہنچ چکے تھے۔ بدر بن مغیرہ نے دشمن کے عقب میں تین ہزار سواروں کے ساتھ حملہ کیا اور ان کی آن میں دشمن کی صفیں روند ڈالیں۔ فرطینڈ نے بدحواس ہو کر فوج کو دائیں طرف ہٹنے کا حکم دیا لیکن اتنی دیر میں موسیٰ عقب سے حملہ کر چکا تھا۔ اب فرطینڈ کی فوج کے سامنے بدر بن مغیرہ کے سوار تھے اور پیچھے موسیٰ کے جاناڑے تھے۔ تیسری طرف فرطینڈ کی فوج ابو عبد اللہ کے سواروں کو پیچھے ہٹا چکی تھی لیکن یہاں بھی نصرانیوں کو ایک غیر متوقع مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے عقب سے اچانک دو ہزار سوار نمودار ہوئے اور شام کے دھندلکے میں انہوں نے یہ خیال کیا کہ ان کے لئے ملک پہنچ گئی ہے لیکن جب باہر سے آنے والوں نے اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ حملہ کر دیا تو نصرانی انتہائی انتشار کی حالت میں بائیں طرف ہٹنے لگے۔ ابو عبد اللہ کی قیادت میں جو سوار شہر کی طرف سپاہورہے تھے۔ انہوں نے صورت حال کی تبدیلی محسوس کرتے ہی پلٹ کر حملہ کر دیا۔ اب فرطینڈ کی تمام فوج

بطرف سے سمٹ کر شہر کے ایک طرف جمع ہو چکی تھی۔ ان کے دائیں اور بائیں بازوؤں پر بدر بن مغیرہ اور منصور بن احمد کے سوار تھے۔ عقب میں موسیٰ کے جانباز اور سامنے غزناطہ کی باقی فوج ابو عبد اللہ اور ابو محسن کی قیادت میں لڑ رہی تھی۔ چوتھی طرف شہر نیاہ کا وہ حصہ جس کے ساتھ دریا بہتا تھا، پر سکین تھا۔

بارہویں رات کے چاند کی روشنی کے باعث جنگ کی تیزی میں کوئی فرق نہ آیا۔ دشمن کی فوج آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی اور ابو موسیٰ کے ساتھ عقب سے حملہ کرنے والے مٹھی بھر جانبازان کا راستہ روکنے کے لئے کافی تھے۔

منصور گھوڑا دوڑا کر دشمن کی فوج کے گرد ایک چکر کاٹنے کے بعد عقب میں پہنچا اور اس نے موسیٰ سے کہا: "آپ اپنے دستے کو یہاں سے فوراً ہٹالیں۔"

موسیٰ نے کہا: "لیکن میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ میں یہاں سے ہٹنے کی بجائے اپنی فوج کا ایک حصہ یہاں منتقل کر لوں۔ وہ دائیں یا بائیں چکر کاٹ کر یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہم انہیں دھکیل کر شہر کی طرف لے جائیں تو وہ شہر نیاہ پر ہمارے تیر اندازوں کی زد میں آجائیں گے۔"

"لیکن اگر وہ شہر میں داخل ہو گئے تو؟"

"میں دروازے بند کرنے کا حکم دے چکا ہوں۔"

"آپ کی یہ تجویز بُری نہ تھی لیکن شہر کی پیادہ فوج کو اتنی جلدی عقب میں نہیں لایا جاسکتا۔ دشمن کے سواروں کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے اور اگر وہ دائیں یا بائیں طرف کتر کر نکلنا چاہیں تو ہم تخت نقصان اٹھائے بغیر انہیں نہیں روک سکیں گے۔ یہ بحث کا وقت نہیں اگر آپ نے تاخیر سے کام لیا تو مجھے ڈر ہے کہ دشمن کو ہماری ایک نہایت اہم چال کا علم ہو جائے گا۔"

موسیٰ نے کہا: "بہت اچھا، اگر آپ کی تجویز کے ساتھ بدر بن مغیرہ کو اتفاق ہے تو مجھے یہاں سے فوج ہٹانے میں کوئی اعتراض نہیں۔"

"ہم دونوں ایک ہی دماغ کے ساتھ سوچتے ہیں۔ آپ یہ محاذ چھوڑ کر دوسری طرف پہنچ

جائیں لیکن فوراً ورنہ دشمن چوکتا ہو جائے گا۔ آپ تھوڑی دُور سپاہ ہوتے جائیں اور پھر دشمن کے لئے پیچھے ہٹنے کا میدان خالی کر دیں۔“

یہ جنگ ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ نصرانی تین اطراف سے دب کر بیٹھے ہٹ رہے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر فرڈیننڈ اپنے اُن محفوظ دستوں کو میدان میں لانے پر مجبور ہو گیا جو میدانِ جنگ سے باہر خمیوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ نصرانیوں کے اکھڑتے ہوئے پاؤں پھر ایک بار جم گئے۔

اچانک میدانِ جنگ سے کچھ دُور ایک گھنے باغ کے درختوں کی آڑ سے سرحدی مجاہدین کا ایک تازہ دم دستہ نمودار ہوا۔ یہ سوار جن کی تعداد ایک سو کے لگ بھگ تھی اپنے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں لئے ہوئے تھے اور اُن کا رخ میدانِ جنگ کی بجائے فرڈیننڈ کی فوج کے پڑاؤ کی طرف تھا۔ پڑاؤ سے حفاظتی دستوں کا بیشتر حصہ میدان میں آچکا تھا۔ فرڈیننڈ کے رہے سپاہیوں نے خمیوں اور رسد کے ذخیروں کو بچانے کی کوشش کی لیکن برق رفتار سوار ایک طرف سے پڑاؤ میں داخل ہوئے اور خمیوں کو آگ لگاتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے۔ محافظ فوج ابھی سنبھلنے نہ پائی تھی کہ مشعل برداروں کا ایک اور دستہ عقب سے نمودار ہوا۔

ایک خمیے میں قسطرہ کا بشپ اور اس کے ساتھ کوئی تیس راہب مریم مقدس کے مجسمے کے سامنے جھک کر صلیب کی فتح کے لئے دُعائیں مانگ رہے تھے۔ باہر سے پریداروں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ”مقدس باپ خمیے کو آگ لگ چکی ہے۔“

خمیوں کے علاوہ سوکھی گھاس کے ایک بہت بڑے ذخیرے کو آگ لگ جانے کے باعث روشنی میدانِ جنگ تک پہنچ رہی تھی۔ نصرانی فوج کے سپاہی اپنے سالاروں اور سالار اپنے سپاہیوں کے حکم کا انتظار کئے بغیر خمیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے ساتھ ہی بدر بن مغیرہ کے تمام سوار ان پر ٹوٹ پڑے۔

سپاہیوں نے والی فوج کے لئے اپنے پڑاؤ میں چاروں طرف جلتے ہوئے خمیوں کے درمیان

کوئی جاتے پناہ نہ تھی۔ آگ کی روشنی میں تعاقب کرنے والے انہیں گھیر گھیر کر موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ بدحواس گھوڑے خمیوں کی رسیوں میں الجھ کر گر رہے تھے۔

فرڈینینڈ نے سپانی کا بگل بجانے کا حکم دیا اور اُس کی رہی سہی فوج پڑاؤ میں جلتے ہوئے خمیوں کو چھوڑ بھاگ کھڑی ہوئی۔ موسیٰ نے پیادہ فوج کو سامانِ رسد کے ذخیرے بچانے اور سواروں کو اپنے ساتھ تعاقب جاری رکھنے کا حکم دیا۔

بدر بن مغیرہ اور منصور بن احمد نے دشمن کو دائیں اور بائیں طرف سے گھیر رکھا تھا اور غرناطہ کے سوار اُن کے پیچھے تھے۔ فرڈینینڈ کی فوج کے لئے فقط سامنے کا راستہ کھلا تھا۔

کوئی تین کوس دشمن کا تعاقب کرنے کے بعد بدر بن مغیرہ نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا: "یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک ندی ہے۔ اپنے دستوں کو روکنے۔ دشمن ہمارے آخری وار کی زد میں آچکا ہے۔ تیر انداز سواروں کو آگے کر دیجئے۔ دشمن بہت جلد واپس آئے گا۔"

موسیٰ نے فوج کو روکنے کا حکم دیا۔ وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ بدر بن مغیرہ نے اہل غرناطہ کو مصلحتاً اپنی تجاویز سے آگاہ نہیں کیا۔ وہ یہ بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ ندی کے پاس پہنچ کر دشمن کے لئے بدر بن مغیرہ کے ترکش کے آخری تیر کس قدر خطرناک اور تباہ کن ثابت ہوں گے۔

فرڈینینڈ نے یہ سمجھ کر کہ دشمن ان کا تعاقب چھوڑ چکا ہے ندی سے کچھ فاصلے پر گھوڑا روکا۔ اپنے منتشر دستوں کو جمع کیا لیکن دائیں اور بائیں بازو سے دشمن کے سواروں کی آہٹ پا کر اس نے فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ ندی کے کنارے پہنچ کر شکست خوردہ فوج کو ایک نئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پل ٹوٹا ہوا تھا اور اس پاس ان سپاہیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں جنہیں فرڈینینڈ نے اُس پل کی حفاظت پر متعین کر رکھا تھا۔

اہل قسطلہ کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ندی کے پار ایک نئی مصیبت ان کا انتظار کر رہی ہے لیکن فرڈینینڈ کے لئے سوچنے کا وقت نہ تھا۔ اُس نے فوج کو ندی عبور کرنے کا حکم دیا

ندی کا پاٹ زیادہ نہ تھا۔ پانی بھی مشکل سے سواروں کی رکابوں تک پہنچتا تھا لیکن کنارے بلند تھے۔

جونہی اگلی صف کے سواروں کے گھوڑے پانی میں کودے، بہتے ہوئے پانی کے دھیمے راگ نے ایک ہنگامے کی صورت اختیار کر لی۔ دوسرے کنارے سے "اللہ اکبر" کی صدا بلند ہوئی اور اُس کے ساتھ ہی درختوں کی آڑ سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔

سوار زخمی ہو کر پانی میں گر رہے تھے اور گھوڑے بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اہل قسطلہ پھر ایک بار قیامت کا سامنا کر رہے تھے۔ باقی جو ابھی تک ندی سے باہر تھے۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں موڑ لیں اور پیچھے ہٹنے لگے اور ندی میں جو بچ گئے وہ بھی واپس مڑنے لگے۔ اتنی دیر میں دائیں اور بائیں بازو سے تعاقب کرنے والے سوار ان کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ اب صرف عقب خالی تھا لیکن جب وہ پیچھے مڑے تو کھوڑی اور جانے کے بعد موسیٰ کے تیر اندازوں کی زد میں آچکے تھے۔ تیروں کی زد سے گزرنے کے بعد ان کے سامنے نیزہ بازوں کی دیوار کھڑی تھی۔ منصور بن احمد دایاں بازو چھوڑ کر غناطہ کے سواروں کے ساتھ مل چکا تھا۔ اہل قسطلہ دائیں طرف مڑے۔ اب ان کی کوشش یہ تھی کہ ندی کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف بڑھتے جائیں اور کسی محفوظ مقام سے ندی عبور کر لیں لیکن ندی کے دوسرے کنارے اب سواروں کا ایک دستہ ان کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا تھا اور وہ بھاگتے ہوئے تیر بھی برسائے جا رہے تھے۔ ان حالات میں فرط ہنڈ جس آخری تباہی کے تصور سے کانپ رہا تھا وہ اس کے سامنے تھی۔ جنوب کی طرف زونیل عبور کرنے کے سوا اس کے لئے کوئی راستہ نہ تھا۔ یہ ندی جس کے کنارے کے ساتھ ساتھ اُس کی فوج کا تعاقب ہو رہا تھا اسی دریا سے نکلتی تھی۔ عقب اور بائیں ہاتھ سے تعاقب کرنے والے انہیں بُری طرح ندی کی طرف دھکیل رہے تھے۔ ندی کے دوسرے کنارے سے تیر اندازوں کا دستہ جو تازہ دم گھوڑوں پر سوار تھا ان پر لگاتار تیروں کی بارش کر رہا تھا۔

دیریا کے قریب پہنچتے پہنچتے فرٹھینڈ کی فوج کے بے شمار گھوڑے اپنے سواروں کے جوڑے سے نجات حاصل کر چکے تھے۔ مجاہدین نیزوں کی بجائے تلواروں سے ان کا قتل عام کر رہے تھے۔ ان کے بازو شل ہو چکے تھے لیکن فتح کی خوشی میں ہر شخص دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بدر بن مغیرہ کو اپنے بائیں ہاتھ غرناطہ کا ایک سوار دکھائی دیا۔ چاند کی روشنی میں اس کی زرہ اور خود چمک رہے تھے لیکن بدر بن مغیرہ کو جس چیز نے اُس کی طرف متوجہ کیا وہ اس کا خوب صورت گھوڑا تھا۔ یہ سوار دشمن کے چند سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اُتار کر آگے نکل گیا۔ قسطلہ کے ایک سوار نے اُس کے نیزے سے زخمی ہو کر اپنا گھوڑا موڑ کر اُس پر حملہ کیا۔ غرناطہ کے سوار نے اپنی تلوار سے اُس کا وارہ روکا لیکن اتنی دیر میں پیچھے سے قسطلہ کا ایک اور سپاہی اسے نیزے سے زخمی کر کے آگے نکل گیا۔ اس سوار نے زخمی ہونے کے باوجود اپنا گھوڑا نہ روکا اور یکے بعد دیگرے دو اور آدمیوں کو موت کے گھاٹ اُتار دیا۔

بدر بن مغیرہ کے منہ سے بے اختیار تحسین کے الفاظ نکل گئے۔ اور اس نے قریب پہنچ کر کہا: "میں تمہاری بہادری پر خوش ہوں لیکن دشمن کے بیچ میں گھسنے کی ضرورت نہیں۔"

گھوڑی دیر بعد جب دوسری دفعہ بدر بن مغیرہ کی نگاہ غرناطہ کے اُس سوار پر پڑی تو وہ

نڈھال ہو کر اپنی زین پر جھکا ہوا تھا۔

بدر بن مغیرہ نے گھوڑا آگے بڑھا کر کہا: "تم زخمی ہو۔" سوار کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ اور اُس نے ہتھ پیر ٹیک دیا۔ بدر بن مغیرہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اُسے اپنے گھوڑے پر ڈال لیا۔

آدھی رات کے وقت فرٹھینڈ کی رہی سہی فوج دریا عبور کر رہی تھی اور مجاہدین ان پر تیسروں کی بارش کر رہے تھے۔ یہ فرٹھینڈ کی زندگی کی سب سے بڑی شکست

تھی۔

(۶)

اس عظیم الشان فتح کے بعد موسیٰ گھوڑے سے اُترا اور دیر تک سبز سجود رہا۔ اس کے ہونٹوں سے بار بار یہی دُعا نکل رہی تھی۔ اے غفور الرحیم! ہم اس قابل نہ تھے، یہ تیرا انعام ہے یہ تیری رحمت ہے۔ اور پھر اُس نے اُٹھ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ بدر بن مغیرہ چند قدم کے فاصلے پر بشیر کو آوازیں دے رہا تھا۔ موسیٰ نے بھاگ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور اس کا ہاتھ کھینچ کر ہونٹوں سے لگایا اور کہنے لگا۔ "بدر! اپنا خود اُتار دو اہل غرناطہ اس فرشتے کی صورت دیکھنے کے لئے بیقرار ہیں جو اپنے ساتھ خدا کی ہزاروں رحمتیں لے کر آیا ہے۔"

بدر نے جواب دیا۔ "اس وقت صرف وہ صورتیں دیکھنے کے قابل ہیں جن کی پیشانیوں پر شہادت کا خون چمک رہا ہے۔ اس فتح کے بعد مجھے اپنے آپ کو ظاہر کر کے پڑا اعتراض نہیں لیکن ابھی لوگوں کی توجہ میری طرف مبذول نہ کیجئے۔ فرٹھینڈ کی پیادہ فوج ابھی تک اس علاقے میں بکھری ہوئی ہے ہمیں انہیں نکل جانے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔" یہ کہتے ہوئے بدر بن مغیرہ نے اپنے خود کا نقاب اُپر اٹھا دیا۔

موسیٰ نے کہا۔ "انشاء اللہ ان میں سے بہت کم بچ کر جا سکیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھوڑے ذرا تازہ دم ہوں۔"

اتنی دیر میں ابو محسن منصور اور فوج کے دوسرے افسران کے گرد جمع ہو گئے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا۔ "منصور! آج تم میری تلوار اور میرے گھوڑے کے حق دار ہو۔ مجھے یقین نہ تھا کہ تم اس زمین کے نشیب و فراز سے اس قدر واقف ہو۔ مجھے تم پر فخر ہے۔"

بہادر سالار کے لئے اپنے محبوب قائد کے یہ الفاظ ایک بہت بڑا انعام تھا۔

بدر بن مغیرہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ "بشیر ابھی تک نہیں آیا۔ خدا کرے وہ بچ

گیا ہو۔!

”بشیر کہاں ہے؟“ موسیٰ نے چونک کر کہا۔

”میں ندی کے پار آپ کی فوج کے ایک زخمی کو چھوڑ آیا تھا۔ میں نے بشیر کو اس کی مرہم پی کے لئے بھیجا ہے۔ اس کا سفید گھوڑا نہایت خوبصورت تھا اور لباس سے بھی وہ آپ کی فوج کا کوئی بڑا افسر معلوم ہوتا تھا۔ وہ بہلا ضرور ہے لیکن بہت زیادہ جوشیلا ہے۔ میں اُسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں وہ بہت بڑی طرح زخمی ہوا ہے۔“

ایک سوار نے آگے بڑھ کر موسیٰ سے کہا: ”سلطان کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ بعض آدمیوں نے ان کا خالی گھوڑا دیکھا ہے۔“

بدر بن مغیرہ کے چہرے پر قدرے اضطراب کے آثار نمودار ہوئے اور اس نے کہا۔

”میرا خیال تھا غرناطہ کے سپاہی اب لاشوں کے بوجھ سے نجات حاصل کر چکے ہوں گے۔ اگر سلطان سے مراد ابو عبد اللہ ہے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ پھر ایک بار غرناطہ پہنچ کر سپاہیوں کے لئے شہر کے دروازے بند کرنے کا حکم نہ دے چکا ہو۔“

منصور نے کہا: ”میں نے اُسے دیکھا ہے لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ مجھے اپنی مرضی کے خلاف اُسے دو تین مرتبہ داد دینی پڑی۔ جب ابو محسن نے بتایا کہ یہ ابو عبد اللہ ہے تو مجھے یقین نہیں آتا تھا۔“

موسیٰ نے کہا: ”میں شہر کی بجائے اُسے میدان میں بے ضرر سمجھ کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔“

بدر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بشیر گھوڑا بھگاتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور بولا: ”وہ زخمی اُسے ملنے کے لئے بیقرار ہے۔“

بدر نے سوال کیا: ”کیسی حالت ہے اُس کی؟“

”پسلی میں زخم ہے لیکن انشاء اللہ بچ جائے گا۔“

(۷)

زخمی زخمیوں کے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ چند سپاہی اس کے گرد کھڑے تھے۔ بدر بن مغیرہ اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر سپاہی ایک طرف ہٹ گئے۔ بدر گھوڑے سے اتر کر زخمی کے قریب پہنچا۔ پہلی نگاہ میں بدر بن مغیرہ اُسے پہچان نہ سکا، لیکن جب اُس نے زمین پر ایک زانو ٹیک کر غور سے اُس کی طرف دیکھا تو اپنے رگ دریشے میں ایک لپکی سی محسوس کرنے کے بعد کھڑا ہو گیا۔ زخمی نے گردن اُوپر اٹھائی اور نحیف آواز میں کہا۔

”آج آپ نے ایک ایسے آدمی کی جان بچائی ہے جسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہ تھا۔ میں آپ کا مجرم ہوں۔ میں آپ کا قاتل ہوں۔ میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور آپ کو یہ حق ہے کہ آپ میرے لئے بدترین سزا تجویز کریں۔“

بدر بن مغیرہ خاموش کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے ابو عبد اللہ تھا۔ وہ ابو عبد اللہ جس کی تلت فردوسی کی داستان اندلس کے ہر مجاہد کے دل پر نقش تھی جسے بھول جانا یا معاف کر دینا بدر بن مغیرہ جیسے انسان کے بس کی بات نہ تھی۔

وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا۔ ”کاش! اس خوشی کے موقع پر میں تمہاری صورت نہ دیکھتا۔“

موسىٰ، بشیر، ابو محسن اور منصور، بدر بن مغیرہ کے پیچھے کھڑے خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ کے چہرے سے اس کے تاثرات کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا۔

ابو عبد اللہ اچانک اُٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا ایک قدم آگے بڑھ کر بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں سے درد میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی۔ ”تم مجھے قتل کیوں نہیں کرتے۔ میرے گناہوں کا بوجھ اب میرے لئے ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔“

ابو عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بدر بن مغیرہ ایک چٹان کی مانند کھڑا تھا ابو عبداللہ نے پھر کہا: "میں زندگی کے عذاب سے نجات حاصل کر چکا تھا۔ دشمن کے گھوڑے میری لاش روندنے کو تھے لیکن تم نے مجھ پر ظلم کیا۔ خدا کے لئے مجھے قتل کر دو۔ اس زمین کے لئے میرا بوجھ ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔" وہ رو رہا تھا۔

بدر بن مغیرہ کے دل میں ابو عبداللہ جیسے غدار کے لئے رحم کی کوئی گنجائش نہ تھی لیکن مجاہدانہائی غصے کی حالت میں بھی گریے ہوئے دشمن پر وار کرنے کا عادی نہ تھا۔ اس نے کہا۔ "ابو عبداللہ! تمہارے آنسو مجھے متاثر نہیں کر سکتے لیکن تمہاری قبا پر خون کے نشان ہیں یہی میدان جنگ میں تمہارا خون شہیدوں کے ساتھ مل چکا ہے۔ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں لیکن قوم کے مجرم کو صرف قوم ہی معاف کر سکتی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اہل غرناطہ حماقت کی حد تک فیاض ہیں۔ وہ تمہارے دامن پر خون کے نشان دیکھ کر تمہارا ماضی بھول جائیں گے۔ وہ تمہیں دیکھتے ہی "سلطان ابو عبداللہ زندہ باد" کے نعرے لگائیں گے لیکن ابو عبداللہ خدا کے لئے ایسی فیاض اور ایسی سادہ دل قوم کو دو بارہ دھوکا دینے کی کوشش نہ کرنا۔ میری بات پر یقین کرو کہ اگر اس میدان کی بجائے الحما کے ایوانوں میں ہماری ملاقات ہوتی تو میری تلوار شاید تمہیں بولنے کا موقع بھی نہ دیتی۔ میں اہل غرناطہ کے احتجاج کے باوجود اس شخص کا سر تسلیم کئے بغیر نہ رہتا جس نے تاج پہننے کے شوق میں دشمن کے ہاتھ قوم کی بیٹیوں کی عصمت فروخت کی تھی۔ لیکن اس وقت تم قوم کے ایک سپاہی ہو۔ تمہاری تلوار دشمن کے خون میں نہا چکی ہے اور تمہارے خون کے چند قطرے شاید تمہارے ماضی کی سیاہی دھو ڈالیں۔"

ابو عبداللہ کی قوت جواب دے چکی تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا اور درخت کا سہارا لے کر بولا: "تم بہت فیاض ہو لیکن میں جانتا ہوں کہ سمندر کا تمام پانی بھی میرے دامن کی سیاہی دھونے کے لئے کافی نہیں۔ کاش! تم مجھے موت کی آغوش سے پھینکنے کی کوشش نہ کرتے! اس

نے نڈھال سا ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ گرنے کو تھا کہ بشیر نے آگے بڑھ کر اُسے سہارا دیا اور
آہستہ سے اُسے زمین پر لٹا دیا۔

بدر بن مغیرہ نے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے کہا: "بشیر ان کی حفاظت
تمہارے ذمے ہے۔ ہمارا بہت سا کام باقی ہے۔" موسیٰ، منصور اور ابو محسن بھی گھوڑوں پر
سوار ہو گئے۔

فرطحہ نیند کی پیادہ فوج جو سواروں سے پیچھے رہ گئی تھی انتہائی انتشار کی حالت میں
ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور غرناطہ کے سولہوں کے دستے انہیں گھیر گھیر کر موت کے گھاٹ اتار
رہے تھے۔ جو باغات اور فصلوں میں چھپنے کی کوشش کر رہے تھے ان کا کھوج لگانے کے
لئے غرناطہ کی پیادہ فوج کے دستے پہنچ چکے تھے۔ بھاگتے ہوئے دشمن پر آخری ضرب لگانے
کے لئے شہر کے بوڑھے اور کمسن لڑکے بھی میدان میں نکل آئے تھے۔ طلوع آفتاب سے پہلے
میدان صاف ہو چکا تھا۔ قدم قدم پر دشمن کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ قیدیوں کی تعداد پانچ
ہزار کے لگ بھگ تھی اور ہلاک ہونے والے چار گنا زیادہ تھے۔

(۸)

فاتح لشکر نے دریائے زونیل کے کنارے صبح کی نماز ادا کی۔ موسیٰ کے اصرار پر بدر
بن مغیرہ نے امامت کے فرائض ادا کئے۔ نماز کے بعد اس کی مختصر سی دعا یہ تھی: "اے جبرائیل اور
مزرا کے مالک! ہمیں اپنے اسلاف کا ایمان عطا کر۔ ہمارا سر تیرے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے،
اور ہمارا دل تیرے سوا کسی سے مرعوب نہ ہو۔ ہمیں اپنی اطاعت کے لئے جینے کی توفیق دے
اور اپنے پیارے نبیؐ کے دین کا پول بالا کرنے کے لئے مرنے کی ہمت عطا کر۔ آمین!"

دعا کے بعد بدر بن مغیرہ تھوڑی دیر خاموش کھڑا رہا۔ عقاب کی وادی کے مجاہد فخر کے ساتھ
اپنے راہنما کی طرف دیکھ رہے تھے اور اہل غرناطہ کی خاموش نگاہیں اپنے محسن کے لئے

عقیدت، محبت اور شکر کے جذبات کا اظہار کر رہی تھیں۔ بدر بن مغیرہ نے کہا :-

”میرے بزرگوار اور بھائیو! تمہیں یہ شاندار فتح مبارک

ہو۔ لیکن کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اس جنگ کے بعد تم مستقبل کے

خطرات سے نجات حاصل کر چکے ہو۔ تم نے دشمن کو فقط غرناطہ

کی چار دیواری سے پیچھے ہٹایا ہے لیکن تمہاری سلطنت کا

بیشتر حصہ ابھی تک دشمن کے قبضہ میں ہے اور یہ کھوئی ہوئی

سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کے بعد بھی تمہارا کام ختم نہیں

ہوگا جب تک تم سارے اندلس پر قابض نہیں ہوتے تم اطمینان

کا سانس نہیں لے سکتے۔ اگر تم اس فتح کے بعد سو گئے تو یاد

رکھو کہ قدرت سونے والوں کو بار بار نہیں جگاتی جب تک

وہ کسی قوم میں زندگی کی علامات دیکھتی ہے تو وہ اُسے بھجورٹی

ہے لیکن جب وہ مایوس ہو جاتی ہے تو اُسے لوریاں دے کر

موت کی نیند سُلا دیتی ہے۔ اندلس کے مسلمان تمہارے ان

حکمرانوں کے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں جو اس عظیم الشان

سلطنت کے بیشتر علاقے دشمن کے حوالے کرنے کے بعد غرناطہ

کی چیتہ بھرن زمین کو اپنے لئے کافی سمجھ کر آرام کی نیند سو گئے

تھے۔ صدیوں تک اندلس کے مظلوم مسلمان اس بات کا

انتظار کرتے رہے کہ غرناطہ سے اُن کے بھائی اُن کی مدد کے

لئے آئیں گے لیکن تم سوتے رہے۔ اندلس میں تمہارے بھائی

ظلم اور استبداد کی چکی میں پستے رہے۔ وحشت اور بربریت کا ہاتھ

تمہاری قوم کی بیٹیوں کی عصمت اور ناموس کے دامن کو تار تار

کرتا رہا لیکن تم سوئے رہے۔ تمہاری غیرت کو جوش نہ آیا۔
ان کے ہونٹوں سے فریاد نکلتی رہی، ان کی آنکھوں سے لکڑی
بہتے رہے لیکن تم ٹس سے مس نہ ہوئے۔ تم مسرت کے
نغموں سے دل بہلاتے رہے۔

ابو الحسن اپنے اسلاف کی کوتاہیوں کی تلافی کرنے
کے لئے اٹھا لیکن رباب کی ٹیٹھی تانوں میں سونے والوں
کو تلوار کی جھنکار ناگوار محسوس ہوئی اور تم نے اس مردِ مجاہد
کے ہاتھ باندھ دئے۔

تم اس وقت بیدار ہوئے جب سیلاب تمہارے گھڑوں
کے دروازوں تک پہنچ چکا تھا۔ تمہارے کمرانے پہلی بار
یہ محسوس کیا کہ عوام کی جھونپڑیوں کے علاوہ ان کے محل
بھی خطرے میں ہیں۔ میں اُسے بھی خدا کی رحمت سمجھتا ہوں
لیکن یاد رکھو! تمہاری یہ فتح منزل کی طرف پہلا قدم ہے۔
منزل ابھی دور ہے۔ تمہارے راستے میں ابھی سینکڑوں
ایسی خندقیں ہیں جنہیں تم کو اپنی لاشوں سے پاٹنا ہے۔ تم
نے اپنی زندگی کے تاریک اُفق پر ابھی ہلکی سی روشنی دیکھی
ہے۔ اگر تم جاگتے رہے تو صبح دُور نہیں لیکن خدا نخواستہ اگر
تم پھر سو گئے تو تمہاری سیرت ڈوبتے ہوئے سورج کی آخری
روشنی ہوگی۔

میں دشمن سے مرعوب نہیں لیکن تمہیں اس کے متعلق
غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے وسائل لا محدود ہیں۔

اس کی افواج کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ فرانس،
 روم اور یورپ کے دوسرے عیسائی ممالک اُس کی پشت
 پر ہیں۔ وہ ہمیں مٹانے کے لئے ایک جھنڈے تلے جمع
 ہو گئے ہیں اور اس کے برعکس المیر یا اور مالقہ چھن جانے
 کے بعد ہم باقی اسلامی ممالک سے کٹ چکے ہیں دشمن نے
 ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ لیکن ان سب باس
 کے باوجود اگر مجھے اس بات کا اطمینان ہو کہ تم اب اپنی گزشتہ
 غلطیوں کا اعادہ نہیں کرو گے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا
 ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی اور
 اگر تم نے اپنے ماضی سے سبق نہ سیکھا۔ اگر تم دشمن کی متحدہ
 طاقت کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک ہو جانے کی بجائے ان
 منافقین کے اشاروں پر چل کر آپس میں لڑتے رہے جو
 تم میں نسلی منافرت پھیلاتے ہیں تو یاد رکھو! جس طرح
 باقی اندس میں تمہارے بھائی اپنے بزرگوں کی غلطیوں
 کی سزا بھگت رہے ہیں اسی طرح غرناطہ میں تمہاری
 آنے والی نسلیں تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گی۔
 دشمن کی چالوں سے خبردار رہو اور دشمن سے زیادہ
 اپنے غداروں سے خبردار رہو۔ اس میں شک نہیں کہ
 اس لڑائی میں ان میں سے اکثر نے تمہارا ساتھ دیا ہے
 اور بعض کے دامن کی سیاہی ان کے خون سے دھل چکی ہے
 لیکن یہ ممکن ہے کہ مشکل کے وقت یہ لوگ پھر ایک بار تمہیں

دھوکا دے جائیں۔ ان لوگوں پر کڑی نگرانی رکھو اور انہیں اپنی غلطیوں کو دہرانے کا موقع نہ دو۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تمہاری قوتِ محاسبہ بیدار ہو اور تمہارے قومی کردار میں غداروں اور ملت فروشوں کے لئے رحم کی کوئی گنجائش نہ ہو۔

یہ پہلی جنگ ہے جس میں ابو عبد اللہ نے شاید خلوص دل سے قوم کا ساتھ دیا ہے اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی قوم کا ساتھ دیتا رہے لیکن تم اُسے یقین دلاؤ کہ وہ آئندہ قوم کو دھوکا دینے میں کامیاب نہیں ہوگا۔

دشمن اس شکست کے بعد خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ایک بہت بڑی قوت کے ساتھ دوبارہ حملہ کرے گا اور تمہیں آج ہی اس کے مقابلے کی تیاری شروع کر دینی چاہئے یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ قدرت نے تمہیں موسیٰ جیسا راہنما دیا ہے۔

مجھے بہت جلد واپس پہنچنا ہے۔ ممکن ہے کہ دشمن ہمارے علاقے کا رخ کرے لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب میری ضرورت ہوگی تم مجھے اپنے پاس موجود پاؤ گے۔ بدر بن مغیرہ کے بعد موسیٰ نے اٹھ کر تقویٰ کی :-

مسلمانو! آج سے چار سو سال قبل جب نصرانیوں نے ہمارے اندرونی انتشار سے فائدہ اٹھا کر ہماری سلطنت کے

بیشتر حصے ہم سے چھین لئے تھے تو قدرت نے یوسف
 بن تاشفین کو ہماری مدد کے لئے بھیجا تھا اور اس مرد مجاہد
 نے مسلمانوں کو ایک ایسے دشمن سے نجات دلائی تھی جس
 نے ان پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا اور جب آج ہماری
 قوم کے غدار دشمن کے لئے ہمارے گھروں کے دروازے
 کھول چکے تھے، جب منافقین کا گروہ ذلت کے چند کڑیوں
 کے عوض ہمیں فرٹھینڈ کی غلامی کی بیڑیاں پہنا چکا تھا، بد
 بن مغیرہ ہمارے لئے فرشتہ رحمت بن کر آیا۔

کل کا آفتاب تمہارے چہروں پر مایوسی کی گھٹائیں دیکھ
 رہا تھا اور آج کا آفتاب تمہارے ہونٹوں پر مسرت کی
 مسکراہٹیں دیکھ رہا ہے۔ سرحد کے مجاہدین نے تمہیں
 ایک بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان
 کی طاقت کا راز اس کی تعداد میں نہیں اُس کے ایمان
 میں ہے۔

تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ مسلمانوں
 نے اگر کبھی شکست کھائی ہے تو اپنیوں کی غداری کے باعث
 دشمن کی طاقت سے نہیں۔ ہماری آج کی فتح اس بات
 کا ثبوت ہے کہ ہم اس گئی گزری حالت میں بھی دشمن کی
 بڑی سے بڑی قوت کو کچل سکتے ہیں۔ ہم نے آج تک جو
 کچھ کھویا ہے اپنی غلطیوں کے سبب کھویا ہے۔ تم نے غداروں
 کا کہنا مانا، تم نے منافقین کا ساتھ دیا۔ تم نے خدا کا امر چھوڑ کر فریغیڈ
 کا سہارا لیا۔

اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بسطہ، المیر یا اور مالقہ
 میں تمہارے اعمال کی سزا تمہارے بچوں، بوجھوں اور
 عورتوں کو مل رہی ہے۔ تم اس وقت میدان میں آئے
 جب تم نے یہ دیکھا کہ اب لڑنے کے سوا کوئی چارہ باقی
 نہیں رہا۔ تمہیں آگ بجھانے کی فکر اس وقت ہوئی جب
 تمہارے گھر قریباً جل چکے تھے۔

میں اس خوشی کے موقع پر ماضی کی تلخیوں کو دہرانا
 نہیں چاہتا۔ لیکن یاد رکھو کہ ہم نے ایک لڑائی جیتی ہے
 لیکن ابھی جنگ باقی ہے۔ ایک طویل اور صبر آزما جنگ
 جس سے عہدہ برا ہوئے بغیر ہم اس ملک میں چین کا
 سانس نہیں لے سکتے اور اس جنگ میں آخری فتح
 حاصل کرنے کے لئے ہمیں اپنی ان تمام بیماریوں کا علاج
 کرنا پڑے گا جن کے باعث ابو الحسن علیؑ کی شاندار
 فتوحات شکستوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ہمیں قوم کے ان
 غداروں سے نجات حاصل کرنا پڑے گی جو ہماری عزت
 اور آزادی چند کوطریوں کے عوض دشمن کے ہاتھ فروخت
 کر چکے تھے۔ ہمیں غرناطہ کو ان بُزدلوں اور شکست خوردہ
 ذہنیت کے آدمیوں کے وجود سے پاک کرنا پڑے گا
 جن پر دشمن کی قوت کا رعب چھایا ہوا ہے۔ ہمیں ان
 شریکوں سے باخبر رہنا چاہیے جو غرناطہ میں ہسپانوی
 بربری اور عربی کی نزاع پیدا کرنا چاہتے ہیں۔

میں جانتا ہوں کہ الحرام ابھی تک منافقین کے وجود سے پاک نہیں ہوا اور تم میں سے بعض شاید یہ بھی سمجھتے ہوں کہ ابو عبد اللہ کے ناراض ہو جانے کے خوف سے میں قوم کے ان مجرموں پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا جو ابھی تک فرڈنٹ کے آلہ کار ہیں۔ لیکن میں آپ کو یقین دلانا ہوں کہ اگر مجھے ابو عبد اللہ کی نیت پر بھی شک ہوا تو میں اس کا دامن پکڑ کر تمہارے سامنے لے آؤں گا اور تم سے یہ کہوں گا کہ اس نے توبہ کے بعد بھی قوم کو دھوکا دیا ہے اب اس پر رحم کرنا گناہ ہے۔ ابو عبد اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ قوم کے کسی غدار کی سفارش نہیں کرے گا میں تمہارے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں ہر اس معاملہ میں جس کا غرناطہ کی حفاظت کے ساتھ تعلق ہو ابو عبد اللہ کی مداخلت برداشت نہیں کروں گا اور مجھے تم سے یہ امید ہے کہ اگر خدا نخواستہ مجھ سے بھی کسی قومی گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو تم مجھے معاف نہیں کرو گے۔“

غرناطہ کے ایک بوڑھے سردار نے اٹھ کر کہا۔ ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے سرحدی بھائی غرناطہ سے ہو کر جائیں۔ لوگ بدر بن معیرہ کو دیکھنے کے لئے بے تاب ہوں گے۔ موسیٰ نے بدر بن معیرہ کی طرف دیکھا لیکن اس نے سر ہلا دیا۔ موسیٰ نے بوڑھے سردار سے مخاطب ہو کر کہا۔ ”تھوڑی دیر پہلے میری بھی یہی خواہش تھی کہ میں اپنے محسن کو کم از کم ایک دن کے لئے غرناطہ لے جاؤں لیکن بدر بن معیرہ سے تبادلہ خیالات کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ہمیں خود بھی ابھی غرناطہ نہیں جانا چاہیے۔ ہم اپنی پیش قدمی جاری رکھیں گے۔“

اہلِ غزناطہ کی بجائے ان شہروں کے لوگ زیادہ بے وقار اور بے وقاری سے ہماری راہ دیکھ رہے
 ہیں جن پر ابھی تک ہمارے دشمن کا قبضہ ہے ۴

لوشہ کا نیا حاکم

(۱)

لوشہ کا گورنر ابوداؤد اپنے محل کے ایک کمرے میں بیٹھا سرکاری کاغذات دیکھ رہا تھا اس کا دربان کمرے میں داخل ہوا اور کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ جب چند منٹ تک ابوداؤد اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تو دربان نے جھجکتے ہوئے کہا: "ملاقات کے کمرے میں جان مائیکل آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر حکم ہو تو انہیں یہاں لے آؤں۔"

"جان مائیکل! ابوداؤد نے اٹھتے ہوئے کہا: "نہیں میں وہیں لوں گا۔ انہیں آتے زیادہ

دیر تو نہیں ہوتی۔"

"وہ ابھی آئے ہیں۔"

ابوداؤد باہر نکل کر چند قدم برآمدے میں چلنے کے بعد ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوا۔ ایک لڑھیٹر عمر سکین قوی ہیکل آدمی اُسے دیکھ کر کرسی سے اٹھا اور ابوداؤد اس کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد اُس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔

ابوداؤد نے جان مائیکل کی طرف غور سے دیکھنے کے بعد کہا: "اگر میں غلطی پر نہیں تو

آپ محاذ پر تھے۔“

جان مائیکل نے جواب دیا: ”ہاں لیکن اب میں قسطلہ سے آ رہا ہوں۔ مجھے بادشاہ سلامت

نے بعض امور کے متعلق مشورہ کرنے کے لئے وہاں بلا لیا تھا۔“

”تو لوشہ میں میرے قائم مقام آپ ہوں ہونگے۔“

جان مائیکل نے ایک مراسلہ ابو داؤد کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا: ”یہ بادشاہ سلامت

کا فرمان ہے۔ میں حکم کی تعمیل میں یہاں آ گیا ہوں ورنہ ایسے نازک وقت میں ایک سپاہی کا

میدان جنگ سے دُور رہنا اس کے لئے بہت تکلیف دہ ہے۔“

ابو داؤد نے مراسلہ کھول کر اس پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد کہا: ”میں خوش ہوں کہ

نہوں نے آپ جیسے تجربہ کار آدمی کو یہاں بھیجا ہے۔ میں کل ہی قسطلہ روانہ ہو جاؤں گا۔“

”لیکن مجھے آپ سے بہت سی ہدایات لینا تھیں۔“

ابو داؤد نے کہا: ”میری پہلی اور آخری ہدایت یہ ہے کہ لوشہ کو ہر قیمت پر دشمن

سے بچایا جائے۔“

”اس کے لئے آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ کل تک یہاں پانچ ہزار مزید سپاہی

بھیج جائیں گے۔“

اس کے بعد میں صرف یہ کہوں گا کہ دشمن کی تازہ فتوحات نے مقامی مسلمانوں میں کسی حد

کا جوش پیدا کر دیا ہے۔ میں نے خطرناک آدمی گرفتار کر لئے ہیں۔ اب بغاوت کا کوئی

شہ نہیں۔ مسلمانوں کا جوش ٹھنڈا کرنے کے لئے ان کے اکابر کا ایک گروہ کام کر

رہا ہے۔ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے راستے میں مالی مشکلات حائل نہ

ہونے دیں۔ میں جانے سے پہلے آپ سے ان لوگوں کی ملاقات کرادوں گا۔“

جان مائیکل نے کہا: ”آپ کتنا عرصہ باہر رہیں گے۔“

”یہ حالات پر منحصر ہے۔ اگر میرے جانے تک تمام علماء جنہیں قسطلہ پہنچنے کی دعوت

دی جا چکی ہے وہاں پہنچ گئے تو میں جلدی آجاؤں گا۔ ورنہ مجھے شاید دیر لگ جائے۔“
 ”میرے خیال میں قرطبہ، اشبیلیہ اور دوسرے شہروں سے پانچ سو کے قریب علما وہاں
 پہنچ گئے ہیں۔“

”تو قسطلہ میں میرا کام جلد ختم ہو جائے گا لیکن اس کے بعد مجھے دوسرے شہروں میں
 جانا پڑے گا۔ اچھا یہ بتائیے اب جنگ کی کیا حالت ہے؟“

”جنگ کی حالت روز بروز مخدوش ہوتی جا رہی ہے۔ اہل غرناطہ ہم سے بہت ساعلا
 واپس لے چکے ہیں۔ غرناطہ کی شکست کے بعد ہم کہیں بھی پاؤں جاکر نہیں لڑ سکے۔“

ابوداؤد نے کہا: ”یہ ڈوبتے ہوئے سورج کی آخری جھلک ہے۔“

”لیکن اہل غرناطہ اُسے طلوع آفتاب کی ابتدائی روشنی خیال کرتے ہیں۔ ایک افواہ سے

ہماری افواج بہت پریشان ہیں۔“

”وہ کیا؟“

”لوگوں کا خیال ہے کہ سرحدی عقاب کوئی نیا آدمی نہیں بلکہ وہی بدر بن مغیرہ ہے۔ ہماری
 فوج کے بعض قیدیوں نے جو فرار ہو کر آئے ہیں اس بات کی تصدیق کی ہے۔ بادشاہ سلامت
 کا بھی یہی خیال ہے۔ ممکن ہے ابو عبد اللہ نے اُسے قتل نہ کیا ہو۔“

ابوداؤد نے کہا: ”اگر ابو عبد اللہ یہ قوف نہ ہوتا تو یہ ممکن تھا۔“

”کچھ عرصہ پہلے ابو عبد اللہ کے متعلق میری بھی یہ رائے تھی کہ وہ ایک مخبوط الحواس آدمی

ہے لیکن اس کی تازہ فتوحات نے مجھے اپنی رائے بدلنے پر مجبور کر دیا ہے۔“

ابوداؤد نے کہا: ”میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس کے ہاتھوں غرناطہ کی تباہی مقدر ہو

چکی ہے۔ جنون کی مختلف کیفیتیں ہیں۔ کبھی اس کے جنون کی یہ کیفیت تھی کہ اس نے

اپنے باپ دادا چچا کے خلاف بغاوت کر کے ہمارے لئے غرناطہ کی چار دیواری تک کا راستہ

صاف کر دیا تھا۔ اب اُس کے جنون کی کیفیت میں ایک تبدیلی آئی ہے۔ کچھ عرصہ تک یہ

کیفیت بھی جاتی رہے گی۔ آپ چند ماہ تک غرناطہ کے متعلق عجیب و غریب خبریں سنیں گے۔
جان مائیکل نے کہا: "بادشاہ سلامت چند ہفتوں تک غرناطہ پر اپنی پوری قوت سے
حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر آپ کی تدبیر کامیاب ہوئی تو غرناطہ کا
محاصرہ زیادہ طویل نہیں کھینچے گا۔ میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے کیا تدبیر سوچی ہے۔ کیا
آپ غرناطہ میں اندلس کے علماء کا کوئی وفد بھیجنا چاہتے ہیں؟ ابو عبد اللہ کے ساتھ مصالحت
کی بات چیت کا تو کوئی ارادہ نہیں؟"

"میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ الحمر، پر شہنشاہ فرڈیننڈ کی فتح کا پرچم لہرانا
میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس سے قبل ہم بہت سی غلطیاں کر چکے ہیں اب
کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ آندھی صرف ان دیواروں کو گراتی ہے جن کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی
ہوں۔ غرناطہ کے لئے جو موسم میں تیار کر چکا ہوں اس کی کامیابی کے بعد اہل غرناطہ کی قوت
مدافعت اس قدر کمزور ہو جائے گی کہ آپ کی فوج کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
تاہم ابھی آپ مجھ سے تفصیلات نہ پوچھیں تو بہتر رہے گا۔ اب میرا سب سے پہلا کام
یہ ہے کہ آپ کے قیام کا بندوبست کیا جائے اور آپ کو ان لوگوں کے ساتھ متعارف کیا
جائے جو میری غیر حاضری میں آپ کو
مفید مشورے دے سکیں گے۔ محل کا ایک حصہ بالکل خالی پڑا ہے۔ میرے بال بچے
یہیں رہیں گے۔ تاہم اگر آپ کو ضرورت ہو تو چپ ڈاؤن کر کے بھی حنائی کئے جا
سکتے ہیں۔

جان مائیکل نے کہا: "میں ایک سپاہی ہوں۔ اس کے علاوہ میں اکیلا ہوں میری ضروریات
بہت مختصر ہیں۔ ایک مختصر سا مکان میری ضروریات کے لئے کافی ہوگا۔ میں آپ کے بچوں کو
تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھتا۔"

ابو داؤد نے کہا: "محل کا باہیاں حصہ بالکل خالی ہے۔ آج دیکھ لیجئے میرے خانا ہو،

وہ آپ کے لئے کافی ہو گا؟

(۲)

رات کے وقت جان مائیکل نے ابو داؤد کے ہاں کھانا کھایا۔ اس دعوت میں شہر کے چند امرا کے علاوہ اونچے طبقہ کی خواتین بھی شریک ہوئیں۔ ربیعہ علالت کا بہانہ کر کے غیر حاضر رہی۔ اینجلا نے بھی سر درد کا بہانہ کیا لیکن ماں کے سامنے اس کی پیشکش نہ گئی۔ غرناطہ چھوڑنے کے بعد اینجلا کے مزاج میں بہت تبدیلی آچکی تھی۔ ربیعہ کی طرح وہ بھی کسی مجلس میں شریک ہونا پسند نہ کرتی۔ یہ سوتیلی بہنیں ایک دوسرے کی رازدار اور غم خوار تھیں۔ انہیں تنہائی میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے کے لئے موقع کی تلاش رہتی۔ میریا کو یہ احساس تھا کہ اس کی بیٹی ربیعہ کی عادات اور خیالات سے بہت متاثر ہے۔ اُسے یہ شکایت تھی کہ اینجلا اتوار کے دن بھی عبادت کے لئے گرجے میں جانے کی بجائے گھر پر ربیعہ کے پاس رہنا زیادہ پسند کرتی ہے۔ ربیعہ کی طرح وہ کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتی۔ جب میریا کو زیادہ غصہ آتا تو وہ ربیعہ کو جی بھر کر کوستی اور اینجلا کو اُس سے دُور رہنے کی تاکید کرتی لیکن اینجلا ماما کی مکروریوں سے واقف تھی۔ وہ علالت کا بہانہ کرنے لپٹ جاتی اور کھانے پینے سے انکار کر دیتی۔ میریا اُسے منانے کی ناکام کوشش کے بعد چلا اٹھتی۔ ”ربیعہ! ربیعہ!! میں جانتی ہوں جب تک تم نہ کہو گی وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ تم نے اُس پر جادو کر دیا ہے۔ وہ کھائے بغیر سو جائے گی۔ وہ پہلے ہی سوکھ کر کانسٹا ہو چکی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ میں اُس کی دشمن ہوں۔ ربیعہ! آخر میں نے کیا کہا تمہیں؟ کیا سوتیلی ماں کو اتنا بھی حق نہیں؟“

میریا ہارمان کر اپنے کمرے میں چلی جاتی اور تھوڑی دیر بعد خادمہ اُسے آکر بتاتی کہ وہ دونوں

کھانا کھا رہی ہیں۔

اس قسم کے واقعات کے بعد چند دن خیریت سے گزر جاتے۔ بارہا میریا نے دروازوں کی

اڑ میں کھڑی ہو کر ربیعہ اور اینجلا کی کاناکھڑی سننے کی کوشش کی لیکن اینجلا اپنی سوتیلی بہن سے عربی بولنا سیکھ چکی تھی اور یہ وہ زبان تھی جسے اندلس کی عیسائی حکومت خلاف قانون قرار دے چکی تھی۔ وہ ابوداؤد سے شکایت کرتی لیکن وہ اُسے یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ اینجلا عربی زبان سیکھنے کے بعد سلطنت کی نہایت اہم خدمات سرانجام دے سکے گی۔ اگر کوئی نازک وقت آیا تو ہمیں دشمن کی صفوں میں انتشار ڈالنے کے لئے ایسی لڑکیوں سے کام لینا پڑے گا۔“

آج جب میری انے اینجلا کو دعوت میں شریک ہونے کے لئے کہا تو وہ کوئی جواب دینے بغیر ربیعہ کے پاس گئی اور اُس سے کہنے لگی۔ ربیعہ! میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ اُن کی باتیں میرے لئے ناقابل برداشت ہوں گی۔“

ربیعہ نے کہا۔ اینجلا! یہ ایک مجبوری ہے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم ہر کام اپنی مرضی سے کر سکیں۔ تم وہاں جاؤ شاید اُن کے متعلق کوئی نئی بات معلوم ہو جائے۔“

جب اینجلا ربیعہ کے کمرے سے باہر نکلی تو میری یادرواڑے پر کھڑی تھی۔ اس نے کہا۔
 ”اینجلا خدا کے لئے مجھے پریشان نہ کرو جان مائیکل بہت بڑا آدمی ہے۔ ہسپانیہ کی معزز ترین خواتین اس کے ساتھ بات کرنا اپنے لئے باعثِ فخر سمجھتی ہیں۔ تم اب جوان ہو مجھے تمہارے مستقبل کی فکر ہے۔ ایسا موقع بار بار ہاتھ نہیں آتا۔ جان مائیکل کی بیوی مرچکی ہے۔ تم آج دیکھو گی کہ لوشہ کی خواتین اُسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے کس قدر بے قرار ہیں۔“

اینجلا نے برہم ہو کر کہا۔ امی جان! اگر آپ ایسی باتیں کریں گی تو میں ہرگز اس کے سامنے نہیں جاؤں گی۔“

میری انے پُر امید ہو کر کہا۔ اینجلا! تم سمجھ دار ہو۔ میں تمہیں کسی فیصلے پر مجبور نہیں کروں گی۔ لیکن ایک مہمان کی عزت افزائی تمہارا فرض ہے۔ وہ بادشاہ کا نائٹ اور صلیب کا محافظ ہے۔“
 ”امی جان میں آپ کے حکم کی تعمیل میں وہاں جاؤں گی ورنہ مجھے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے ان وحشیوں سے نفرت ہے جن کے دامن معصوم لڑکیوں کی عصمت کے خون

سے داغدار ہیں۔“

”تمہیں ربیعہ نے اپنے مذہب سے بدظن کر دیا ہے۔“

اینجلا نے جواب دیا: ”اگر کوئی مذہب معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اُتارنے بے گناہوں کو قتل کرنے اور سرِ بازادہ عورتوں کی بے حرمتی کی اجازت دیتا ہے تو مجھے ایسے مذہب کے نام سے بھی نفرت ہے۔“

میریانے قدرے نادم ہو کر کہا: ”اینجلا! جان مائیکل تمہارے باپ کی غیر حاضری میں اس شہر کا گورنر ہوگا۔ میرے خیال میں ہم اُس کے ساتھ مانوس ہو کر اُسے زیادہ متاثر کر سکتی ہیں۔ اب تم تیاری کرو۔ مہمان آنے والے ہیں۔“

(۳)

کھانا کھانے کے بعد جب مہمان رخصت ہو رہے تھے اینجلا آنکھ پچا کر مکر سے نکلی۔ اور تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی ربیعہ کے مکرے میں داخل ہوئی۔ اُس نے دروازہ بند کر کے سہمی ہوئی آواز میں کہا: ”ربیعہ! میں اس سے ڈرتی ہوں۔ وہ بھوکے بھیڑنے کی طرح میری طرف دیکھ لیا تھا مجھے اپنی مرضی کے خلاف اُس کے قریب بیٹھنا پڑا۔ وہ شراب میں غرق تھا اور اب وہ اسی محل میں رہے گا۔ ربیعہ! ربیعہ! میں ڈرتی ہوں۔ وہ کہتا تھا کہ غرناطہ کی فوج یہاں سے تیس میل کے فاصلہ پر ایک قلعے پر قبضہ کر چکی ہے کاش! ہم وہاں جا سکتیں۔“

ربیعہ نے اُسے تسلی دیتے ہوئے کہا: ”اینجلا! خدا کو بیماری بے بسی کا علم ہے۔ وہ ہماری مدد کرے گا۔“

کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اینجلا نے بدحواس ہو کر دروازہ کھولا۔ میریانے جلدی سے اندر داخل ہو کر کہا: ”اینجلا! ہمیں شرمسار نہ کرو۔ تمہیں جہانوں کو رخصت کرنے سے پہلے تمہیں جہان چاہئے تھا۔ مجھے یہ بہانہ کرنا پڑا کہ تم دردِ سر کی وجہ سے وہاں نہیں ٹھہر سکتیں باقی مہمان چلے گئے۔“

ہیں، لیکن جان مائیکل تمہاری تیمارداری کرنے پر مُصر ہے۔ اب خدا کے لئے اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں اُسے وہاں لاتی ہوں۔“

اینجلا نے جواب دیا۔ ”وہ شراب سے مدہوش ہے۔ میں اُس سے نہیں بلوں گی۔“

”وہ اُسے اپنی بے عزتی خیال کرے گا۔“

”لیکن مجھے اپنی عزت زیادہ عزیز ہے۔“

کچھ دیر ماں اور بیٹی کی بحث جاری رہی۔ اتنے میں ابو داؤد کمرے میں داخل ہوا۔ میری ماں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا۔ ”اینجلا، ربیعہ کے سوا کسی کا کہا نہیں مانے گی۔“

ابو داؤد میری طرف توجہ دے کر بغیر کسی پر بیٹھ گیا۔ میری ماں نے پھر کہا۔ ”اینجلا اپنے کمرے میں جانے کے تیار نہیں۔ وہ یہ سمجھے گا کہ اُس نے جان بوجھ کر اُس کی توہین کی ہے۔“ ابو داؤد نے مغموم لہجے میں کہا۔ ”ایک شرابی کو اس قدر ذکی اُلحس نہیں ہونا چاہیے۔ میں اُسے اس کے کمرے میں چھوڑ آیا ہوں۔ میرا شاید میں نے اسے اس محل میں ٹھہرنے کی اجازت دے کر غلطی کی ہے۔ کاش! میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاسکتا۔ وہ میری غیر حاضری میں تمہارے ساتھ کسی بدسلوکی کی جرات نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی تم لڑکیوں کو اس کی نگاہوں سے ڈور رکھو۔ نشے کی حالت میں مجھے وہ اس آدمی سے مختلف نظر آتا ہے جس کو میں اپنے مکان کے ایک حصے میں ٹھہرنے کی اجازت دے چکا ہوں۔“

میری ماں نے کہا۔ ”میں شہنشاہ فرڈیننڈ کے ناٹ کو اس قدر ذلیل نہیں سمجھتی کہ وہ۔۔۔“

ابو داؤد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ”تاہم محتاط رہنے میں کیا نقصان

ہے۔“

میری ماں نے لاجواب سی ہو کر کہا۔ ”آپ جانتے ہیں کہ اینجلا ربیعہ کی اجازت کے بغیر کسی

سے بات تک نہیں کرتی اور ربیعہ کسی عیسائی کے ساتھ خواہ وہ فرشتہ ہی کیوں نہ ہو اینجلا

کو ملنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اس لئے آپ کا مجھ سے کوئی بات کہنا بے سود ہے۔ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ربیعہ سے کہیں :-

ربیعہ نے کہا :- "امی! میں اباجان کے کسے بغیر بھی اپنا فرض پورا کروں گی۔"

"تو تمہارے خیال میں میں اینجلا کی دشمن ہوں۔"

"میں نے یہ نہیں کہا۔"

"تم اینجلا کو اُس کے ہم مذہبوں سے دُور رکھنا چاہتی ہو۔"

"میں اُسے بُری نگاہوں سے دُور رکھنا چاہتی ہوں۔ اینجلا میری بہن ہے۔"

"تم نے اُس پر جادو کر رکھا ہے۔ تم اُسے اپنے مذہب کی تعلیم دیتی ہو۔ تم نے اُسے

عربی میں باتیں کرنا سکھایا ہے۔ تم نے میری بھولی بھالی لڑکی کے دل میں میرے خلاف نفرت

کایج بویا ہے۔ تم میری دشمن ہو۔ تم۔۔۔۔۔"

اینجلا نے چلا کر کہا :- "امی! خدا کے لئے ایسی باتیں نہ کرو۔ اگر تمہاری باتوں سے ربیعہ کو

میری ساتھ نفرت ہو گئی تو میں زندہ نہیں رہوں گی۔ میں اس محل کے سب سے اُوپے بُرج

پر چڑھ کر پھلانگ لگا دوں گی۔"

اینجلا ماما کی دُکھتی ہوئی رگ کو چھیڑ چکی تھی۔ میرا نے مرعوب ہو کر اپنی بیٹی کی دیکھا۔

وہ رو رہی تھی۔ بیٹی کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسوؤں نے میرا کے ہونٹ سی دئے اور

وہ کوئی بات کہے بغیر ماہر نکل گئی۔

ابو داؤد نے اُٹھتے ہوئے کہا :- "ربیعہ! میں اینجلا کو تمہیں سونپ کر جا رہا ہوں میرا کیا

باتوں سے متاثر نہ ہونا۔"

(۴)

قسطہ کے شاہی محل کے ایک وسیع کمرے میں اُنڈس کے وہ اکابر اور علمائے دین

جمع تھے جو ابوداؤد کی دعوت پر دُور دراز کے شہروں سے آئے تھے۔ اجلاس سے قبل ابوداؤد ان میں سے اکثر کے ساتھ علیحدہ علیحدہ مل چکا تھا۔ ابوداؤد نے اس اجتماع کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا:

”زرگانِ دین! آج آپ کو جن مسائل پر غور کرنے کے لئے بلایا گیا ہے، وہ اسپین میں مسلمانوں کے مستقبل سے تعلق رکھتے ہیں۔ غرناطہ کی چپہ بھر زمین اور تھوڑے سے پہاڑی علاقوں کے سوا باقی تمام اندلس کے مسلمان شہنشاہ فرڈیننڈ کی رعایا بن چکے ہیں اور جب تک غرناطہ کے ساتھ ہماری جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اندلس کے مسلمان اپنے عادل اور رحمدل بادشاہ کے سائے میں آرام کے دن گزار رہے تھے۔ حکمران قوم کی اکثریت ہم پر مہربان تھی لیکن اب آپ کو شکایت ہے کہ عیسائی حکومت آپ کے ساتھ پہلی سی فیاضی کے ساتھ پیش نہیں آتی۔ آپ میں سے بعض یہ سمجھتے ہیں کہ اندلس کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہے مسلمانوں کو غرناطہ کے جاسوس ہونے کے جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ عیسائی اپنی حکومت کے ساتھ ان کی وفاداری پر شبہ کرتے ہیں۔ یہ واقعات بہت افسوسناک ہیں لیکن اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ کچھ کوتاہی ہم سے بھی ہوئی ہے۔ عوام ہمیشہ کوتاہ نظر ہوتے ہیں لیکن ہماری سب سے بڑی بد قسمتی یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے علمائے بھی وقت کے سیلاب کا رخ نہیں پہچانا۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ غرناطہ اور قسطلہ کی جنگ چھوٹی اور ہاتھی کا مقابلہ ہے۔ اہل غرناطہ جس راستے پر گامزن ہوئے ہیں وہ صرف تباہی کا راستہ ہے۔ وہ چند ہفتوں یا چند مہینوں کے لئے اپنی تباہی کی تاریخ ملتوی کر سکتے ہیں وہ اپنی تقدیر نہیں بدل سکتے۔“

اگر یہ مسئلہ صرف غرناطہ اور قسطلہ کی افواج تک محدود ہوتا تو ہم اس قدر پریشان نہ ہوتے اور میں آپ کو یہاں آنے کی تکلیف نہ دیتا لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس جنگ کا ہمارے حال اور مستقبل کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اندلس کے لاکھوں مسلمان عیسائیوں کی

اکثریت اور ان کی حکومت کے رحم و کرم پر ہیں۔ قسطلہ اور غرناطہ کی جنگ اب اسلام اور عیسائیت کی جنگ بن چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اندلس کے مسلمان عیسائیوں سے کسی اچھے سلوک کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ غرناطہ کی لڑائیوں میں اندلس کے جو عیسائی مارے جاتے ہیں ان کے عزیز ہم سے ان کا انتقام لیتے ہیں اور یہ جنگ جس قدر طول پکڑے گی اسی قدر ہمارے خلاف عیسائیوں کا جذبہ انتقام شدید ہوتا جائے گا۔ مجھے اہل غرناطہ کے متعلق کوئی پریشانی نہیں۔ انہوں نے ایک طاقتور ہمسائے کے ساتھ جنگ مول لینے کی حماقت کی ہے اور انہیں اس کی سزا ملے گی لیکن ہم اندلس میں لاکھوں مسلمانوں کے مستقبل سے بے اعتنائی نہیں برت سکتے۔ ہمارے بچاؤ کی اب صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ غرناطہ کی جنگ جلد ختم ہو جائے۔ جب تک یہ جنگ جاری رہے گی اندلس کی حکومت کو ہماری وفاداری پر شک رہے گا اور ہمارے ساتھ ان کا سلوک بد سے بدتر ہوتا جائے گا۔

”آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ اندلس کے علمائے اسلام اور بزرگان قوم اس جنگ کو ختم کرنے کے لئے کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن پیشتر اس کے کہ میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کیا آپ اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ یہ جنگ جلد ختم ہو جائے؟“

ایک شخص نے جواب دیا: ”اندلس کا ہر مسلمان اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔“
دوسرے نے اٹھ کر کہا: ”ہم سب آپ کے ساتھ متفق ہیں۔“

ابوداؤد کو ان لوگوں سے اختلاف کی توقع بھی نہ تھی۔ یہ سب شاہی مہمان تھے اور ابوداؤد اجتماع سے پہلے فرداً فرداً انہیں یہ بتا چکا تھا کہ انہیں کس مقصد کے لئے یہاں بلایا گیا ہے۔ ان علماء کے ہر گروہ کے لیڈر نے یکے بعد دیگرے اٹھ کر ابوداؤد کے خیالات کی تائید کی اور اس سے مطمئن ہو کر اپنی تقریریں دوبارہ شروع کی۔

”حضرات! میں نے عیسائیوں کو مطمئن کرنے کے لئے گوشہ آوردہ سزے شہروں کے

مسلمانوں کو بادشاہ سلامت کی فوج میں رضا کارانہ طور پر شامل ہونے کی ترغیب دی تھی۔ گزشتہ
 حملے میں کوئی پانچ سو مسلمان نوجوانوں نے حکومت کی فوج کا ساتھ دیا لیکن بدقسمتی سے ان
 میں سے اکثر جذبات میں آکر غرناطہ کی فوج سے جا ملے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں پر
 عیسائیوں کا رہا سہا اعتماد بھی جاتا رہا اور مختلف شہروں میں جو افسوس ناک واقعات ہوئے،
 وہ اسی کا نتیجہ تھے۔

مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے ایسے کوتاہ اندیش لوگوں پر اعتماد کیا جو جذبات کی رو
 میں بہہ جانے والے تھے۔ اب میں آپ حضرات کو ایک بڑی مہم سونپ رہا ہوں۔ آپ کو اُنڈس
 کے مسلمان پناہ گزینوں کی حیثیت میں غرناطہ جانا پڑے گا۔ وہاں پہنچ کر آپ غرناطہ کے حکام
 اور اُن سے زیادہ وہاں کے عوام کو یہ سمجھائیں کہ جنگ ایک سچی لاج حاصل ہے۔ تمہاری غلطی کی
 سزا باقی اُنڈس کے مسلمانوں کو مل رہی ہے۔ ان پر عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہے۔ حضرات!
 اگر آپ نے اہل غرناطہ کو ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کر لیا تو آپ نہ صرف فرطہنڈ کی مملکت کی
 مسلم رعیت بلکہ اہل غرناطہ کو بھی عیسائیوں کے انتقام سے بچا سکیں گے اور یہ ایک بہت بڑا
 کام ہوگا۔

اس مہم کی تکمیل کے لئے آپ کو حکومت کی طرف سے تمام سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔
 آپ کو اس مہم کی باقی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے کل پھر اسی جگہ ہمارا اجتماع ہوگا اس
 اجلاس کو برخاست کرنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کو میری
 باتوں سے اتفاق نہ ہو تو اسے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا جائے۔“

حاضرین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک کونے سے قرطبہ کا ایک سفید ریش
 عالم اٹھا اور اس نے بلند آواز میں کہا:

”حضرات! میں آج ہی یہاں پہنچا ہوں۔ میں اپنے عیسائی مسکمران سے کچھ کہنے کا ارادہ
 لے کر آیا تھا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ میں شاید شاہ فرطہنڈ سے براہ راست میں ہو سکوں گا۔“

تاہم میں اس مجلس کے صدر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بادشاہ کے دار الحکومت میں اپنی آزادانہ رائے کے اظہار کا موقع دیا ہے۔ یہ سوچنا صدر مجلس کا کام تھا کہ یہ مقام ایک مسلمان کی آزادانہ رائے کے اظہار کے لئے موزوں ہے یا نہیں۔ بہر حال اس دعوت کے بعد انہوں نے مجھ پر ایک فرض عائد کر دیا ہے اور میں یہ فرض پورا کروں گا۔ میں اپنے جذبات کے اظہار کی بجائے علمائے اسلام کے اجتماعی احساسات کی ترجمانی کروں گا۔

حضرات! انڈس کے بیشتر حصے میں ہمارے اقتدار کا خاتمہ ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ اس کے بعد دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہماری قوم کا ایک بڑا حصہ ذلت کی زندگی پر مطمئن ہو گیا۔ لیکن یہ نقصانات ناقابل تلافی نہ تھے۔ اُمید مظلوموں، ناداروں اور بے کسوں کو زندہ رکھتی ہے جب ہماری محفل کے تمام چراغ بجھ گئے تو ہمیں غرناطہ میں ایک مشعل دکھانی دی۔ ایک طوفان مدت سے غرناطہ کی اس مشعل کو بجھانے کی فکر میں ہے اور کئی ناکام کوششوں کے بعد یہ طوفان اب ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس مشعل کو بجھا دیں۔ آج قوم کا جینازہ اٹھانے کے لئے ان علمائے دین کو منتخب کیا گیا ہے جو مردہ قوم کے کانوں میں صورِ ابرافیل پھونکا کرتے تھے۔

ابوداؤد باقیامت کے دن تم میرے گواہ ہو۔ یہ سب اکابر اور علماء جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے گواہ ہیں کہ میں نے اپنی تلم کمزور ہیں کے باوجود ان لوگوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا جو حق کی جنگ سے منہ پھیر کر باطل کی فتح کے انعامات میں سہتہ دار بنا چاہتے تھے۔

ابوداؤد! تم نے مجھے اپنی آزادانہ رائے کے اظہار کی دعوت دی ہے تو سنو! شاید قسطہ میں حق کی یہ آخری آواز ہو۔ جس دن غرناطہ پر عیسائیوں کی فتح کا پرچم لہرائے گا انڈس کے ہر مسلمان کے مکان پر موت کا پہرا ہوگا۔ تم کہتے ہو کہ غرناطہ کے لوگوں کی مدافعت جنگ کے باعث عیسائی ہم سے بدظن ہو گئے ہیں۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ جب فرنگیوں کی غرناطہ کے ساتھ جنگ نہ تھی اس وقت ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا۔ کیا اس وقت بے گناہوں

کو قتل نہیں کیا گیا؟ کیا اُس وقت ہماری بہو، بیٹیوں کی بے عزتی نہیں کی گئی۔ کیا غرناطہ کے ساتھ دوستی کے باوجود اُنڈلس کے عیسائی حکمرانوں نے لاکھوں مسلمانوں کو ملک بدر نہیں کیا؟ کیا انہیں زبردستی عیسائی نہیں بنایا گیا؟ کیا ہماری مساجد کو گرجوں میں تبدیل نہیں کیا گیا؟ کیا ہمارے لئے عربی زبان بولنا جرم قرار نہیں دیا گیا اور دنیا میں وہ کون سا ظلم تھا جو ہم پر روا نہ رکھا گیا۔

ابوداؤد! ہر قوم کی عزت کی محافظ اُس کی قوتِ مدافعت ہوا کرتی ہے۔ مجھے معلوم ہے جب ابوالحسن کی افواج بوشہ کا رخ کر رہی تھیں، ہمارے عیسائی حکمران نے یہ اعلان کیا تھا کہ اُنڈلس کے مسلمانوں کے ساتھ بُرا سلوک کرنے والے افسروں کو بدترین سزائیں دی جائیں گی۔ اس کے بعد جب ابو عبد اللہ نے غداری کی اور ہماری حکومت کی نظر میں غرناطہ کا خطرہ کم ہوا تو ہمیں بدترین سلوک کا مستحق سمجھا گیا۔

غرناطہ اُنڈلس کے مسلمانوں کا آخری حصار ہے۔ اگر یہ حصار ٹوٹ گیا تو یاد رکھئے اُنڈلس میں مسلمانوں کے زندگی کے دن موت سے زیادہ الم ناک ہوں گے۔

”صدرِ مجلس نے یہ کہا ہے کہ ”اب چونکہ غرناطہ کے مسلمانوں کی موت یقینی ہے اس لئے ہم دشمن کو خوش کرنے کے لئے اپنے ہاتھوں سے اُن کا گلا کیوں نہ گھونٹ ڈالیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہمارے ہاتھ ان کی شرگ تک پہنچیں گے ہماری اپنی شرگ خود بخود کٹ جائے گی۔“

سامعین کی طرف سے احتجاج کے نعرے بلند ہو رہے تھے لیکن اُن کی توقع کے خلاف ابوداؤد انتہائی اطمینان سے اُس کی تقریر سناتا رہا۔ تقریر کے دوران میں چند بار لوگوں نے شور مچانے کی کوشش کی لیکن ابوداؤد نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کر دیا جب بوڑھا عالم خاموش ہو گیا تو ابوداؤد نے اطمینان سے کہا: ”میرے بزرگ! آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟“

”نہیں۔“ اُس نے بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔

ابوداؤد نے کہا: ”حضرات! میں اُن کی صاف گوئی کی داد دیتا ہوں لیکن مجھے افسوس ہے کہ میری تقریر سے ان کے دل میں چند غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ میں اُن کے ساتھ ملگ بیٹھ کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ان کی تقریر کے بعد کسی اور بزرگ کے دل میں شکوک پیدا ہو گئے ہوں تو میں ان کے ساتھ بھی تبادلہ خیالات کرنے کے لئے تیار ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی ان خیالات کی تائید کرتا ہے تو مجھے بتادے۔“

اشبیلیہ کے چار علماء اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔

ابوداؤد نے کہا: ”اس مجلس میں سے صرف پانچ حضرات میرے ساتھ متفق نہیں مجھے امید ہے کہ ہم ایک آزادانہ بحث کے بعد کسی نتیجہ پر پہنچ جائیں گے۔ میں آپ کو شام کے بعد اپنے پاس بلا لوں گا۔ یہ جلسہ برخاست کرنے سے پہلے میں حاضرین سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ کسی سے اس جلسے کی کارروائی کا ذکر نہ کریں۔“

رات کے وقت ابوداؤد کا ایک خادم ان پانچ علماء کو اپنے ساتھ لے گیا اور اس کے بعد کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں گئے۔ اگلے دن اُن کے بعض ساتھیوں کا خیال تھا کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکے ہیں۔

قریباً دو ہفتوں میں تمام تہا علماء اور اکابر کا یہ گروہ ابوداؤد سے تربیت حاصل کرنے کے بعد غرناطہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے بعد ابوداؤد نے فرڈینیسیئنڈ سے ہر صوبہ کے گورنر کے نام احکام حاصل کر لئے اور نئے رضا کار بھرتی کرنے کی غرض سے دوسرے شہروں کا دورہ کرنے کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ ہر شہر میں اپنے ہم خیال لوگوں کی ایک جماعت بنانے کے بعد اس نے اشبیلیہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ دوسرے شہروں کے گورنر قابلِ اعتماد لوگوں کو بھرتی کر کے اس کے پاس بھیج دیتے اور وہ انہیں تربیت دینے کے بعد غرناطہ روانہ کر دیتا۔

عیسائیوں کے مظالم کی وجہ سے اُنڈلس کے مسلمان اپنے شہر اور بستیاں چھوڑ کر غرناطہ کا رخ کر رہے تھے۔ ابوداؤد کے جاسوس ان پناہ گزنیوں کے قافلوں میں شامل ہو جاتے اور کسی وقت کے بغیر غرناطہ جا پہنچتے۔ غرناطہ کی حکومت کے لئے پناہ گزنیوں کا مسئلہ بہت سی مشکلات پیدا کر رہا تھا لیکن عوام نے اپنے ایثار اور خلوص کے باعث حکومت کو پریشان نہ ہونے دیا۔ وہ پناہ گزنیوں کو اپنے گھروں میں جگہ دیتے اور اپنی روٹی کے ہر فوالے میں انہیں برابر کا حصہ دار سمجھتے۔ الپسرا کا تمام زرخیز علاقہ آزاد ہو چکا تھا اور وہاں مہاجرین کے بہت خاندان آباد ہو چکے تھے۔

غرناطہ اور گرد و نواح کی بستیوں میں قریباً دس لاکھ پناہ گزین آچکے تھے اور ان میں قریباً دو ہزار کے قریب وہ بااثر لوگ تھے جن کا پیر و مرشد اشبیلیہ سے انہیں ہدایات بھیج رہا تھا۔ یہ لوگ اہل غرناطہ کے سامنے اُنڈلس کے مسلمانوں کی زبوں حالی کے قصے بیان کر کے انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے اور پھر اُن کے ذہن میں اس قسم کے خیالات ٹھونسنے کی کوشش کرتے: "یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ افسوس افریقہ سے مسلمانوں کو کوئی مدد ملنے کی امید نہیں۔ عیسائی تعداد میں مسلمانوں سے کسی گنا زیادہ ہیں لیکن کاش ہمارا مقابلہ صرف اُنڈلس کے عیسائیوں کے ساتھ ہوتا۔ اب نہ صرف اہل ہسپانیہ بلکہ یورپ کے دوسرے عیسائی بھی غرناطہ میں ہماری چھوٹی سی سلطنت کا نام و نشان مٹانے کا عہد کر چکے ہیں۔ مسلمانوں کے دل ٹوٹ چکے ہیں مسلمان بزدل نہیں۔ وہ مارنا اور مرنے کا جانتے ہیں۔ آج بھی اگر فرطینڈ اپنی مملکت کے تمام عیسائی سپاہی لے کر میدان میں آجائے تو ہم انہیں چند دن میں کچل کر رکھ دیں۔ لیکن اب تمام یورپ کے عیسائی اس کی مدد کے لئے جمع ہو رہے ہیں۔ اس کے برعکس افریقہ میں ہمارے بھائی ہمارے حال سے بے خبر ہیں۔ ہم کب تک لڑیں گے؟ اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا؟"

صبح کے وقت غرناطہ کی مساجد میں اس قسم کے اشتہار دیواروں کے ساتھ چسپاں ہوتے۔

”کیا فرماتے ہیں علمائے دین! کیا ایسی جنگ جاری رکھنا جائز ہے جس کا انجام ہلاکت کے سوا کچھ نہ ہو؟“

منافقین کی ان کوششوں سے غرناطہ میں شکست خوردہ ذہنیت کے لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اندلس کے اکابر سے غرناطہ کے اکابر بھی متاثر ہونے لگے۔ ان زہریلے اثرات سے فوج ابھی تک محفوظ تھی لیکن ابو داؤد کے آدمی فوج میں بھی بھرتی ہو رہے تھے۔ اشبیلیہ سے بعض یہودی تاجر بھی پناہ گزینوں کے بھیس میں آگئے تھے اور وہ فرڈیننڈ کے سونے اور چاندی سے بااثر اُمراء کے ضمیر خرید رہے تھے۔

(۵)

لوشہ کا قائم مقام گورنر جان مائیکل مدبر کی بجائے طاقت سے کام لینے کا قائل تھا۔ ابو داؤد کی موجودگی میں لوشہ کے مسلمان اپنے آپ کو عیسائیوں کے ظلم و تشدد سے محفوظ نہیں سمجھتے تھے تاہم ابو داؤد کی حکمت عملی کے باعث مسلمانوں کے خلاف ان کا جذبہ انتقام کسی حد تک دبا رہا لیکن ابو داؤد کے جاتے ہی مسلمان یہ محسوس کرنے لگے کہ لوشہ میں ان پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا ہے۔

وہ پانچ ہزار سپاہی جو لوشہ کی حفاظت کے لئے آئے تھے شراب سے بدست ہو کر شہر کی گلیوں میں چکر لگاتے۔ مساجد میں گھس کر نماز پڑھنے والوں کو زد و کوب کرتے۔ رات کے وقت وہ مسلمانوں کے گھروں کے دروازے توڑ کر اندر گھس جاتے اور ان کی عورتوں کو زبردستی گھسیٹ کر فوجی اڈوں میں لے جاتے۔

ایک دن ایک نوجوان نے غیرت میں آکر اپنے پڑوسی کے گھر پر حملہ کرنے والے سپاہیوں میں سے تین کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جان مائیکل نے شہر پر فوجی حکومت مسلط کر دی۔ شہر کے ایک سٹیٹنٹ راہب کی قیادت میں سرکردہ عیسائیوں کا ایک وفد گورنر سے

ملا اور انہوں نے گورنر سے درخواست کی کہ فوج کے شہر میں داخل ہونے پر پابندی عائد کی جائے
شراب سے بدست سپاہی نہ صرف مسلمانوں بلکہ کبھی کبھی عیسائیوں کے گھروں میں بھی جا
گھستے ہیں۔ گورنر نے یہ حکم صادر کر دیا کہ عیسائی اپنے گھروں کے دروازوں پر صلیب کے نشان
لگا دیں تاکہ سپاہیوں کو غلط فہمی نہ ہو۔

لوشہ کا ایک متمول تاجر عیسائی جان مائیکل کا دوست تھا۔ جان مائیکل رات کے وقت
اکثر اس کے ہاں چلا جاتا۔ ہر رات سپاہی اس تاجر کے مکان پر کوئی نہ کوئی بد نصیب لڑکی پکڑ
لاتے۔

ایک رات جان مائیکل شراب کے نشے میں بدست تھا۔ اُس نے اپنے میزبان سے
کہا: "میں نے اب شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔"

تاجر نے تمہارے لگایا "شادی اتم شادی کرو گے۔"

جان مائیکل نے گرج کر کہا: "خاموش اتم سمجھتے ہو کہ میں نشے کی حالت میں بک رہا

ہوں لیکن میں نے شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اندلس کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی
کرنا چاہتا ہوں اور وہ لوشہ میں ہے۔ جانتے ہو وہ کون ہے؟"

"میں جانتا ہوں۔"

"اچھا بتاؤ وہ کون ہے؟"

"وہ ابو داؤد کی لڑکی ہے۔"

"اس کا نام جانتے ہو؟"

"اس کا نام ربیعہ ہے۔"

گورنر نے شراب کا جام اٹھاتے ہوئے کہا: "تم کچھ نہیں جانتے۔ اس کا نام اینجلا ہے۔"

تاجر نے کہا: "میں نے اینجلا کو دیکھا ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ ربیعہ اس سے

بھی زیادہ خوبصورت ہے۔"

جان مائیکل نے گرج کو کہا۔ "یہ ربیعہ کون ہے؟"

"وہ اینجلا کی سوتیلی بہن ہے۔ وہ مردوں کے سامنے نہیں آتی۔ وہ گرجے میں بھی نہیں آتی۔ میں نے سنا ہے کہ اُس کی ماں مسلمان تھی۔"

"تم بچتے ہو۔ اتدلس کی کوئی لڑکی اینجلا سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ میں اس کی تو بہن برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے دوسری مرتبہ یہ کہا کہ کوئی لڑکی اینجلا سے زیادہ خوبصورت ہے تو تمہاری جان کی خیر نہیں۔"

"تو آپ اینجلا کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔"

"ہاں میرا فیصلہ اٹل ہے لیکن وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔"

"آپ سے نفرت؟"

"ہاں وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔"

"میری سمجھ میں نہیں آتا کہ فرڈیننڈ کے نائٹ سے ایک لڑکی کیسے نفرت کر سکتی ہے۔ اس کی ماں عیسائی ہے اور وہ یقیناً اُسے اپنی خوش قسمتی سمجھے گی۔ اگر اجازت ہو تو میں بشپ کو اس کے ساتھ بات کرنے کے لئے کہوں۔"

"میں خود اس کی ماں کے ساتھ بات کر چکا ہوں اور اُسے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن لڑکی کو مجھ سے نفرت ہے۔ پرسوں میں نے اُسے دعوت دی تھی۔ اس کی ماں آئی لیکن اس نے دردِ سر کا بہانہ کیا۔ جانتے ہو خوبصورت لڑکیاں کس وقت دردِ سر کا بہانہ کرتی ہیں؟ تم نہیں جانتے تم بیوقوف ہو۔ جب وہ کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتیں تو دردِ سر کا بہانہ کرتی ہیں۔ میں نے اپنی خادمہ کے ہاتھ اسے پھول بھجوائے تھے۔ جانتے ہو اس نے کیا کیا؟ — تم نہیں جانتے کھڑو میں بتاتا ہوں۔"

جان مائیکل نے اٹھ کر میز پر رکھے ہوئے گلدستہ کو اٹھایا اور تاجر کے سر پر دے مارا اور قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ "اس نے پھولوں کا گلدستہ میرے خادمہ کے سر پر دے مارا۔"

اور اُسے کہا اگر تم دوبارہ کوئی چیز لے کر آئیں تو تمہاری جان کی خیر نہیں۔
تاجر نے کہا: "لیکن آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیئے۔"

جان مائیکل نے شراب کا ایک جام حلق سے اتارتے ہوئے کہا: "مایوس اور میں؟
تم مجھے نہیں جانتے۔ میرے اور اُس کے درمیان صرف چند قدم کا فاصلہ ہے لیکن اگر چارے
درمیان سات سمندر بھی حائل ہوتے تو بھی میں مایوس نہ ہوتا۔ وہ میری ہے۔ اینجلا میری
ہے۔ میری بننے کے سوا اس کے لئے کوئی راستہ نہیں۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ تم
نہیں جانتے۔ تم ایک بیوقوف تاجر ہو۔"

(۶)

عام حالات میں شاید میریا اینجلا کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاتی لیکن ایک
ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اُسے اینجلا کے مستقبل کے متعلق جلد کوئی فیصلہ کرنے پر
مجبور کر دیا۔

میریا دیر تک سونے کی عادی تھی لیکن ایک رات طبیعت کی خرابی کے باعث اُسے
نیند نہ آئی۔ اینجلا کا کمرہ اس کے ساتھ تھا۔ پچھلے پہر اُس نے پیاس محسوس کی۔ پانی کی صراحی
برآمدے میں تھی۔ میریا نے خادمہ کو آواز دینے کی بجائے خود اٹھ کر پانی پیا۔ واپس جاتے ہوئے
اُسے کوئی خیال آیا اور وہ اینجلا کے کمرے کی طرف چل دی۔ دروازہ کھلا تھا لیکن اینجلا کا
بستر خالی تھا۔

اس سے آگے ربیعہ کا کمرہ تھا اور اندر سے بولنے کی آواز آرہی تھی۔ میریا دبے پاؤں
دروازے کے قریب پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے دروازے کو دھکیلا اور
کھوڑی سی دراڑ بنا کر اندر جھانکنے لگی۔ اندر شمع جل رہی تھی۔ اینجلا ایک کتاب ہاتھ میں لئے
ربیعہ کے سامنے قالین پر بیٹھی آہستہ آہستہ پڑھ رہی تھی۔ وہ کسی لفظ پر رک جاتی تو ربیعہ

اسے بتا دیتی۔ یہ وہ کتاب تھی جسے میری آنے اکثر بیعہ کو انتہائی سوز و گداز کے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ قرآن تھا۔

میرے کچھ دیر مہوت کھڑی رہی۔ اینجلا اس کے نزدیک بدترین گناہ کی ترکیب ہو چکی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ بھاگ کر اپنی بیٹی کے ہاتھ سے قرآن چھین لے لیکن اس کے پاؤں زمین سے پیوست ہو کر رہ گئے۔ اس کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی۔

اینجلانے قرآن بند کیا اور اُسے محل کے جزدان میں لپیٹ کر الماری میں رکھ دیا۔ اس کے بعد دونوں نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئیں۔

میرا انتہائی رنج و کرب کی حالت میں اپنے کمرے کی طرف لوٹ آئی۔ بارہا اس کے جی میں آیا کہ وہ اینجلا کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں لے آئے لیکن اس نے محسوس کیا کہ یہ معاملہ خطرناک حد تک آگے جا چکا ہے اور اس کی جلد بازی اینجلا کو کھلی بغاوت پر آمادہ کر دے گی۔ دیر تک وہ بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ اچانک اُسے خیال آیا اور وہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ بیرونی دروازے سے گزرنے کے بعد اس کا رخ بشپ کی قیام گاہ کی طرف تھا۔ اس سے قبل اُسے محل کے کسی ملازم یا سپاہی نے پیدل باہر جاتے نہیں دیکھا تھا۔

کھڑی دیر بعد وہ لوشہ کے بشپ سے کہہ رہی تھی: "مقدس باپ! میں چاہتی ہوں کہ اینجلا کی شادی کر دی جائے لیکن وہ بہت سرکش ہے۔ وہ میرا کہا نہیں مانتی۔" بشپ نے سوال کیا: "وہ راہبہ بنا چاہتی ہے؟" "نہیں مقدس باپ! اُسے کوئی رشتہ پسند نہیں۔"

"میں اس بارے میں خود تم سے ملنے والا تھا۔ جان مائیکل نے مجھ سے کئی بار یہ کہا ہے کہ اُسے تمہاری لڑکی پسند ہے۔"

"مقدس باپ! میں اُسے اپنی عزت افزائی سمجھتی ہوں لیکن اینجلا بہت ضدی ہے۔"

آپ اسے سمجھائیں۔“

بشپ نے کچھ سوچ کر کہا: ”میرے خیال میں اگر تم جان مائیکل کو اپنی بیٹی سے ملاقات کا

موقع دیتیں تو شاید یہ مشکل خود بخود حل ہو جاتی۔“

میریا نے جواب دیا: ”مقدس باپ! اگر یہ معاملہ اس قدر آسان ہوتا تو میں آپ کو

مکلیف نہ دیتی۔ اینجلا پر پھیری سوتیلی لڑکی نے جادو کر رکھا ہے۔ وہ مسلمان ہے اور اس نے

اینجلا کے دل میں ہمارے ہم مذہبوں کے خلاف سخت نفرت پیدا کر دی ہے۔ مجھے ڈر ہے

کہ وہ گمراہ نہ ہو جائے اس لئے میں فوراً اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں اُسے بیعت سے

دور رکھنا چاہتی ہوں۔“

بشپ نے کہا: ”اگر یہ بات سچ ہے تو ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن میں یہ پوچھنا

چاہتا ہوں کہ اگر اینجلا کو اس کی مرضی کے خلاف شادی پر مجبور کیا جائے تو تمہارا خاوند ضامن

ہوگا؟“

میریا نے جواب دیا: ”وہ اس بات کا مخالف نہیں کہ اینجلا کی شادی کسی معزز عیسائی

خاندان میں کر دی جائے لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر اینجلا نے انکار کر دیا تو وہ اس کی طرفدار

کرے گا۔“

”اینجلا صرف جان مائیکل سے شادی کرنے کے خلاف ہے یا ہر عیسائی سے نفرت

کرتی ہے۔“

میریا نے گہرا جواب دیا: ”مقدس باپ! وہ شراب پینے والوں سے نفرت کرتی ہے اور

یہ اس کی سوتیلی بہن کی صحبت کا اثر ہے۔ جان مائیکل جب پہلے دن ہمارے گھر آیا تھا وہ شراب

میں مدہوش تھا اور شاید اسی وجہ سے اینجلا کو اس سے نفرت ہو گئی ہے۔“

بشپ نے کہا: ”میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہارے گھر کا ماحول عام عیسائیوں کے ماحول

سے مختلف رہا ہے تمہیں اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔“

آج شام میں تمہارے ہاں آؤں گا۔ تم جان مائیکل کی دعوت کا انتظام کرو۔ سرِ دست کسی اور کو بلانے کی ضرورت نہیں۔“

میریانے کہا: ”مقدس باپ! مجھے ڈر ہے کہ جان مائیکل کا نام سُنتے ہی وہ علالت کا بہارہ کر کے لیٹ جائے گی۔“

”تو اس کے سامنے جان مائیکل کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ اُس وقت آئیگا جب ہم کھانے کی میز پر بیٹھ چکے ہوں گے۔“

(۷)

لوشہ کے بشپ سے ملنے کے بعد میریا باقی سارا دن ربیعہ اور اینجلا کے پاس بیٹھی رہی۔ اینجلا کو اس بات کا افسوس تھا کہ وہ اپنی ماں کی موجودگی میں ربیعہ کے ساتھ نماز میں شریک نہ ہو سکی تاہم اُسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی سوتیلی بہن کے ساتھ اس کی ماں کے طرزِ عمل میں ایک خوشگوار تبدیلی آچکی ہے۔

آج میریا ربیعہ پر بہت مہربان تھی۔ وہ اس کے بال سنوارنے اور اس کا لباس تبدیل کرنے پر مُصر تھی۔ وہ کہہ رہی تھی: ”ربیعہ تم لباس کے معاملے میں بہت پرواہو۔ دیکھنے والے کہتے ہونگے کہ تمہاری سوتیلی ماں کو تمہارے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ تم سارا دن مغموم بیٹھی رہتی ہو۔ دیکھو تمہارا رنگ کیسا زرد ہو رہا ہے۔ تمہارا باپ آکر دیکھے گا تو شاید یہ خیال کرے گا کہ میں تمہیں تنگ کرتی رہی ہوں۔ خدا کے لئے اپنی صحت کا خیال رکھا کرو۔“

ربیعہ کے لئے اپنی ماں کے دل میں اتنی بڑی تبدیلی دیکھ کر اینجلا اس قدر متاثر ہوئی کہ رات کے وقت جب میریانے اس سے بشپ کے ساتھ کھانا کھانے کا مطالبہ تو وہ انکار نہ کر سکی۔

کھانے کی میز پر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بشپ نے جان مائیکل کا ذکر کھینچ دیا

ایجلا نہایت بے توجہی سے اس کے بہادرانہ کارناموں کی داستانیں سنتی رہی۔ بشپ نے اس کے مختلف معرکوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ "جان مائیکل کے متعلق مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ شراب پینے کے معاملے میں اعتدال سے کام نہیں لیتا ورنہ اسپین کا کوئی نائٹ اس کا ہم پلہ نہیں۔ تاہم وہ لوگ جو اس کی کمزوری کی وجوہات جانتے ہیں اُسے قابلِ معافی سمجھتے ہیں۔ اُسے اپنی بیوی کے ساتھ از حد محبت تھی۔ اس کی موت کے بعد وہ شراب میں غرق رہ کر اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اُسے کوئی ایسی رفیقہ حیات نہیں ملی جو اس کی زندگی کی تلخیوں کو کم کر سکتی۔ اندلس کے معزز ترین گھرانے اس کے ساتھ رشتہ کرنا اپنے لئے باعثِ عزت سمجھتے ہیں لیکن اُسے کوئی لڑکی پسند نہیں آتی۔ یہاں تک کہ شاہی گھرانوں کی لڑکیاں بھی اس کے معیار پر پوری نہیں اترتیں۔ اب مجھے اس کے ایک دوست نے بتایا ہے کہ وہ ایک نہایت معصوم لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ لڑکی ذہین بھی ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ جان مائیکل کی تمام عادات میں تبدیلی لاسکے گی اور یہ کلیسا کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ کلیسا کے فرزند اس وقت دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور کلیسا کی بیٹیوں کا فرض ہے کہ وہ ان کی تسکین کا سامان مہیا کریں۔ جان مائیکل کی شراب نوشی پر نکتہ چینی کرنے کی بجائے ہمیں ان تمام وجوہات پر غور کرنا چاہیے جن کے باعث وہ ہمیشہ شراب میں غرق رہنا پسند کرتا ہے۔ اُسے اپنی بیوی کی موت کا صدمہ ہے۔ اس کے علاوہ اس نے وحشی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اپنے بہترین دوستوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر قوم کی بیٹیاں اس کی حالت پر رحم کھانے کی بجائے اس سے نفرت کریں تو یہ قابلِ افسوس ہے۔"

ایجلا کا اضطراب بڑھ رہا تھا۔ وہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کے لئے کوئی حبال بچھایا جا رہا ہے۔ اس نے اپنی ماں اور پھر بشپ کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ لیکن خادمہ نے میرا کہہ کر اسے کھانے میں کچھ کہا اور میرا نے برہم ہو کر اسے جواب دیا۔ تم نے انہیں ملاقات کے کمرے میں کیوں بٹھا رکھا ہے انہیں یہاں لے آؤ۔"

خادمہ تذبذب کی حالت میں میریا کی طرف دیکھنے لگی۔ میریا اس کی وجہ نہ سمجھ سکی۔ وہ
برہم ہو کر بولی۔ "جانتی کیوں نہیں، میری طرف کیا دیکھ رہی ہو؟"

لیکن خادمہ نے جھک کر کھپیر میریا کے کان میں کچھ کہا اور میریا کے چہرے پر اچانک
نددی چھا گئی۔ بشپ اور اینجلا میریا کی طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔
بشپ نے پریشان سا ہو کر سوال کیا۔ "کیا بات ہے؟"

میریا نے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ "کچھ نہیں میں ابھی آتی ہوں۔"

لیکن برآمدے میں کسی کے پاؤں کی آہٹ سن کر میریا رگ گئی اور اُس کے ساتھ ہی
اُسے اپنا جشتی غلام یہ کہتا ہوا سنا دیا۔ "میں آپ کو ایسی حالت میں اندر نہیں جانے دوں گا۔"
اس کے جواب میں شراب کے نشے میں ڈوبی ہوئی آواز سنا دی۔ "تم میرا راستہ
نہیں روک سکتے۔ میں اس شہر کا گورنر ہوں۔ ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں پھانسی پر لٹکا دوں گا۔"
میریا کے پاؤں زمین کے ساتھ پیوست ہو کر رہ گئے۔ ایک ثانیہ بعد جان مائیکل دروازے
میں کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سونے کی صراحی اور دوسرے ہاتھ میں پیالہ تھا۔ اُس
کی آنکھوں سے وحشت برس رہی تھی۔ میریا، اینجلا اور بشپ مہوت ہو کر اس کی طرف دیکھ
رہے تھے۔

میریا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ "اینجلا! تم پیچھے کے کمرے میں چلی جاؤ۔"
لیکن اینجلا کی غیرت نے ماں کو تنہا چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ بشپ اس غیر متوقع صورت حالات
کا سامنا کرنے کے لئے تیار نہ تھا۔ وہ کبھی غصے اور ندامت کے ساتھ جان مائیکل اور کبھی معذرت
طلب نگاہوں سے میریا کی طرف دیکھ رہا تھا۔

جان مائیکل نے دروازے میں کھڑے کھڑے صراحی سے ایک جام بھر کر پیالہ اور لٹکا دیا
ہوا آگے بڑھا۔ وہ صراحی اور پیالہ میز پر رکھ کر بشپ کے قریب خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اینجلا
اپنی جگہ سے کھسک کر اپنی ماں کے قریب کھڑی ہو گئی۔

جان مائیکل نے کہا: "آپ کھڑی کیوں ہیں بیٹھ جاتے۔ آپ کے نوکر بہت بدتمیز ہیں۔ لوشہ
 کاہر آدمی مجھے جانتا ہے لیکن آپ کے نوکروں کو یہ معلوم نہیں کہ میں اس شہر کا گورنر ہوں۔
 مقدس باپ! میں آج اس بات کا فیصلہ کر کے جاؤں گا لیکن یہ کھڑی کیوں ہیں۔ کیا میں کوئی
 بھوت ہوں۔ اینجلا! تم مجھ سے خوف زدہ ہو، خدا کے لئے بیٹھ جاؤ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں
 اور اپنی ماں کی طرف دیکھو۔ اس نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی تھی اور اب یہ میری صورت
 دیکھ کر کانپ رہی ہے۔"

بشپ نے کہا: "میرا بیٹھ جاؤ۔ اینجلا بیٹی! ڈرو نہیں۔ مائیکل ایک نائٹ ہے کلیسا
 کی بیٹی کو اس سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔"

مائیکل نے کہا: "مقدس باپ! ان کا احترام میرا فرض ہے لیکن کوئی نائٹ یہ برداشت
 نہیں کر سکتا کہ کوئی گھر میں بلا کر اس کی بے عزتی کرے۔ کیا انہوں نے مجھے یہاں آنے کی
 دعوت نہیں دی؟"

اینجلا نے تحارت کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ بشپ نے پھر کہا: "میں ابھی تمہیں
 یہ بتا رہا تھا کہ موجودہ حالات ایسے ہیں جن کے باعث ہمارے بہترین سپاہی بہت زیادہ شراب
 پینے کے عادی ہو چکے ہیں۔ جب حالات بدلیں گے یہ عادات بھی بدل جائیں گی۔ میرا! اینجلا!!
 بیٹھ جاؤ۔ جان مائیکل کے دل میں تمہاری توہین کا خیال نہیں آسکتا۔"

میرا ایک لمحہ جھجکنے کے بعد کرسی پر بیٹھ گئی۔ لیکن اینجلا کھڑی رہی۔

مائیکل نے اپنا لہجہ تبدیل کرتے ہوئے کہا: "مقدس باپ! میں نے آپ کے ساتھ وعدہ
 کیا تھا کہ میں آج شراب پینے میں احتیاط برتوں گا لیکن مجھے افسوس ہے یہ میرے بس کی بات
 نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اینجلا شراب سے نفرت کرتی ہے۔ مقدس باپ! میں اسے چھوڑ دوں گا
 — اینجلا کے لئے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اینجلا! خدا کے لئے بیٹھ جاؤ! تم نہیں بیٹھو گی؟
 تمہیں بیٹھنا پڑے گا۔ میں تمہارے گھر آ کر اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔"

جان مائیکل نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ایک اور جام بھر کر منہ سے لگا لیا۔
میریا نے اینجلا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے آہستہ سے کہا: "اینجلا! یہ ایک شرابی کی ضد ہے
خدا کے لئے بیٹھ جاؤ۔"

اینجلا اپنی ماں کے الفاظ سے زیادہ اس کی ملتچی نگاہوں سے متاثر ہو کر بیٹھ گئی۔ مائیکل
کے متعلق اس کا خوف نفرت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ چند لمحات قبل حیا کا تقاضا یہ تھا کہ وہ وہاں
سے بھاگ جائے اور اب غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ صورتِ حالات کا مقابلہ کرے۔

جان مائیکل کچھ دیر خاموشی سے اینجلا کی طرف دیکھنے کے بعد بولا: "تم نے کھانا کیوں چھوڑ دیا۔
کھاؤ! سیری فکر نہ کرو۔ میں اس وقت کھانا نہیں کھایا کرتا میں صرف پیا کرتا ہوں۔ مقدس
باپ! اگر آپ میرے ساتھ شرکت کرنا چاہیں تو یہ صراحی حاضر ہے۔ اس دن مجھے جو شراب ملی
تھی وہ بہت ہلکی قسم کی تھی۔ اس لئے آج میں اپنی صراحی اٹھالایا ہوں۔ اینجلا کی طرح شاید
آپ بھی شراب سے نفرت کرتے ہیں لیکن اگر آپ میری جگہ ہوتے تو بہت زیادہ پیتے، مجھ سے
بھی زیادہ۔ آپ ہمیشہ مدہوش رہتے۔ ہوش میں انسان کو طرح طرح کے خیالات ستاتے
ہیں۔ میرے متعلق آپ یہ خیال نہ کریں کہ میں ہمیشہ اسی طرح شراب پیتا تھا۔ نہیں کسی زمانے میں
شراب سے میری نفرت کا یہ عالم تھا کہ میں مذہبی رسومات میں بھی اُسے ہاتھ نہیں لگاتا تھا لیکن
اب میں سب سے زیادہ پیتا ہوں۔ اینجلا کو میری یہ عادت پسند نہیں۔ اُسے شاید میری یہ
عادت بھی پسند نہ ہو کہ میں رات کے وقت لوگوں کے گھروں میں چلا جاتا ہوں۔ اینجلا شاید
مجھے ظالم کہے گی۔"

بشپ نے مائیکل کو ٹوکنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا: "میں اینجلا کو بتا چکا ہوں کہ
آپ اپنی بیوی کی وفات کے بعد شراب کے عادی ہو گئے ہیں۔"

مائیکل نے جواب دیا: "یہ غلط ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری بیوی کی
موت کا باعث میری شراب نوشی تھی۔ صرف شراب نوشی ہی نہیں اُسے میری بہت سی عادتوں

سے نفرت تھی۔ الجحہ کی فتح کے بعد جو کچھ ہوا اُس کے بعد وہ کہا کرتی تھی کہ تم وحشی ہو لیکن یہ میرا قصور نہ تھا۔ الجحہ کی فتح سے پہلے میں بہت کم شراب پیا کرتا تھا لیکن اس دن فتح کی خوشی میں میں نے کئی صحرا حیاں خالی کر دیں اور اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا، نشے کی حالت میں مجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اس کے ساتھ وعدہ بھی کیا کہ میں تمہاری جان بچا لوں گا۔ اس کا جرم معمولی نہ تھا۔ اُس نے ہمارے دو سپاہی قتل کئے تھے۔ اس کے چار بھائی جنگ میں مارے گئے تھے۔ شہر والے ہتھیار ڈال چکے تھے۔ ان کا فرض تھا کہ ہمارے لئے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے لیکن اُس خوبصورت لڑکی کے گھر کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ توڑنے کا حکم دیا۔ میں شاید ایسا نہ کرتا لیکن فتح کی خوشی میں بہت زیادہ پیٹے ہوئے تھا۔ جب میرے سپاہی دروازہ توڑ رہے تھے مکان کی چھت سے چند تیر آئے۔ میرے آٹھ سپاہی زخمی ہوئے اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ ہم مکان میں داخل ہوئے تو وہاں صرف ایک لڑکی تھی۔ اُس نے مجھ پر خنجر کے ساتھ حملہ کیا لیکن میں نے اس کے ہاتھ سے خنجر چھین لیا۔ اگر میں منع نہ کرتا تو سپاہی اس کی بوٹیاں توج ڈالتے سپاہی چلے گئے لیکن میں وہیں رہا۔ میں نے اور شراب منگوائی۔ میں نے اُسے ایک چھالہ پیش کیا میں نے کہا میں تمہاری جان بچانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں شہر سے باہر چھوڑ آؤں گا لیکن وہ بہت ضدی تھی بالکل اینجلا کی طرح۔ اس نے شراب کا پیالہ میرے منہ پر دے مارا۔ اُس نے میرا منہ توج ڈالا۔ اُس کی گالیاں میرے لئے ناقابل برداشت تھیں۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ تڑپتی رہی اور اس کے گلے پر میرے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوتی گئی۔ صبح کے وقت جب مجھے ہوش آیا تو اس کی لاش میرے قریب پڑی ہوئی تھی۔ اس کی خوبصورت گرن پر میری انگلیوں کے نشانات تھے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سو رہی ہے۔ اُس کی صورت دیکھ کر مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں نے اُسے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کیا ہے۔ میں اُسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔

” اس کے بعد میں سارا دن شراب پیتا رہا۔ اس کے بعد میں ہمیشہ شراب میں غرق رہتا ہوں لیکن یہ ایک ایسی تشنگی ہے جو کبھی دُور نہ ہوگی۔ میں نے پہلی بار اینجلا کو دیکھا تو مجھے وہ لڑکی یاد آگئی۔ آج تک میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی ذمہ دار وہ لڑکی ہے اور اب آئندہ جو کچھ کروں گا اس کی ذمہ دار اینجلا ہوگی۔ میں آج اس بات کا فیصلہ کرنے آیا ہوں۔ اینجلا تمہیں اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ میرے ساتھ شادی کرنا منظور ہے یا نہیں؟“

اینجلا کی آنکھوں میں آنسو آچکے تھے۔ وہ تصور میں اس بے کس لڑکی کی جگر دوڑ چینیس سُن رہی تھی۔ جان مائیکل کے سوال پر وہ چونک اٹھی۔ ”تمہیں میرا جواب معلوم ہے۔“

اینجلا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔

مائیکل نے گرجتے ہوئے کہا: ”اگر یہ وہی جواب ہے جو مجھے اس لڑکی نے دیا تھا تو سنو! جس پھول کی مہک میرے لٹے نہیں میں اُسے اپنے ہاتھوں سے مسلنے کا عادی ہو چکا ہوں۔“

اینجلا نے جواب دیا: ”اس لڑکی کے ساتھ تم اپنا منہ کالا کرنا چاہتے تھے اور مجھے تم نے شادی کا پیغام دیا ہے۔ فرڈینینڈ کے ناٹھ اور کلیسا کے بہادر کو میرا یہ جواب ہے کہ میری نگاہ میں تمہاری نسبت لوشہ کا ایک بھکاری زیادہ قابلِ عزت ہے۔ اس بے کس لڑکی کے لئے تم ایک بھوکے بھیرے تھے لیکن میرے سامنے تم ایک پاگل کتے ہو۔ تم اس وقت بھی قابلِ نفرت تھے اور اب بھی قابلِ نفرت ہو۔“

”اینجلا! اینجلا!!“ بشپ اور میرا نے ایک زبان ہو کر کہا۔ لیکن وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھی۔ ”تم انسانیت کے نام پر ایک بدنما داغ ہو۔ تم مجھے دھکیاں دیتے ہو لیکن جب تک مجھ پر خدا کا ہاتھ ہے تم میرا بال بکا نہیں کر سکتے۔ تم نے جس زمین پر کلیسا کی شاندار عمارتیں بنائی ہیں اسی زمین پر بے گناہوں کا خون گرایا ہے۔ وہ وقت آئے گا جب یہ عمارتیں بیونڈ خاک ہو جائیں گی اور آنے والی نسلوں کو ان کے کھنڈر بھی نظر نہ آئیں گے لیکن وقت کا ہاتھ تاریخ کے صفحات پر ان بگینا ہوں کے خون سے لکھی ہوئی تحریریں نہیں مٹا سکتے گا۔“

اینجلا بشپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ "اور تم مریم کے بُت بنا کر پوجتے ہو لیکن اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں معصوم لڑکیوں کی عصمت دری کروانا مریم کے بیٹے کے دین کی بہت بڑی خدمت سمجھتے ہو۔ تم اس صلیب کی پوجا کرتے ہو جس پر خدا کے بیٹے کو لٹکایا گیا تھا۔ لیکن میں پوجتتی ہوں اندلس کے ہر شہر میں کتنے بے گناہ ہیں جنہیں تم ہر روز پھانسی دیتے ہو۔"

بشپ نے اُنھتے ہوئے کہا: "یہ لڑکی گمراہ ہو چکی ہے۔ اُس کی بہن نے اس پر جادو کر دیا ہے۔ اُسے معلوم نہیں یہ کیا کہہ رہی ہے۔ مائیکل! چلو چلیں!"

"نہیں میں فیصلہ کر کے جاؤں گا۔" مائیکل آخری جام پینے کے بعد اب بہوشی کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ وہ اٹھ کر اینجلا کی طرف بڑھا۔ اُس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ اینجلا میز پر سے بھاری پھولدان اٹھا کر ایک طرف ہٹ گئی۔ میریا نے اپنے حبشی غلام کو آواز دی۔ وہ بھاگتا ہوا داخل ہوا۔ اتنی دیر میں مائیکل اینجلا کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اینجلا نے پھولدان اس کے سر پر دے مارا۔ مائیکل کو گرنے کے لئے فقط ایک بہانہ چاہیے تھا۔ پھولدان کی معمولی ضرب سے وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا۔

اس کے گرتے ہی بشپ نے آگے بڑھ کر حبشی غلام سے کہا: "تم انہیں فوراً اٹھا کر ان کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ اُن کے نوکر پوچھیں تو یہ کہہ دینا کہ یہ شراب سے بے ہوش ہیں توئی مائیکل حبشی نے جان مائیکل کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر لاد لیا اور باہر نکل گیا۔

بشپ نے اینجلا کی طرف دیکھا اور کہا: "اینجلا! جان مائیکل کو میں نے یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ تمہاری ماں کا اس میں کوئی قصور نہیں اور میرا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ تمہاری سوتیلی بہن نے تمہیں گمراہ کیا ہے۔ اگر یہ باتیں اُس نے تمہیں سکھائی ہیں تو تمہیں اس سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ میں مائیکل کو قابلِ اصلاح سمجھتا تھا لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ تمہیں اس سے دُور رہنا چاہیے۔ میں کل اپنے عہدہ سے استعفادے رہا ہوں۔ مجھے مدت سے اس بات کا احساس تھا کہ ایک بشپ کی حیثیت میں میں کلیسا کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ لیکن

میرے ضمیر کو ایک ٹھوکہ کی ضرورت تھی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے ایک اونگھتے ہوئے
 انسان کو جگا دیا ہے اور میری ماتم اپنے خاوند کو لکھو کہ اگر وہ فوراً یہاں نہیں آسکتا تو تمہیں
 اپنے پاس بلا لے۔

جرم اور اُس کی سزا

(۱)

لگے دن جان مائیکل کی خادمہ میریا کے پاس اُس کی طرف سے ایک خط لے کر آئی۔ خط پڑھ کر میریا کو یہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ مائیکل نے لکھا ہے۔ وہ بار بار خادمہ سے پوچھ رہی تھی: "کیا یہ واقعی انہوں نے لکھا ہے؟" اور خادمہ کو اُسے یقین دلانے کے لئے مریم کی قسم کھانی پڑی۔

جان مائیکل نے انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ معافی مانگی تھی۔ اُس نے لکھا تھا کہ مجھے طرزِ عمل پر ندامت اور افسوس کے اظہار کے لئے الفاظ نہیں ملتے۔ میں بے حد شرمسار ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نشے کی حالت میں تھا، اس لئے مجھے اُمید ہے کہ آپ میری خطا قابلِ معافی سمجھیں گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب پی کر آپ کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا اور اینجلا کے ساتھ میں اس وقت تک ہم کلام ہونے کی جرأت نہیں کروں گا جب تک وہ خود اپنی زبان سے یہ نہ کہے کہ میرے اخلاق میں ایک بہت بڑی تبدیلی آچکی ہے۔ میں اطمینان سے اس وقت کا انتظار کروں گا جب میرے طرزِ عمل سے وہ مجھے ایک انسان سمجھنے

پر مجبور ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں کہ رات کے واقعہ کے بعد مجھ پر آپ کے گھر کا دروازہ بند ہو چکا ہے لیکن آپ اطمینان رکھیں جب تک آپ خود نہ بلائیں گی میں یہ دروازہ کھٹکھٹانے کی جرات نہیں کروں گا۔“

جان مائیکل کی خادمہ کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے میریا اپنے خاوند کے نام ایک طویل خط لکھ چکی تھی لیکن مائیکل کا خط آنے پر اُس نے اپنا مکتوب قاصد کے سپرد کرنے کا ارادہ تبدیل کر دیا۔

جب وہ جان مائیکل کے خط کا جواب سوج رہی تھی اُس کی خادمہ نے اطلاع دی کہ ملاقات کے کمرے میں بشپ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میریا نے جان مائیکل کی خادمہ سے کہا: ”تم جاؤ میں انہیں اس خط کا جواب بھیج دوں گی۔“

میریا نیچے اتر کر ملاقات کے کمرے میں داخل ہوئی۔ چند رسمی باتوں کے بعد بشپ نے کہا: ”مجھے تھوڑی دیر ہوئی جان مائیکل کا خط ملا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ رات کے وقت اُسے ہوش نہ تھا اور وہ بہت نادم ہے۔ اس نے مجھ سے یہ درخواست کی ہے کہ میں آپ کے سامنے اُس کی طرف سے معذرت پیش کروں۔“

”اُس نے میرے پاس بھی یہ خط بھیجا ہے۔ آپ پڑھ لیجئے۔“ بشپ نے میریا کے ہاتھ سے خط لے کر اس پر سرسری نظر دوڑانے کے بعد کہا: ”مجھے بھی اُس نے اسی طرح کی باتیں لکھی ہیں اور میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے اپنے شوہر کو رات کے واقعات کی اطلاع بھیج تو نہیں دی۔“

”نہیں میں خط لکھ چکی تھی لیکن ابھی تک بھیجا نہیں۔“

”اینگلانے خط پڑھ لیا ہے۔“

”نہیں۔“

”اُسے بلاؤ۔ میں اس سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔“

”مجھے آپ کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں لیکن اس وقت شاید وہ جان مائیکل کے متعلق کوئی بات سننا پسند نہیں کرے گی۔“

”میں جان مائیکل کا ایلچی بن کر نہیں آیا۔“

”اچھا میں اُسے بُلاتی ہوں۔“

بشپ نے کہا: ”یہ خط لے جاؤ بہتر ہے کہ اینجلا میرے پاس آنے سے پہلے اس خط کو پڑھ

لے۔“

میریا اینجلا کو بلانے کے لئے اُوپر چلی گئی۔

رات کو رخصت ہوتے وقت بشپ نے جو باتیں کی تھیں اینجلا اُن سے بہت متاثر ہوئی

تھی لیکن جب میریا نے اُس کے ہاتھ میں جان مائیکل کا خط دینے کے بعد اُسے یہ بتایا کہ بشپ

تم سے ملنا چاہتا ہے تو اُس نے فوراً یہ کہا: ”اگر بشپ اس شرابی کا ایلچی بن کر آیا ہے تو میں اس

سے ہرگز نہیں ملوں گی۔ کل وہ کہتا تھا کہ میں لوشہ کے بشپ کے عہدہ سے مستعفی ہو جاؤں گا اور

اب اُسے ایک انتہائی قابلِ نفرت آدمی کی ذلیل ترین خدمت بجالانے سے عار نہیں۔“

میریا نے جواب دیا: ”اینجلا یہ خط میرے پاس مائیکل کی خادمہ لائی تھی۔ اگر تمہیں یقین نہیں

آتا تو تم اپنی خادمہ سے پوچھ لو۔ بشپ کا اس خط سے کوئی تعلق نہیں۔“

”تو آپ نے اس خط کا کیا جواب دیا ہے؟“

”میں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے یہ خط بشپ کو دکھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں

کہ مائیکل نے انہیں بھی اسی طرح کا ایک خط لکھا ہے۔“

”تو اب وہ ہمارے درمیان مصالحت کروانے کا ارادہ لے کر آئے ہوں گے۔“

”ان سے ملے بغیر تمہیں اُن کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔“

”چلئے! اینجلا نے اُٹھتے ہوئے کہا۔“

بشپ نے اینجلا کو دیکھتے ہی سوال کیا: ”بیٹی! میں نے کل تمہیں بتایا تھا کہ میں اپنے عہدے

مستعفی ہونے کا ارادہ کر چکا ہوں لیکن آج مجھے مائیکل کا ایک خط ملا ہے۔ اُس نے اپنے طرزِ عمل پر سخت ندامت کا اظہار کیا ہے۔ اگر یہ تبدیلی ہتکامی اور عارضی نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے مستعفی ہونے کے متعلق جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جب تک تمہارا باپ غیر حاضر ہے مجھے لوشہ میں رہنا چاہیے۔ ابھی تمہاری ماں نے بھی مجھے اس کا ایک خط دکھایا ہے۔“

اینجلانے کہا: ”میں بھی یہ خط دیکھ چکی ہوں۔“

بشپ نے سوال کیا: ”اس خط کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟“

اینجلانے جواب دیا: ”میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ حالات نے اُسے ایک بھڑپے کی

زندگی کی بجائے ایک لٹری کی چالاکی سے کام لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس نے اپنا طریق کار بدلا ہے خود نہیں بدلی۔ وہ جس شکار کو اپنے پنجے سے ہلاک نہیں کر سکا اُس کے لئے اب جال بُن رہا ہے۔ اور پھینکانے والے اژدہا کی نسبت خاموشی کے ساتھ جالا بُننے والی مکڑی کو زیادہ خطرناک سمجھتی ہوں۔“

”ممکن ہے تمہارا خیال صحیح ہو۔ کسی کے دل کا حال خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس معاملہ

میں میری بہدر روی تم لوگوں کے ساتھ ہے۔ میں تمہیں اور تمہاری ماں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اس خط کے بعد آپ کو ایسا جواب دینا چاہیے جس سے وہ مشتعل نہ ہو۔ میں آپ کو اس کے

ساتھ راہِ رسم رکھنے کا مشورہ نہیں دیتا لیکن میں یہ مشورہ بھی نہیں دوں گا کہ آپ اس کے خط کے

جواب میں سخت الفاظ استعمال کریں۔ بعض ٹھوکریں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو سیدھا کر دیتی

ہیں۔ ممکن ہے کہ کل کا واقعہ اس کی زندگی بدل ڈالے۔ اگر اس کے طرزِ عمل میں یہ تبدیلی عارضی

اور وقتی ہے تو بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک وہ اس شہر کا گورنر ہے اور تم سے اس قدر

قریب رہتا ہے، وہ ایک پرائمن ہمسایہ بنا رہے۔ ہماری افواجِ غرناطہ پر حملہ کرنے والی ہیں۔

اشبیلیہ میں ابوداؤد کی مصروفیات کچھ ایسی ہیں کہ وہ شاید غرناطہ کی فتح تک واپس نہ آسکے۔

اس کی غیر حاضری میں اگر آپ قدرے تدبیر سے کام لیں تو مجھے اُمید ہے کہ وہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔

ایجنلانے کہا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ ہمیں پریشان نہیں کرے گا اور جب تک وہ اپنے وعدے پر قائم ہے ہمیں اُس کے ساتھ اُلجھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری ماں کا کوئی جواب اس کی وحشیانہ فطرت بدل سکتا ہے تو آپ لکھو اور بھجوا دیں لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے خدا گواہ ہے کہ اگر مائیکل ایک ہزار سال تک عبادت میں مصروف رہے اور میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھوں کہ فرشتے آسمان سے اتر کر اُسے سلام کرنے آتے ہیں تو بھی میں اُسے قابلِ نفرت سمجھوں گی۔

(۲)

اس واقعہ سے ایک ماہ بعد فرٹھیناٹھ غرناطہ پر حملہ کر چکا تھا۔ بلکہ ازاہیل اور بادشاہ غرناطہ کو فتح کے بغیر واپس نہ جانے کا حلف اٹھا کر اپنی ساری قوت کے ساتھ میدان میں آچکے تھے۔ ابوداؤد اشبیلیہ چھوڑ کر غرناطہ کی سرحد سے چند میل کے فاصلے پر ایک شہر کو اپنی سرگرمیوں کو مرکز بنا چکا تھا۔ وہ گزشتہ پچار ماہ میں سنیکٹوں جاسوسوں کو تربیت دے کر غرناطہ بھیج چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو یہ خط لکھا کہ غرناطہ ہماری توقع سے پہلے فتح ہو جائے گا اور بادشاہ سلامت مجھے غرناطہ میں اپنا نائب السلطنت بنانے کا وعدہ کر چکے ہیں۔

لوشہ میں قریباً ایک ماہ تک جان مائیکل کی طرف سے میریا کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ آخری ملاقات کے بعد اس کے طرزِ عمل میں کافی تبدیلی آچکی تھی۔ اس کی خادمہ دن میں ایک بار میریا کے پاس آتی اور پوچھ کر چلی جاتی کہ آپ کو کوئی تکلیف یا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ میریا اس کے جواب میں اس کا شکریہ ادا کرتی۔ بذاتِ خود جان مائیکل ان سے انگ تھلگ رہتا تھا۔ چند ہفتوں کے بعد میریا کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ اپنے قول کا پکا

ہے اور وہ بن بلائے ان کے گھر میں نہیں آئے گا۔ کبھی کبھی اُسے اس بات پر خوشی ہوتی کہ اس کی اس تبدیلی کا باعث اینجلا ہے لیکن جب وہ یہ سوچتی کہ اینجلا کسی صورت میں بھی اُس کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند نہیں ہوگی تو اُس کا دل بیٹھ جاتا اُسے جان مائیکل پر رحم آتا۔ جان مائیکل اب اپنی اکثر راتیں اپنے تاجر دوست کے ہاں گزارتا تھا اور شہر کی بسکس لڑکیوں کے ساتھ اُس کا برتاؤ زیادہ دشتیانہ تھا۔ میریا ان باتوں سے بے خبر تھی لیکن شہر میں مسلمانوں کی زبوں حالی کی خبریں کسی نہ کسی طرح رعبہ اور ربیعہ سے اینجلا تک پہنچ جاتی تھیں اور جان مائیکل سے اینجلا کی نفرت روز بروز زیادہ شدید ہوتی گئی۔

ایک دن شب نے میریا کو بتایا کہ جان مائیکل ایک دو روز تک محاذ جنگ پر جا رہا ہے اور اس کی جگہ قسطلہ سے ایک نیا آدمی آ رہا ہے۔ لگے دن میریا کو شہر کے کووال کی بیوی کی طرف سے شام کے وقت جان مائیکل کے اعزاز میں الوداعی ضیافت میں شریک ہونے کی دعوت ملی۔ میریا نے اینجلا اور ربیعہ کو اپنے ساتھ اس دعوت میں جانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ میریا نے اینجلا کو سمجھایا کہ بیٹی اب وہ جنگ پر جا رہا ہے۔ تمہارے دل میں اس کے خلاف کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے۔ شہر کے تمام معززین وہاں جمع ہوں گے۔ اگر تم وہاں نہیں جاؤ گی تو لوگ یہ محسوس کریں گے کہ تمہارے اور اُس کے درمیان کوئی ناخوشگوار بات ہو چکی ہے۔“

لیکن اینجلا اپنی ضد پر قائم رہی۔ میریا کو مجبوراً اتنا جانا پڑا۔ شام کے دھندلکے میں جب میریا اپنی نگھی پر سوار ہو کر قلعے سے باہر نکلی تو اُسے دروازے پر جان مائیکل دکھائی دیا۔ وہ فوج کے چند سپاہیوں کے درمیان کھڑا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ میریا نے نوکر کو نگھی روکنے کا حکم دیا اور باہر جھانکتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے جان مائیکل کو اپنی طرف بلایا۔

جان مائیکل نے اُس کے قریب پہنچ کر کہا: ”آپ غالباً کووال کے ہاں جا رہی ہیں؟“
 ”ہاں لیکن مجھے اس بات کا گلہ رہے گا کہ آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ جا رہے ہیں۔“

”آپ کو الوداع کہے بغیر میرے لئے لوشہ چھوڑنا آسان بات نہیں لیکن میں یہ عہد کر چکا تھا کہ جب تک اینجلا مجھے نہیں بلائے گی۔ میں آپ کو پریشاں نہیں کروں گا اور ایک ٹائٹ کو اپنے عہد کا پاس کرنا پڑتا ہے۔“

میریا نے کہا: ”اینجلا اب بہت بدل چکی ہے۔ جب آپ جنگ سے واپس آئیں گے اُسے شاید آپ کو بلانے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ میں شاید وقت سے پہلے جا رہی ہوں۔ آپ وہاں کب پہنچیں گے؟“

”میں چند دوستوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ چلیں میں ابھی آتا ہوں لیکن آپ اکیسلی ہیں۔“

”ہاں! مجھے افسوس ہے کہ اینجلا کی طبیعت ٹھیک نہیں ورنہ وہ میرے ساتھ آنے کے لئے تیار تھی۔“

مائیکل نے کہا: ”اس کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔ اُسے علاج کی ضرورت ہے۔ اچھا آپ چلیں۔“

جب میریا کی نگہی کچھ دُور چلی گئی تو مائیکل اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ”اُسے ایک طبیعت کی ضرورت ہے اور میں کئی مریضیوں کا علاج کر چکا ہوں۔“

(۳)

ربیعہ اور اینجلا اوپر کی منزل کے ایک کمرے میں کھانا کھا رہی تھی اچانک بچے انہیں شہد سنانی دیا۔ ربیعہ نے چونک کر کہا: ”شاید احمد کے ساتھ کوئی لڑ رہا ہے۔“

اینجلا نے کہا: ”یہ جیس ہوگا۔ میں آج اس کی خبر لوں گی۔ کبھی کبھی مجھے احمد پر بھی غصہ آتا ہے۔ وہ ہاتھی کی طرح مضبوط ہے لیکن پھر بھی ہرنو کر سے مار کھا لیتا ہے۔“

ربیعہ نے کہا: ”یہاں ہر مسلمان ہر عیسائی کو اپنا آقا سمجھتا ہے۔“

اینبلا نے خادمہ سے کہا: "جاؤ جمیس کو بلالو، آج میں اس کی خبر لیتی ہوں۔"
لیکن اچانک سیرٹھیوں پر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنانی دی اور اینبلا نے کہا: "کھڑو اوہ
شاید خود ہی آ رہا ہے۔ اب وہ احمد کی شکایت کیے گا۔"

ایک تانیرہ کے بعد ربیعہ، اینبلا اور خادمہ مہبوت ہو کر دروازے کی طرف دیکھ رہی
تھیں۔ نوکر کی بجائے ان کے سامنے جان مائیکل کھڑا تھا۔ اینبلا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔
"تم!" اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔

"ہاں میں! لیکن تمہارا چہرہ زرد کیوں ہو گیا۔ میں تمہاری تیمارداری کے لئے آیا ہوں نہیں
تمہارے علاج کے لئے آیا ہوں۔ تم ہمیشہ بیمار رہتی ہو۔"

جان مائیکل ایک قیم آگے بڑھا اور اینبلا چار قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس دوران میں
ربیعہ بھاگ کر عقب کے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ گئی۔ خادمہ اپنی جگہ پر کھڑی
بڑی طرح کانپ رہی تھی۔

جان مائیکل نے کہا: "اینبلا! بھاگنے اور شور مچانے سے کوئی فائدہ نہیں، اس وقت تمہاری
مدد کے لئے کوئی نہیں آسکتا۔ تمہارے نوکر میرے آدمیوں کی حراست میں ہیں، تمہاری ماں
کو تو ال کے ہاں میری الوداعی ضیافت میں گئی ہے۔ جب تک میں وہاں نہیں جاؤں گا وہ
یہاں نہیں آسکے گی۔"

جان مائیکل چند قدم آگے بڑھا اور اینبلا بھاگ کر ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ وہ چلائی
"تم وحشی ہو، تم کیسے ہو۔ تم شراب سے مدہوش ہو۔"

جان مائیکل اینبلا کو جواب دینے کی بجائے خادمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ "تم کیا دیکھ رہی ہو۔
بھاگو یہاں سے؟" خادمہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی۔

مائیکل پھر آگے بڑھا اور اینبلا کو گھیر کر مرنے کے دو گھنٹے گزشتے میں لے آیا۔ پھر وہ
ربیعہ کی طرف متوجہ ہوا: "تم اس کی بہن ہو! لوگ غلط نہیں کہتے۔ اندلس کے حصے کا تمام حسن

خدا نے تم دونوں کو عطا کر دیا ہے لیکن اس وقت میں صرف اینجلا کے لئے آیا ہوں۔ تم جاسکتی

ہو۔“

لیکن ربیعہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ مائیکل چلایا۔ ”جاؤ!“

ربیعہ نے حقارت سے اُس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: ”تم بہت بہادر ہو۔ عورتوں کے مقابلہ میں تم واقعی بہت بہادر ہو۔ ایک لڑکی پر حملہ کرنے کے لئے تم نے فقط چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کی ورنہ اس مہم کے لئے ایک پوری فوج درکار تھی۔ تم اپنا خنجر کمبوی نہیں نکالتے۔ اینجلا! اسے بچاؤ کہ تمہارے ہاتھ خالی ہیں۔ فرٹھنڈ کے نائٹ کا وار خالی نہیں چاہیے۔“

ورنہ کلیسا کی تاریخ میں بہادری کا ایک کارنامہ کم ہو جائے گا۔“

مائیکل نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا: ”بذریبان لڑکی! خاموش رہ تو مجھے نہیں جانتی۔“

ربیعہ نے کہا: ”میں تمہیں جانتی ہوں۔ تم ایک بہادر نائٹ ہو۔ تم اس شہر کے گورنر ہو۔ کلیسا کو تم پر ناز ہے۔ کلیسا کو اس بات پر ناز ہے کہ تم نے اس کا جھنڈا معصوم لڑکیوں کی عصمت کے خون میں رنگا ہے، کلیسا کو اس بات پر ناز ہے کہ تم جیسے بہادروں کی بدولت اس کا سفینہ بے گناہوں کے خون کے سمندر میں تیر رہا ہے۔ میں تمہیں جانتی ہوں تم مردوں کے مقابلوں میں بھڑا اور عورتوں کے مقابلے میں شیر ہو۔“

مائیکل زخمی درندے کی طرح آگے بڑھا اور اس نے ربیعہ کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر بھنجھوڑنے کے بعد عقبی کمرے کی طرف دھکیل دیا۔ ربیعہ منہ کے بل گری۔ اتنی دیر میں اینجلا بھاگ کر سیڑھیوں کی طرف کھلنے والے دروازے سے باہر نکل چکی تھی۔ مائیکل اس کی طرف متوجہ ہوا تو ربیعہ نے جلدی سے اٹھ کر دروازے کو بند کر کے کٹاری لگا دی۔

مائیکل اینجلا کے پیچھے بھاگا۔ اینجلا تیزی کے ساتھ نیچے اترتے ہوئے چلا چلا کر لوگوں کی مدد کے لئے بلا رہی تھی۔ نصف سیڑھیاں اترنے کے بعد اُس نے محسوس کیا کہ محل میں دُش کی آواز پر بیک کہنے والا کوئی نہیں۔ اُسے ربیعہ کا خیال آیا اور اُس نے کہا: ”یہ وہیں رک گئے“

اچانک اُسے پیچھے سے چند آدمیوں کے تھمے سُنائی دے۔ سیرٹھیوں کی شمع جل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ مار کر شمع پیچھے گرا دی۔ مائیکل کے آدمی تھمے لگاتے ہوئے اُوپر آ رہے تھے۔ ایجلا کو خیال آیا کہ اگر وہ بالائی منزل کی باہر کی گیلری تک پہنچ جائے تو وہاں سے اس کی چیخ پکار قلعے کے دروازے کے پریدایوں تک پہنچ سکے گی۔ وہ دبے پاؤں اور چڑھی۔ زینے کے آخری موڑ پر اُسے ایک خوفناک تھمہ سُنائی دیا۔ وہ مائیکل کے مضبوط بازوؤں کی گرفت میں آسکی تھی۔ وہ چلا رہی تھی۔ "ظلم! دغا باز!! کینے!! مجھے چھوڑ دو! مجھے چھوڑ دو!!"

جان مائیکل نے اُوپر آنے والے سپاہیوں کو آواز دی۔ "تم اب قلعے کے دروازے پر کھڑے رہو جب تک میں اجازت نہ دوں اس طرف کوئی نہ آئے۔"

سپاہی لوٹ گئے اور مائیکل تڑپتی چیختی چلاتی ہوئی ایجلا کو اپنے بازوؤں کی آہنی گرفت میں لئے پھر اُسی کمرے میں داخل ہوا جہاں تھوڑی دیر پہلے ربیعہ اور ایجلا کھانا کھا رہی تھیں۔ اس نے ایک ہاتھ سے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا: "شور مچانے سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا تمہاری ہی رسوائی ہوگی۔ میں تمہارے باپ سے نہیں ڈرتا اس نے ہمارے ساتھ اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے اور ہم اس کی قیمت ادا کر چکے ہیں۔ بادشاہ میرے خلاف اس کی کوئی شکایت نہیں سُنے گا۔"

ایجلا نے دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ نوچتے ہوئے کہا: "مجھے چھوڑ دو! وحشی ظالم! کینے! مجھے چھوڑ دو!" وہ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں تڑپ رہی تھی۔

اچانک جان مائیکل بلبلا اُٹھا۔ اُس کے ہاتھ کی انگلی ایجلا کے دانتوں میں آسکی تھی۔ اُس نے دوسرے ہاتھ سے ایجلا کا گلا دبا کر اپنی انگلی چھڑائی۔ اس کے بعد مائیکل پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ایجلا کو گلے سے پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اُس کا لباس نوج رہا تھا۔

اچانک عقب کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ربیعہ ہاتھ میں برچھائے دبے پاؤں آگے بڑھی۔
 مائیکل کی پیٹھ اس کی طرف تھی لیکن اینجلا اُسے دیکھ چکی تھی۔ ربیعہ نے مائیکل کے قریب پہنچ
 کر پوری قوت سے برچھا مارا اور وہ ایک پٹا کھانے کے بعد نیچے گر پڑا۔ برچھے کی تیز نوک
 اس کے سینے کے آدے پار ہو چکی تھی، وہ تڑپ رہا تھا۔

اینجلا ربیعہ کے ساتھ لپٹ گئی۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ ربیعہ اربیعہ ابا میں سمجھ
 رہی تھی کہ تم مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی ہو۔

وہ کہہ رہی تھی۔ "مجھے برچھا تلاش کرنے میں دیر لگی۔ مجھے باہر کے کونے کی سیڑھی سے
 اتر کر احمد کے کمرے میں جانا پڑا۔"

"لیکن تم نے اُسے قتل کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ نہیں! نہیں! ربیعہ! تم نے اُسے قتل
 نہیں کیا، اُسے میں نے قتل کیا ہے اور میں بڑی سے بڑی عدالت کے سامنے اس بات کا
 جواب دے سکوں گی کہ میں نے اُسے کیوں قتل کیا ہے۔ ابھی اس کے سپاہی آجائیں گے تم
 اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ ربیعہ جلدی کرو۔ خدا کے لئے۔"

ربیعہ نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ "نہیں! اینجلا! تم مجھے اس نیکی کے ثواب
 سے محروم نہ کرو۔"

"نہیں! ربیعہ! میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ نہیں نہیں کبھی نہیں۔" اینجلا
 پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔

ربیعہ نے کہا۔ "اینجلا تمہارا لباس! تمہارا جسم! تمہاری ساری چیزیں جو رہا ہے چلو اپنا لباس
 تبدیل کرو۔"

اینجلا نے کہا۔ "پہلے یہ وعدہ کرو کہ تم اس معاملے میں خاموش رہو گی۔"

ربیعہ جواب دینے کی بجائے اُسے بازو سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف
 لے گئی۔ گیلری میں کوئی نہ تھا۔ مائیکل کے آدمی نیچے شور مچا رہے تھے۔

وہ چھوٹا سا کمرہ جس میں اینجلا کے کپڑے اور آرائش کا دوسرا سامان تھا اس کے سونے کے کمرے کے پیچھے تھا۔ اینجلا نے اس کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر تاریکی تھی اس لئے ربیعہ نے دوسرے کمرے سے شمع اٹھا کر اندر رکھ دی اور اینجلا سے کہا تم جلدی سے اندر جا کر لباس تبدیل کرو۔ میں یہاں کھڑی ہوں۔“

جب اینجلا لباس تبدیل کر رہی تھی۔ ربیعہ نے دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اینجلا اندر سے چلا رہی تھی۔ ”ربیعہ! ربیعہ! خدا کے لئے دروازہ کھول دو۔“ ربیعہ نے کہا۔ ”اینجلا خدا حافظ۔“

اس نے اندر سے کہا۔ ”نہیں نہیں! زندگی اور موت میں میرا اور تمہارا ساتھ تھا تم میرے ساتھ دھوکا کر رہی ہو۔ ربیعہ! میری ربیعہ! میری بہن! اینجلا اور رہی تھی۔“

ربیعہ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ ”اینجلا! تمہارے دل میں یہ خیال کیونکر پیدا ہوا کہ میں تمہیں اپنے لئے خودکشی کی اجازت دے سکتی ہوں۔ تمہیں یاد ہے تم نے الحرام میں ان کی جان بچانی تھی۔ اس وقت مجھے ان پر کسی کا احسان گوارا نہ تھا۔ مجھے تمہاری جرات پر رشک آتا تھا۔ اینجلا! یہ ایک ایسا احسان تھا جس کا بدلہ شاید میں اس زندگی میں نہ دے سکتی۔ میرے متعلق تمہارا ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ میرا دل کمزور ہے اور اب بھی تمہیں شاید میری کمزوری پر ترس آ رہا ہے لیکن میں اپنا فرض پہچانتی ہوں۔“

اینجلا نے اندر سے کہا۔ ”ربیعہ! دروازہ کھول دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں خاموش رہوں گی۔“

”نہیں اینجلا! میں جانتی ہوں جب وہ بیٹریوں کی طرح میری بوٹیاں نوچیں گے تم سے دیکھا نہیں جائے گا۔ تم خاموش نہیں رہ سکو گی۔“

اینجلا نے کہا۔ ”ربیعہ! میری بات سنو! کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم یہاں سے فرار ہو جائیں۔“

”تم جانتی ہو کہ اس قسم کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اول تو یہ ممکن نہیں لیکن اگر ہم کسی طرح قلعے سے باہر بھی نکل جائیں تو شہر میں ہمارے لئے کوئی پناہ نہیں۔ صبح تک ہر گھر پر فوج بجا پرا ہوگا۔ اگر ہم شہر سے نکلنے میں بھی کامیاب ہو جائیں تو صبح تک سارا شہر شکاری کتوں کی طرح ہمارا تعاقب کر رہا ہوگا۔ ایچلا! میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں موت سے کیوں بھاگوں۔ میں لوشہ کی عدالت میں یہ کیوں نہ کہوں کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ میں ان سے رحم کی التجا بھی نہیں کروں گی۔ میرا باپ قوم کا غدار ہے۔ اسے غداری کا صلہ ملنا چاہیے ممکن ہے کہ میری قربانی کے بعد اس پر توبہ کا دروازہ کھل جائے۔“

ربیعہ کو محل کے دروازے کی طرف آدمیوں کا شور سنائی دیا۔ وہ گیلری کی طرف بھاگی اور ایک لمحہ پیچھے جھانکنے کے بعد واپس آکر لہلہائی۔ ایچلا! لوگ دروازے پر جمع ہو رہے ہیں۔ شاید کو تو ال کے گھر سے کوئی اس کا پتہ کرنے آیا ہے اور مائیکل کا کوئی آدمی اُسے باخبر کرنے کے لئے اُپر آجائے۔ میں جاتی ہوں۔ ایچلا! خدا حافظ۔“

”نہیں نہیں ربیعہ! میری بات سنو! میں موت کی آغوش تک تمہارا ساتھ دوں گی۔“

ربیعہ ٹھہرو۔ ربیعہ! ربیعہ! اے ربیعہ!
ربیعہ جا چکی تھی +

(۴)

ایچلا کو خدا حافظ کہنے کے بعد ربیعہ اس کمرے میں پہنچی جہاں مائیکل کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کا خون قالین پر منجمد ہو چکا تھا۔ اس کی شکل سخت ہیبت ناک بن چکی تھی۔ ربیعہ نے دوسرے کمرے سے ایک چادر لاکر اس کے منہ پر ڈال دی اور خود ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔

تھوڑی دیر بعد اُسے سیڑھی پر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ کسی نے دروازے کے قریب پہنچ کر کہا: ”آقا! بہت دیر ہو گئی، کو تو ال کے آدمی آپ کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔“

ربیعہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پا کر اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر جھانکتے ہوئے بولی: "ادھر آؤ میرے کمرے میں ایک شرابی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ دیکھو تم اسے پہچانتے ہو؟"

سپاہی بدحواس ہو کر اندر داخل ہوا۔ ایک تانیہ کے لئے اس نے ربیعہ کی طرف دیکھا اور پھر جھبک کر کپڑا اٹھا دیا: "جان مائیکل! وہ بدحواس ہو کر چلا یا۔"

ربیعہ نے کہا: "تم اسے جانتے ہو؟"

سپاہی نے جواب دیا: "یہ شہر کا گورنر ہے، ریفرڈینڈ کا مشہور ناٹھ ہے۔ یہ ملکہ کا رشتہ دار ہے۔ اسے کس نے قتل کیا؟"

ربیعہ نے کہا: "تمہیں مجھ سے اس کے متعلق کوئی سوال پوچھنے کا حق نہیں۔ تم جا کر کو تو ال کو اطلاع دو۔"

لیکن اس کے بدلے ہم سب کو پھانسی دی جائے گی۔ ہم جانے سے پہلے اس کے قاتل کو گرفتار کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔"

"اس کو میں نے قتل کیا ہے۔"

سپاہی ایک لمحے کے لئے مبہوت ہو کر ربیعہ کی طرف دیکھتا رہا۔

ربیعہ نے چلا کر کہا: "جاتے کیوں نہیں، میری طرف کیا دیکھ رہے ہو۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اس شہر کا اصلی حاکم میرا باپ ہے۔ وہ اس شہر کا حاکم ہی نہیں فرڈینڈ کا دوست بھی ہے۔ تم ایسے شخص کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیتے ہو جو شراب پی کر شرفا کے گھروں میں گھس آتا ہے۔ میں پوچھتی ہوں تم اس وقت کہاں تھے جب اس کمرے میں ایک بے بس لڑکی چینی مار رہی تھی۔ تم نیچے قہقہے لگا رہے تھے۔ میں تمہیں حکم دیتی ہوں جاؤ اور نہ تمہارے لئے اچھا نہ ہوگا اور دیکھو جب تک کو تو ال نہ آجائے تمہارے کسی ساتھی کو اڈ پر آنے کی اجازت نہیں۔"

سپاہی پریشانی کی حالت میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اُسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ ربیعہ کی طرف گھور کر دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔

(۵)

سپاہی کے جانے سے تھوڑی دیر بعد ربیعہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی اور باہر کی گلیری میں کھڑی ہو کر نیچے جھانکنے لگی۔ اینجلا کے کمرے سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آرہی تھی۔ ربیعہ اس کے کمرے کی طرف بڑھی لیکن دروازے پر اس کے پاؤں رُک گئے۔ اینجلا کی آواز سنائی دی۔ "ربیعہ! ربیعہ!" ربیعہ کچھ دیر تذبذب کی حالت میں وہاں کھڑی رہی اور پھر دبے پاؤں واپس چلی آئی۔

گلیری کے کونے سے وہ تنگ دتاریک سیڑھیوں پر چڑھتی ہوئی مکان کی چھت پر جا پہنچی۔ چاند کی دلفریب روشنی میں اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ چاند کی پیشانی سے نور کے چشمے پھوٹ رہے تھے، ستارے مسکرا رہے تھے۔ یہ دنیا اسی طرح قائم تھی اور اس دنیا میں زندگی کی تمنا بیدار کرنے کے لئے ہزاروں سامان تھے۔ ربیعہ ان تمام دلچسپیوں کو خیر باد کہہ رہی تھی، لیکن ان تمام دلچسپیوں کا مرکز اپنی جگہ پر موجود تھا۔ زندگی کے عادات ربیعہ کے دل سے بد مغیرہ کی تمنا نہ چھین سکے۔ طوفان گزر چکے تھے۔ اب وہ ٹھنڈے دل سے اپنے مستقبل کے متعلق غور کر رہی تھی۔ اُسے قید خانے کی تاریکی کا خوف نہ تھا۔ اُسے پھانسی پر لٹکنے یا آگ میں جلانے جانے کا ڈر نہ تھا۔ موت کا آہرہ اس کے لئے بھیانک نہ تھا۔ لیکن اپنے دل میں بدر بن مغیرہ کی تمنا لے کر موت کے دروازے پر دستک دینا اس کے لئے ہمت آزمایا ضرور تھا۔ کاش وہ مرنے سے پہلے اُسے دیکھ سکتی۔ کاش وہ اُس سے یہ کہہ سکتی کہ میں ایک نئی زندگی میں تمہارا انتظار کروں گی کاش وہ اس کے لئے زندہ رہ سکتی! کاش اس کی موت کے بعد یہ چاند، یہ ستارے بدر

کو اس کی یاد دلا سکتے۔ اُسے یہ بتا سکتے کہ اسی کی زندگی میں کوئی شام ایسی نہ تھی جب وہ اس کی یاد سے غافل تھی۔

ربیعہ نے اپنے دل میں کہا: "لیکن میں کیا سوچ رہی ہوں۔ بدر صرف میرے لئے نہیں وہ قوم کا سپاہی ہے۔ وہ مجھ جیسی ہزاروں لڑکیوں کی ناموس اور عصمت کی حفاظت کے لئے لڑ رہا ہے۔ میں کس قدر نادان ہوں۔ میں یہ سمجھ رہی ہوں اس وقت وہ بھی کسی سپاہی پر کھڑا اس چاند، ان ستاروں کو دیکھ رہا ہو گا اور یہ اس کے دل میں میری یاد تازہ کر رہے ہوں گے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ وہ میری آہیں سن رہا ہے، میرے آنسو دیکھ رہا ہے لیکن یہ اس کی توہین ہے۔ اس کا تصور میری ذات تک محدود نہیں رہ سکتا۔ وہ اس وقت ہزاروں بے کس لڑکیوں کی چیخیں سن رہا ہو گا۔ ان کے آنسو دیکھ رہا ہو گا۔ آنسوؤں اور آہوں کے اس طوفان میں اس کے لئے میری آواز پہچاننا بھی مشکل ہو گا۔ وہ کسی سپاہی کی چوٹی پر کھڑا چاند سے میرا ذکر کرنے کی بجائے اس سے یہ کہہ رہا ہو گا: "تم نے میری قوم کا عروج بھی دیکھا ہے۔ آج اس کا زوال بھی دیکھ لو۔ تم نے اس سرزمین پر طلوق اور عبدالرحمن کا جاہ و جلال دیکھا ہے آج ابو عبداللہ کی ذلت اور رسوائی دیکھ لو۔ تم نے اندلس کے ساحل پر ان مجاہدوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنا سفینہ جلا دیا تھا۔ آج ان ملتِ فردشوں کو بھی دیکھ لو جو دشمن سے قوم کی عزت اور آزادی کی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ تم نے ہمارے شہسواروں کو میدانِ کارخ کرتے دیکھا ہے آج انہیں غرناطہ کی چار دیواری میں سمٹے ہوئے بھی دیکھ لو۔ کیا تم پہچانتے ہو کہ یہ وہی قوم ہے جو شہنشاہوں کے تاج اتار کر غلاموں کے سر پر رکھ دیا کرتی تھی؟ کیا یہ وہی قوم ہے جس کے فرزند اپنی ایک غریب بہن کی عزت کی خاطر بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر و زبر کر دیا کرتے تھے۔

تھوڑی دیر بعد جب ربیعہ تپتے اتر رہی تھی اس کے دل کا بوجھ اتر چکا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی: "ربیعہ! اجتماعی مصائب کے اس دور میں تیری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں لیکن

اگر تو چاہے تو اپنی موت کو اندلس کی تاریخ کا ایک قابل ذکر واقعہ ضرور بنا سکتی ہے۔ اگر موت ناگزیر ہے تو تجھے بہادری سے اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ تجھے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ظلم کے ہاتھ قابل نفرت ہیں، خونناک نہیں۔ تیرا اور بدر کی زندگی کا مقصد ایک ہے۔ وہ باطل کے خلاف لڑ رہا ہے اور توحی کے لئے قربانی دے رہی ہے۔ قیامت کے دن تو اس کا دامن تھام کر یہ کہہ سکے گی کہ ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔

(۶)

شہر کا کوتوال، فوج کے چند افسر، بشپ اور چند بااثر لوگ مائیکل کی تلاش کے گرد کھڑے تھے۔

کوتوال اس سپاہی کو جو اسے اس حادثے کی خبر دینے گیا تھا ڈانٹ ڈپٹ رہا تھا "تم بیوقوف ہو۔ اس مکان سے باہر نکلنے کے کئی راستے ہوں گے وہ یقیناً قلعے سے نکل چکی ہے۔ تم نے اپنے ساتھیوں سے قلعے کا دروازہ بند کرنے کے لئے بھی نہ کہا میں پوچھتا ہوں تم نے اسے گرفتار کیوں نہ کر لیا؟"

کوتوال فوج اور پولیس کے دوسرے افسروں کی طرف متوجہ ہوا۔ "تم یہاں کیا دیکھ رہے ہو۔ جاؤ شہر کی ناکہ بندی کر دو اور مسلمانوں کے گھروں کی تلاشیاں شروع کر دو۔ کچھ آدمیوں کو اس محل کی تلاشی لینے کے لئے چھوڑ دو۔"

"محل کی تلاشی لینے کی ضرورت نہیں۔" ربیعہ نے گیدی کی طرف سے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔

سب دم بخود ہو کر اس کی طرف رہے تھے۔ وہ اطمینان کے ساتھ آگے بڑھی۔ اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی وقار تھا۔

کوتوال نے کہا: "جان مائیکل کو تم نے قتل کیا ہے؟"

”ہاں! اس آدمی کو جو ہمارے گھر میں شرمناک ارادہ لے کر آیا تھا میں نے قتل کیا ہے۔“
 ”اس قتل میں تمہارے ساتھ کوئی اور بھی شریک تھا؟“
 ”نہیں۔“

میریا مانتی کانتی ہوتی مکرے میں داخل ہوتی۔ ربیعہ! اینجلا کہاں ہے؟ وہ کہاں
 گئی۔ اُسے کیا ہوا؟ خدا کے لئے بتاؤ۔“

اس نے جواب دیا۔ اینجلا یہیں ہے۔ آپ اس کی فکر نہ کریں۔“
 ”لیکن وہ ہے کہاں؟“

”اس لاش کو دیکھ کر اُسے بہت صدمہ ہوا۔ وہ چنچیں مارتی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔
 میں نے اُسے اُس کے سونے کے کمرے کی ساتھ والی کوٹھڑی میں بند کر دیا ہے لیکن آپ
 اُسے ابھی یہاں نہ لائیں تو اُس کے لئے بہتر ہوگا۔ مجھے ڈر ہے کہ یہاں آکر اُسے پھر غشی
 کا دورہ نہ پڑ جائے۔“

میریا بھاگتی ہوئی اینجلا کے کمرے میں پہنچی اور اینجلا! اینجلا کہتی ہوئی کوٹھڑی کے
 دروازے کی طرف بڑھی۔

اینجلا اندر سے چلائی۔ ”ربیعہ کہاں ہے؟ خدا کے لئے میرا دروازہ کھولو۔ اُسے
 میں نے قتل کیا ہے۔ اُسے میں نے قتل کیا ہے۔ ربیعہ بے گناہ ہے۔“
 میریا کا ہاتھ کندھی تک پہنچ کر رک گیا اور اس نے بھاگ کر گیلری کی طرف کھنسنے والا
 دروازہ بند کر دیا۔

دوسری طرف شہر کا کوتوال عجیب کش مکش میں تھا۔ جان مائیکل کا قتل معمولی بات نہ
 تھی لیکن اس کا قاتل ایک ایسے آدمی کی بیٹی تھی جس پر فرڈنسنڈ بہت مہربان تھا۔ عدالت
 کے فیصلہ سے پہلے اس کے لئے گورنر کی لڑکی کو گرفتار کر کے عام قیدیوں کی طرح رکھنا
 مشکل تھا اور اس کے ساتھ ہی اُسے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اس نے تذبذب سے کام لیا

تو نہ صرف شہر کے عیسائیوں کی راستے عامہ اس کے خلاف ہو جائے گی بلکہ اُنڈلس کے تمام
 نائٹ اس کے دشمن بن جائیں گے۔ شام کو میر یا کو بھی پر تنہا جاتے دیکھ کر مائیکل نے اُسے
 یہ پیغام بھیج دیا تھا کہ مجھے شاید ایک ضروری کام کی وجہ سے دیر ہو جائے لیکن میں میرا یہ
 چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اس لئے میری آمد تک اسے ہر ممکن طریقے سے روکنے کی کوشش کرو۔
 اب کو تو ال پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ وہ ضروری کام کیا تھا۔ لیکن وہ ایک شرابی اور بدچلن
 ہونے کے باوجود ایک نائٹ تھا اور ربیعہ ابو داؤد کی بیٹی ہونے کے باوجود ایک مسلمان لڑکی
 تھی۔ تاہم اُسے اس بات کا اندیشہ تھا کہ ابو داؤد اپنی خدمات کے عوض اپنی بیٹی کے خلاف
 بڑی سے بڑی عدالت کا فیصلہ تبدیل کر داسکے گا۔

کو تو ال نے بشپ سے مشورہ لیا تو اس نے کہا: "میرے خیال میں جب تک عدالت
 کوئی فیصلہ نہیں دیتی اس لڑکی کو اسی قلعے کے کسی علیحدہ کمرے میں بند رکھا جائے یا کم از کم جب
 تک نیا گورنر نہیں آتا اس وقت تک اُسے عام قیدیوں کے ساتھ نہ رکھا جائے۔ اس دوران میں
 آپ بادشاہ سلامت سے بھی اس لڑکی کے متعلق ہدایات لے سکیں گے۔"

(۷)

ایک ہفتہ اینجلا شدید بخار میں مبتلا رہی۔ اُسے جب کبھی ہوش آتا وہ "ربیعہ! ربیعہ" کہتی
 ہوتی اٹھ بیٹھتی۔ کبھی کبھی وہ ہوش میں اپنے کمرے سے بھاگ کر باہر نکلنے کی کوشش کرتی لیکن
 چند قدم چلنے کے بعد بے ہوش ہو کر گر پڑتی۔ کبھی میر یا کو نوکروں کی مدد سے اُسے زبردستی بستر
 پر لٹانا پڑتا۔ وہ بے بسی کی حالت میں چلاتی: "مجھے چھوڑ دو، مجھے اُس کے پاس جانے دو۔ مائیکل
 کو میں نے قتل کیا ہے۔ وہ میری وجہ سے قتل ہوا ہے۔ وہ میری جان بچانے کے لئے اپنی
 تدبیر دے رہی ہے۔" میر یا گھبرا کر دروازے بند کر لیتی۔ شہر کی خواتین اس
 کی تیارداری کے لئے آتیں لیکن میر یا کسی نہ کسی بہانے انہیں اینجلا کے کمرے میں

جانے سے روک دیتی۔ میرے یا کو یہ پریشانی بھی تھی کہ کہیں ان دنوں ابو داؤد نہ آجائے۔ اُسے اس بات کا ڈر تھا کہ وہ اینجلا کے لئے ربیعہ کو قربان نہیں ہونے دے گا۔ اینجلا کی نسبت وہ ربیعہ سے زیادہ پیار کرتا تھا اس لئے میرے یا نے اُس کو اس واقعے کی اطلاع نہ بھیجی۔ پہلے اُسے ربیعہ کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ کہیں عدالت میں وہ اپنے بیان سے پھر نہ جائے لیکن یہ خطرہ اب ٹل چکا تھا۔ ربیعہ پادریوں کی عدالت میں اپنے جرم کا اقبال کر چکی تھی۔

عدالت کے نام از ابیلہ کا یہ حکم آچکا تھا کہ جان مائیکل کے قاتل کو سخت سزا دی جائے مائیکل کے قتل کے بعد عیسائیوں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ وہ اس کے جنازے میں شریک ہونے سے پہلے کئی مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اُتار چکے تھے۔ شہر کا کو تو ال شیلیہ کے حاکم اعلیٰ کو لکھ چکا تھا کہ اگر اس لڑکی کو فوراً سزا نہ دی گئی تو شہر میں سخت بد امنی کا خطرہ ہے۔ فرٹھینڈ کو میدان جنگ میں اس واقعے کی اطلاع ملی۔ اگر مقتول کوئی اور ہوتا تو شاید وہ اس معاملے کو دبانے کی کوشش کرتا لیکن مائیکل اس کا ناطہ تھا۔ وہ ملکہ کا قریبی رشتہ دار تھا اور ملکہ یہ سننے کے لئے تیار نہ تھی کہ قاتل کون ہے اور اس کے باپ کی خدمات کیا ہیں۔ جان مائیکل بہر حال ایک ناطہ تھا اور اس کی قاتل ایک مسلمان لڑکی تھی۔

چھ ماہ قبل یہ واقعہ رونما ہوتا تو شاید فرٹھینڈ یا ملکہ ابو داؤد کی دل آزاری سے بچنے کی کوشش کرتے لیکن اب اس سے کام لیا جا چکا تھا۔ اب اس کی اُن تھک کوششوں کے باعث اندلس کے ہر شہر میں کئی ملت فروش پیدا ہو چکے تھے۔ وہ سردار اور علماء جنہیں اہل غرناطہ میں انتشار ڈالنے کے لئے ابو داؤد نے تربیت دے کر بھیجا تھا اب براہِ راست فرٹھینڈ سے تعلق پیدا کر چکے تھے۔ وہ زیادہ از کم حاصل کرنے کے لالچ میں ابو داؤد کی بجائے فرٹھینڈ اور ملکہ کو اپنی کارگزاری سے مطلع کرتے تھے۔ بادشاہ اور ملکہ کو اب یہ اطمینان تھا کہ ان کے پاس سینکڑوں آدمی ایسے ہیں جو ابو داؤد کی جگہ لے سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ غرناطہ کی

رہی سہی قوتِ مدافعت کچھنے کے لئے انہیں سپاہیوں کی تواریخوں کی ضرورت ہے اور اگر مائیکل کے قاتل کو سزا نہ دی گئی تو فوج میں بددلی پھیل جائے گی۔ بڑے بڑے نائٹ مخالف ہو جائیں گے۔

ملکہ نے بادشاہ سے کہا: "آخر ہماری جنگ کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ مسلمانوں سے کلیسا کی عظمت کا لوہا منوایا جائے۔ کیا کلیسا کے لئے یہ بات باعثِ رسوائی نہیں کہ ایک مسلمان لڑکی مائیکل جیسے نائٹ کو قتل کرے اور ہم انتقام نہ لے سکیں۔ ابو داؤد نے کلیسا سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے۔ وہ ہمارے سامنے کئی بار یہ کہہ چکا ہے کہ اُسے مسلمانوں سے قطعاً کوئی ہمدردی نہیں۔ وہ صرف اس لئے مسلمان ہے کہ اس لباس میں وہ مسلمانوں کو دھوکا دے دے کہ کلیسا کی بہت بڑی خدمت کر سکتا ہے۔ اب اس کے امتحان کا وقت آیا ہے۔ اگر وہ ہمیں فریب نہیں دیتا تو اُسے اس لڑکی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے جس نے ہمارے بہترین سپاہی کو قتل کیا ہے۔ وہ لڑکی مسلمان ہے اور اُس نے مائیکل کو مذہبی جنون میں قتل کیا ہے۔ ہم نے ابو داؤد کی خدمات کا اُسے کوئی کم صلہ نہیں دیا۔ ہم نے اُسے گوشہ کا گورنر بنایا۔ ہم نے اُسے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ ہمارے خزانے سے جتنا چاہے خرچ کرے۔ اب وفاداری کا تقاضہ یہ ہے کہ اگر ہم اسی کو مقدمے کے فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیں تو بھی وہ اپنی بیٹی کو سزا دینے سے نہ ہچکچاتے۔"

فرط غنڈ نے کہا: "مجھے ڈر ہے کہ جب وہ میرے پاس آئے گا میں عدالت کا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔"

ملکہ نے برہم ہو کر کہا: "تم بادشاہ ہو اور تمہاری ملکہ یہ برداشت نہیں کرے گی کہ ایک نوکر تمہیں کلیسا کی کسی عدالت کا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دے۔"

ملکہ کے اصرار پر بادشاہ نے نئے گورنر کو یہ ہدایت بھیجی کہ وہ مجرم کو عدالت سے سزا دلوانے میں تاخیر نہ کرے۔

(۸)

ربیعہ عدالت کے سامنے کھڑی تھی۔ مکرے کے اندر اور باہر آدمیوں کا ہجوم تھا چادر یوں
 کی جیوری شپ کو اپنا فیصلہ دے چکی تھی۔ ربیعہ اپنے جرم کا اقبال کر چکی تھی۔ کو تو ال اور ماسکل
 نے نوکروں کی شہادت کے بعد عدالت نے کسی اور گواہی کی ضرورت محسوس نہ کی۔ دو دن
 قبل ربیعہ نے عدالت کے سامنے جو بیان دیا تھا اس سے وہ اپنے آپ کو بدترین سزا کی
 مستحق ثابت کر چکی تھی۔ اس نے عدالت کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے کلیسا کی توہین کی تھی۔
 اس نے کہا تھا:

”میں اس عدالت کو تسلیم نہیں کرتی جو ایک شرابی
 اور بد معاش کو یہ اجازت تو دے دیتی ہے کہ وہ لوگوں کے
 گھروں میں گھس کر من مانی کرے لیکن ایک بے کس لڑکی کو
 اپنی عصمت کی حفاظت کے لئے ہاتھ اکھٹانے کی اجازت
 نہیں دیتی۔ تم اس وقت کہاں تھے جب تمہارا یہ نائٹ
 لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑا کرتا تھا جب معصوم
 اور بے کس لڑکیاں چلا چلا کر تمہیں مدد کے لئے پکارا
 کرتی تھیں۔ جب وہ کہا کرتی تھیں: عدل و انصاف کے
 اجارہ دارو! آؤ ہماری عصمت لٹ رہی ہے۔ ہمیں بچاؤ۔
 تمہیں مجھ پر مقدمہ چلانے کی ضرورت نہ تھی۔ تم مجھے مقدمہ
 چلانے بغیر بھی تو مزادے سے لے سکتے تھے۔ کلیسا کی عظمت
 کا لوہا منوانے کے لئے تم مجھ جیسی سینکڑوں لڑکیوں کو
 مقدمہ چلانے بغیر موت کے گھاٹ اتار چکے ہو۔ تمہارا دامن

بے گناہوں کے خون سے تر ہے۔ میرے خون کے
 چند چھینٹے اُس کی بدنمائی میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ تم
 انصاف نہیں کر سکتے اور میں تم سے رحم کی بھیک مانگنا
 انسانیت کی توہین سمجھتی ہوں۔ تم نے اب تک مجھ سے
 یہ نہیں پوچھا کہ میں نے اُسے قتل کیوں کیا۔ تم نے
 مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کس ارادے سے میرے کمرے
 میں داخل ہوا تھا۔ تمہارے لئے فقط یہ جاننا کافی
 ہے کہ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ ایک مسلمان لڑکی نے
 اپنی عصمت کی حفاظت کے لئے تمہارے ایک نائٹ
 کو قتل کیا ہے۔ تم حیرت سمجھتے ہو کہ اس درندے کی موت
 کے بعد تمہارے کلیسا کا ایک ستون گر چکا ہے۔ تم
 مجبور ہو کہ مجھے سزا دو۔ میرے ساتھ انصاف کرنا تمہارے
 بس کی بات نہیں۔ تم اندلس میں کلیسا کی نئی عمارت
 کے معمار ہو۔ تم نے اس کی بنیاد بے گناہوں کے خون اور
 ہڈیوں پر رکھی ہے۔ میری موت کا فتویٰ دینے کے لئے
 تم صرف یہ جاننا کافی سمجھتے ہو کہ میں بے گناہ ہوں۔ میں
 نے اپنی عزت بچانے کی کوشش کی ہے۔ میں ایک
 مسلمان ہوں اس لئے میرا خون اور میری ہڈیاں کلیسا کی
 عمارت کی تعمیر کے کام میں لائی جاسکتی ہیں۔ میں نے
 صرف ایک جان مائیکل کو قتل کیا ہے لیکن تم سب جان
 مائیکل ہو۔ وہ شراب میں بدست ہو کر بے بس مسلمانوں کو

موت کے گھاٹ اُتارنا تھا اور تم انصاف کی کرسیوں پر
بیٹھ کر بے گناہوں کی موت کے فتوے دیتے ہو وہ انسانیت
کا منہ نوحیا تھا، تم حق و صداقت کی آواز کا گلا کاٹتے

ہو“

دو دن پہلے یہ بیان دینے کے بعد آج رابعہ اپنے مقدمے کا فیصلہ سننے کے لئے عدالت
میں کھڑی تھی۔ لوشہ کا بشپ جان لوقس اس مقدمے کے بڑے جج کی حیثیت میں نئے گورنر
ڈان لوئی کا وہ فیصلہ پڑھنے کے لئے تیار نہ تھا جس پر باقی پادری متفق ہو چکے تھے۔ اس کا
فیصلہ یہ تھا کہ لڑکی کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اس نے جان مائیکل پر بھی جرم عائد کرنے کی کوشش
کی تھی۔ گورنروں اور پادریوں کا یہ خیال تھا کہ جان لوقس پر رابعہ نے جادو کر دیا ہے۔ اس لئے
فیصلہ کے دن بڑے جج کی کرسی پر ایک اور پادری رونق افروز تھا۔

عدالت کے اندر آمد باہر جو لوگ جمع تھے انہیں معلوم تھا کہ اس مقدمے کا فیصلہ کیا ہوگا۔
رابعہ کلیسا کی عدالت کی توہین کر چکی تھی۔ اس نے کلیسا کے ایک سپاہی کو قتل کیا تھا۔ بعض
لوگوں کو بشپ لوقس کی غیر حاضری کی وجہ معلوم ہو چکی تھی اور وہ رابعہ کو ایک خطرناک جادو گرنی
سمجھتے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے کاناپھوسی کر رہے تھے۔ اُسے پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔
”اُسے آہنی شکنجے میں کسا جائے گا۔“ اُسے زندہ جلایا جائے گا۔

لوگوں کو خاموشی کا حکم دینے کے بعد جج نے اپنا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ حاضرین رابعہ کی طرف
دیکھ رہے تھے۔ اُس کی موت کا حکم صادر ہو چکا تھا لیکن وہ خاموش کھڑی تھی۔ جب جج نے یہ کہا
کہ طہیزہ کلیسا اور عدالت کی توہین کے بعد سخت سے سخت سزا کی مستحق تھی لیکن اس کے باپ کی
خدمات کا لحاظ رکھتے ہوئے عدالت اُسے زندہ جلانے کی بجائے اُس کے قتل کا حکم صادر
کرتی ہے۔ ایک نوجوان لڑکی ہجوم کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی اور رابعہ کے قریب پہنچ کر چلائی
”کھڑو! انصاف اور انسانیت کا خون نہ کرو۔ جان مائیکل کو میں نے قتل کیا ہے۔“

عدالت میں سناٹا چھا گیا۔

ربیعہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ اینجلا تھی۔ نجج پادری اور حاضرین عدالت تھوڑی دیر کے لئے سناٹے میں آگئے۔ اینجلا اپنی بغل میں ایک چھوٹی سی گٹھری دبائے ہوئے تھی۔

ربیعہ نے نجج سے مخاطب ہو کر کہا۔ "آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ میری سوتیلی بہن ہے۔ اس کے دماغ پر ان واقعات کا بہت بڑا اثر پڑا ہے۔"

اینجلا نے ایک قدم بڑھتے ہوئے کہا۔ "یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ربیعہ نے میری جان بچانے کے لئے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ بے قصور ہے۔ مائیکل کو میں نے قتل کیا ہے اور اُسے قتل کرنا میرا فرض تھا۔"

نجج نے سوال کیا۔ "تم آج تک کہاں تھیں؟"

اینجلا نے جواب دیا۔ "مائیکل کے قتل کے بعد ربیعہ نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں چند دن بے ہوش رہی۔ میری ماں نے میرے کمرے پر پہرہ بٹھا رکھا تھا۔ میری بہن کی طرح وہ بھی میری جان بچانا چاہتی تھی۔"

نجج نے کہا۔ "تم اب بھی بجا یہ نظر آتی ہو۔ تمہارا بیان لینے سے پہلے عدالت کے لئے تمہاری دماغی حالت کا امتحان لینا ضروری ہے۔"

اینجلا نے کہا۔ "میرے دماغ پر صرف یہ بوجھ تھا کہ میری بے گناہ بہن میرے لئے اپنی زندگی کی قربانی دے رہی ہے۔ اب یہ بوجھ اتر چکا ہے۔"

"عدالت کو ثبوت کی ضرورت ہے۔"

"ثبوت؟ یہ دیکھئے! اینجلا نے آگے بڑھ کر کپڑے کی چھوٹی سی گٹھری نجج کی میز پر رکھنے

ہوئے کہا۔ "اسے غور سے دیکھو۔ یہ وہ لباس ہے جو میں اس رات پہنے ہوئے تھی۔ اسے تمہارے بہادر نائٹ نے تار تار کیا تھا۔ یہ لباس اس بات کی گواہی دے گا کہ اس رات قتل

ہونے سے پہلے کلیسا کے بہادر سپاہی نے کس کے دامن پر ہاتھ ڈالا تھا۔

عدالت میں پھر ایک بار سناٹا چھا گیا۔

میریا مانپتی ہونی کمرے میں داخل ہوئی اور آگے بڑھ کر اینجلا کے ساتھ لیٹ گئی۔ اینجلا! اینجلا! میری بیٹی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ چلو گھر۔ میرا یہ کہتے ہوئے اُسے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔

حج نے کہا: "کھرو! ہم چند سوالات پوچھنا چاہتے ہیں۔"

اینجلا نے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میریا طبعی ننگا ہوں سے حج کی طرف دیکھتے ہوئے

بولی: "میری بیٹی کا اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ بیمار ہے، اس کے حواس ٹھیک نہیں۔"

حج نے گھڑی کھول کر میریا کو پھٹے ہوئے کپڑے دکھاتے ہوئے کہا: "تم پہچانتی ہو یہ

کس کا لباس ہے؟"

میریا جواب دینے کی بجائے اینجلا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اینجلا نے کہا: "امی! خاموش

کیوں ہو؟ تم نے خود میرے لئے یہ لباس خریدا تھا۔ تمہیں سب واقعات کا علم ہے۔ تم

جانتی ہو کہ وہ میری تلاش میں آیا تھا اور یہ اُس کا دوسرا حملہ تھا۔ پہلی بار جب تم نے اُسے

دعوت دی تھی، اس نے تمہارے سامنے میری بے عزتی کرنے کی کوشش کی تھی بسطلہ کا

بشپ اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے اُس کے سر پر پھولدا ان مار کر اپنی جان بچائی تھی۔

تمہارے پاس وہ خط ہے جس میں اُس نے اپنی حرکت پر نہایت کا اظہار کیا تھا۔ اس کے

بعد اُس رات اُس نے اپنے ذلیل مقاصد کی تکمیل کے لئے تمہیں بڑی ہوشیاری کے ساتھ

گھر سے دُور رکھنے کی کوشش کی تھی۔ تم گھر آنا چاہتی تھیں لیکن کو تو ال نے تمہیں روکے

رکھا۔"

پھر اینجلا نے حج کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا: "میری ماں کی محبت شاید اُسے

حق گوئی کی اجازت نہ دے لیکن بشپ لوقس اس بات کی گواہی دے گا کہ میرے متعلق مائیکل کی نیت ٹھیک نہ تھی۔ میں نے بشپ لوقس کی موجودگی میں اُس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیا تھا اور وہ مجھ سے اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لئے موقع کی تلاش میں تھا۔“

میریا نے انتہائی بے بسی کی حالت میں حج کی طرف دیکھا اور کہا۔ ”مقدس باپ! میری لڑکی بے قصور ہے۔ اس پر ربیعہ کے جادو کا اثر ہے۔ اس نے میری بیٹی کو مذہب سے گمراہ کیا ہے۔ ربیعہ کے جادو کا یہ اثر ہے کہ میری بیٹی چھپ چھپ کر قرآن اور نمازیں پڑھتی ہے۔ میں مائیکل کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتی تھی لیکن ربیعہ نے اسے بہکا دیا۔ ربیعہ اپنے جادو کے زور سے اُس سے جو چاہتی ہے کرواتی ہے۔ اینجلا معصوم ہے۔ اُسے معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ یہ سب ربیعہ کے جادو کا اثر ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ بشپ لوقس پر بھی کہیں ربیعہ کے جادو کا اثر نہ ہو۔ جس دن سے مائیکل قتل ہوا ہے میری بیٹی جنون کے مرض میں مبتلا ہے۔ یہ دروازے توڑ کر باہر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ لباس جو آپ دیکھ رہے ہیں اس نے جنون کی حالت میں تیار کیا ہے۔“

اینجلا نے حقارت کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر حج کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی۔ ”میری بہن میرا جرم اپنے سر لے چکی ہے۔ میرے متعلق اگر اُس کی نیت بُری ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتی لیکن میری ماں اس کے ایشیا سے متاثر ہونے کی بجائے صرف میری جان بچانے کے لئے حقیقت کے چہرے پر نقاب ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میری ماں کا خیال ہے کہ ربیعہ چونکہ مسلمان ہے اس لئے عدالت اس کے متعلق ہر غلط بات مان لے گی۔ اُسے یقین ہے کہ ایک مسلمان لڑکی پر اگر کوئی اور جرم عائد نہ ہوتا تو اُسے جادو گری ثابت کرنا بہت آسان ہے۔ لیکن میں اس عدالت میں اعلان کرتی ہوں کہ اپنی سویلی بہن کی طرح میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ اگر اسلام ایک حساب دو ہے تو مجھ پر اس جادو کا اثر ہو چکا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس جادو کا اثر زائل نہیں کر سکتی۔ مجھے اگر کوئی افسوس ہے تو اس بات کا کہ

میں نے اس سے قبل چھپ چھپ کر نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ میری بزدلی تھی لیکن اب میں زندگی اور موت کے مفہوم سے آشنا ہو چکی ہوں۔ اب مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ اگر مسلمان ہونے کی کوئی مزا ہے تو میں اس کے لئے تیار ہوں لیکن جہاں تک مائیکل کے قتل کا سوال ہے یہ کوئی جرم نہیں۔ وہ ایک وحشی تھا، وہ ایک بد معاش تھا۔ یہ عدالت اس کے متعلق اس لئے پریشان ہے کہ وہ ملکہ کا رشتہ دار ہے۔ کاش! ملکہ کو یہ معلوم ہوتا کہ دنیا کی ہر عورت بالخصوص وہ عورت جو کلمہ توحید پڑھ چکی ہو، اپنی عصمت کو جان سے عزیز سمجھتی ہے۔ کلیسا کی عدالت کو اس بات کا افسوس ہے کہ لوگوں کے دلوں پر کلیسا کی ہیبت بٹھانے والا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ لیکن کاش وہ ہاتھ جنہوں نے میرا لباس تار تار کیا تھا کبھی کلیسا کے علمبرداروں کی ہوبیسٹیوں کی طرف بھی بڑھے ہوتے۔“

جج، پادریوں اور حاضرین عدالت کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ جج نے گرج کر کہا: ”گستاخ لڑکی! زبان بند کرو!“

لیکن اینجلا کی آواز بلند ہوتی گئی۔ بخار کی حالت میں اُسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ شہر کا گورنر ڈان لونی جسے اس مقدمے میں ایک نئی پچیدگی کی اطلاع مل چکی تھی، عدالت کے دروازے میں کھڑا اینجلا کی تقریر سن رہا تھا۔ اینجلا کلیسا کے عدل و انصاف کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ یہاں تک کہہ چکی تھی کہ تم غریبوں، ناداروں اور نہتوں پر ظلم کرتے ہو۔ لیکن طاقت ور کے سامنے بھیڑ بن جاتے ہو۔ تمہیں آٹھ برسوں کی غلامی کے بعد حکومت کا موقع ملا ہے لیکن تم نے ثابت کر دکھایا ہے کہ تم اس کے اہل نہیں ہو۔

ڈان لونی نے آگے بڑھ کر کہا: ”میں عدالت کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ لڑکی اپنے آپ کو بدترین سزا کی مستحق ثابت کر چکی ہے۔ یہ کلیسا کو بدنام کر رہی ہے۔ یہ سلطنت کی غدار ہے۔ یہ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں کہ مائیکل کے قتل کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں کے مقدمات پر نئے سرے سے غور کیا جائے۔“

ایجنلانے ڈان لوئی کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ "اگر تمہارا کلیسا تمہارے وحشیانہ کارناموں سے بدنام نہیں ہوتا تو اُسے میرے الفاظ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری حکومت ظالموں کی پشت پناہی کرتی ہے اور مظلوموں کو فریاد کرنے کا حق نہیں دیتی تو میں ایک باغی ہوں۔ میں اس عدالت کی توہین کرنے میں سق بجانب ہوں جو ایک پاگل کتے کو میری بوٹیاں نوچنے کی اجازت دیتی ہے لیکن مجھے اس کی کھوپڑی توڑنے کی اجازت نہیں دیتی۔"

گورنر کے اشارے پر سپاہی ایجنلا کو دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے۔ وہ بدستور چل رہی تھی "تم ظالم ہو! تم وحشی ہو، تم وہ بزدل ہو جو آٹھ گھنٹے میں اپنی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتے۔" میرا بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ سپاہی اُسے اٹھا کر باہر لے گئے۔ ربیعہ ابھی تک عدالت میں کھڑی تھی۔ گورنر نے آگے بڑھ کر جج کے کان میں کچھ کہا اور وہ سر ہلانے کے بعد ربیعہ کی طرف متوجہ ہوا۔

"کیا تم یہ تسلیم کرتی ہو کہ ایجنلانے جان مائیکل کو قتل کیا ہے؟"

ربیعہ نے جواب دیا: "میں اپنا بیان ختم کر چکی ہوں۔ میرے متعلق عدالت اپنا فیصلہ دے چکی ہے۔ اس نئے میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھتی۔ ایجنلانے جو کچھ کہا ہے عدالت کی حالت میں کہا ہے۔ مائیکل کے قتل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔"

جج نے سوال کیا: "کیا یہ درست ہے کہ ایجنلا اپنے مذہب سے گمراہ ہو چکی ہے؟"

"نہیں ایجنلا گمراہ نہیں ہوتی۔ وہ ایک سچا دین اختیار کر چکی ہے۔"

گورنر نے آگے بڑھ کر پھر جج کے کان میں کچھ کہا اور وہ سر ہلانے کے بعد بولا۔ "اس مقدمے کی نوعیت میں ایک غیر متوقع تبدیلی کے پیش نظر عدالت ملزمہ ربیعہ کے متعلق اپنا فیصلہ واپس لیتی ہے۔ ملزمہ کی سوتیلی بہن کا بیان سننے کے بعد عدالت کی رائے ہے کہ یہ دونوں بہنیں جان مائیکل کی قتل کی سازش میں شریک ہیں اور اس کے علاوہ حکومت کے خلاف بغاوت اور کلیسا کے خلاف نفرت پھیلانے کی مجرم ہیں۔ پولیس کو تحقیقات کا موقع دینے کے لئے عدالت مقدمے کی کارروائی کل پر ملتوی کرتی ہے۔"

(۹)

شام تک میرا بے ہوشی کی حالت میں چلتی رہی۔ جب اُسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے کی بجائے ایک چھوٹے سے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اُس کی خادمہ اس کے قریب ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک تانیہ کے لئے وہ کمرے کی بوسیدہ چھت کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر اچانک اُٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی: "اینجلا کہاں ہے۔ میں کہاں ہوں۔"

خادمہ نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا: "اینجلا بیچہ کے ساتھ قید میں ہے۔" میرا کو عدالت کے تمام واقعات یاد آ گئے اور وہ بستر سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ میں گورنر کے پاس جاتی ہوں۔ وہ میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے۔" خادمہ نے اُٹھ کر اُس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا: "آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ آپ باہر نکلنے کے قابل نہیں ہیں۔"

میرا نے کہا: "نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں لیکن میں ہوں کہاں؟ عدالت میں میں شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ کس کا مکان ہے؟"

خادمہ کے جواب کا انتظار کئے بغیر میرا دروازے سے باہر جھانکنے لگی اور پھر خادمہ کی طرف متوجہ ہو کر بولی: "یہاں کوئی بھی نہیں۔ مجھے اس ٹوٹے ہوئے مکان میں کون لے آیا۔ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ میرے گھر کا سامان اس مکان کے صحن میں کیسے آ گیا؟" خادمہ جواب دینے کی بجائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔

بشپ لوقس صحن میں داخل ہوا اور میرا اُسے دیکھ کر باہر نکل آئی۔ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا: "مقدس باپ! یہ کیا معاملہ ہے۔ میں کہاں ہوں۔ میرے گھر کا سامان یہاں بکھرا پڑا ہے۔ خادمہ مجھے کوئی جواب نہیں دیتی۔"

بشپ نے سرد مہری سے جواب دیا: "یہ سب تمہارے اعمال کی سزا ہے۔"

میر یا ششدر سی ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹی اور انتہائی بے بسی کی حالت میں شہب کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک تازہ کے بعد وہ بھاگ کر باہر کے دروازے کی طرف بڑھی اور باہر بھاگنے کے بعد پھر شہب کی طرف متوجہ ہوتی۔ "مقدس باپ! مجھ پر رحم کرو۔ مجھے بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں یہاں کیسے آئی۔ اینجلا کا کیا ہوگا؟ میری بیٹی کو بچاؤ۔"

"تمہاری بیٹی کو بچانا اب کسی کے بس کی بات نہیں۔ تم نے اپنی سوتیلی بیٹی کے ایثار کی قدر نہ کی۔ تم نے اس پر جادو گہنی ہونے کا الزام لگایا۔ یہ قوف عورت! تمہارا یہ خیال تھا کہ اگر تم ایک مسلمان لڑکی پر بہتان لگاؤ گی تو عدالت کی نگاہ میں اینجلا کا جرم چھپ جائے گا۔ کاش تم پہلے دن ہی اینجلا کو عدالت میں جانے سے نہ روکتیں۔ اس وقت کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ تمہارے پاس اس بات کے کافی ثبوت تھے کہ مائیکل اینجلا کے متعلق بُری نیت لے کر تمہارے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اگر تم یہ حماقت نہ کرتیں تو اس مقدمے کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی۔ لوگوں کو یہی احساس ہوتا کہ اینجلا ایک عیسائی لڑکی ہے اور بادشاہ اور ملکہ کو بھی یہ کہنے کی جرأت نہ پڑتی کہ اپنی عزت بچانے کے لئے اُس نے جو کچھ کیا ہے وہ قابلِ سزا ہے۔ اب وہ دونوں قید میں ہیں اور تمہیں اس حماقت کا یہ صلہ ملا ہے کہ گورنر نے تمہیں بے ہوشی کی حالت میں محل سے نکال کر اس کٹیا میں بھجوا دیا ہے۔"

میر یا کی پھرائی ہوئی آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔ اُس نے آگے بڑھ کر شہب کے پاؤں پر گرتے ہوئے کہا۔ "مقدس باپ! مجھ پر رحم کیجئے۔ اینجلا کو بچائیے۔ خدا کے لئے اینجلا کو بچائیے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ اُس نے مائیکل کو قتل کیا ہے۔ لیکن اگر اُس نے واقعی قتل کیا ہے تو بھی وہ بے گناہ ہے۔ اینجلا نے جو کچھ کیا ہے اپنی عصمت کی حفاظت کے لئے کیا ہے؟"

لوقس میر یا کے آنسوؤں سے متاثر نہ ہوا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولا۔ "بے وقوف عورت! اب رونے سے کیا فائدہ۔ اینجلا کو اس قتل کے باوجود بے گناہ ثابت کیا جاسکتا تھا

لیکن اب تمہاری حماقت سے اس پقتل سے زیادہ سنگین الزامات عائد ہو چکے ہیں۔ کلیسا کی توہین اپنے مذہب سے نفرت اور حکومت کے خلاف بغاوت، یہ معمولی الزامات نہیں۔ اب اس کی جان بچانا میرے بس کی بات نہیں۔“

میریا نے اٹھ کر لوٹس کا دامن پکڑتے ہوئے کہا: "نہیں نہیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ لوٹہ کے بٹپ ہیں۔"

"آج سے میں لوٹہ کا بٹپ نہیں ہوں۔ میں نے کل عدالت میں گورنر کی خواہش کے

مطابق بیان دینے سے انکار کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے لارڈ بٹپ کو اپنا استعفا

بھیج دیا ہے۔ تاہم اینجلا اور ربیعہ کے متعلق میں اپنا فرض پورا کر چکا ہوں۔ میں نے عدالت کو اپنا

تحریری بیان بھیج دیا ہے۔ میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ اینجلا کے متعلق جان مائیکل کے ارادے

کس قدر شرمناک تھے۔ اپنے بیان میں میں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اینجلا مائیکل

کو قتل کرنے میں سچی بجانب تھی۔ لیکن میرا بیان چونکہ گورنر کی مرضی کے مطابق نہیں اس لئے

مجھے یقین ہے کہ عدالت اسے دبا لے گی۔ میں ابوداؤد کے پاس جا رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ

وہ بادشاہ اور ملکہ سے رحم کی درخواست کر سکے۔ اگرچہ جس مقصد کے لئے بادشاہ نے اسے

اس قدر اہمیت دی تھی وہ بہت حد تک پورا ہو چکا ہے۔ فرڈیننڈ غرناطہ کا محاصرہ کر چکا ہے۔

ابوداؤد کی کوششوں سے اہل غرناطہ کا ایک بااثر طبقہ جنگ کا مخالف ہو چکا ہے اور بادشاہ کو

یقین ہے کہ غرناطہ کی فتح کوئی دن کی بات ہے۔ ابوداؤد کی جماعت میں اب کئی لوگ اس کے

رقیب بن چکے ہیں۔ ان حالات میں مجھے یہ امید نہیں کہ بادشاہ رحم کے لئے اس کی درخواست

پر غور کرنے کے لئے تیار ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے تدبیر کے ترکش میں ابھی تک کوئی تیر

باقی ہو اور بادشاہ اسے کارآمد سمجھ کر اس کی درخواست پر غور کرنے کے لئے تیار ہو جائے۔

اب میں تم سے جو ضروری بات کہنے آیا تھا وہ یہ ہے کہ تم کل عدالت میں جا کر یہ کہو کہ جب تک

میں گواہی نہیں دیتا اس وقت تک عدالت اس مقدمے کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اگر عدالت

تمہارا یہ اعتراض رد کر دے اور مقدمے کا فیصلہ دینے میں جلد بازی سے کام لے تو تم اس فیصلے کے خلاف بادشاہ سے لہلہ کرنے کی مہلت مانگو۔ ممکن ہے کہ عدالت تمہیں اپیل کے لئے مہلت نہ دے۔ لیکن تمہارے اس مطالبے کے بعد عدالت اپنے فیصلہ پر بادشاہ کی تصدیق حاصل کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اتنی دیر میں تمہارے خاوند کو دوڑ دھوپ کرنے کا موقع مل جائیگا۔ میری رائے سہرا پالہ تجا بن کر کہا۔ "مقدس باپ! آپ بہت رحم دل ہیں۔ میں آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ آپ کب جا رہے ہیں؟"

"میں آج رات روانہ ہو جاؤں گا۔"

اینگلا اور ربیعہ کا باپ

(۱)

ماہ اپریل ۱۹۹۱ء میں فرڈیننڈ نے غرناطہ پر اپنی پوری فوجی قوت کے ساتھ حملہ کیا۔ بادشاہ اور ملکہ کی طرح اندلس کے تمام ناٹ یہ حلف اٹھا کر آئے تھے کہ وہ غرناطہ فتح کئے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ شاہین کی وادی اور اسپکسرا کے مجاہدین کو اپنے علاقوں میں مصروف رکھنے کے لئے وہ سواروں کی ایک فوج روانہ کر چکا تھا۔ غرناطہ کی فوج کی قیادت موسیٰ کے ہاتھ میں تھی۔ اگرچہ غرناطہ میں منافقین اور غداروں کی ایک بہت بڑی جماعت کام کر رہی تھی۔ تاہم عوام کی اکثریت موسیٰ کے اشاروں پر جان دینے کے لئے تیار تھی۔

فرڈیننڈ اپنی گزشتہ ناکامیوں سے سبق سیکھ چکا تھا۔ اس نے اپنی قوت کی بڑی کے باوجود شہر پر براہ راست حملہ کرنے کی بجائے کچھ دور پڑاؤ ڈال کر قرب و جوار کی بستیوں میں مار دھاڑ شروع کر دی۔ وہ تین اطراف سے غرناطہ کا محاصرہ کر چکا تھا لیکن اس کی فوج شہر پر حملہ کرنے کی بجائے شہر سے باہر باغات جلانے اور فصلیں تباہ کرنے میں مصروف تھی۔ فرڈیننڈ کو یہ یقین تھا کہ ایک طویل محاصرے کے بعد اہل غرناطہ فاتحہ کشی سے تنگ

اگر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں گے اس لئے وہ باہر کے کسانوں کی بستیاں جلانے کے بعد انہیں غرناطہ میں پناہ لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ دو ماہ میں وہ غرناطہ کے تین اطراف میلوں تک سرسبز و شاداب علاقہ ویران کر چکا تھا۔ صرف جبل البشارت کی طرف سے غرناطہ کے لئے باہر کی رسد و ملک کے راستے کھلے تھے۔ اس راستے سیرانویدا کی زیر خیر وادیوں سے ایک محدود مقدار میں رواج سبزیاں اور پھل غرناطہ میں پہنچ رہا تھا لیکن یہ غرناطہ کے لاکھوں انسانوں کے لئے کافی نہ تھا۔ روز بروز اہل غرناطہ کی حالت نازک ہو رہی تھی۔ موسیٰ کے لئے شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں سر ڈھینڈ کی ٹڈی دل کا مقابلہ کرنا آسان نہ تھا۔ اس کے سواروں کے چھوٹے چھوٹے دستے شہر سے باہر نکلتے اور فرڈینینڈ کی فوج کو نقصان پہنچانے کے بعد واپس آجاتے۔ موسیٰ کا خیال تھا کہ آٹھ دن اپنی فوج کے نقصانات میں اضافہ دیکھ کر سر ڈھینڈ شہر پر حملہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا لیکن فرڈینینڈ پر ان نقصانات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کی فوج شہر کے گرد خندقیں اور مورچے بنانے میں مصروف رہی۔

محاصرے کے زمانہ سے متعلق غرناطہ کے شہسواروں کی انفرادی شجاعت کی بے شمار داستانیں مشہور ہیں۔ ایک سوار گھوڑا بھگاتا ہوا شہر سے نکلتا اور دُور سے بلند آواز میں فرڈینینڈ کے کسی مشہور نائٹ کا نام لے کر اُسے مقابلے کی دعوت دیتا۔ ایک نائٹ کے لئے مقابلے کی دعوت پر قبیک نہ کہنا باعثِ عار تھا۔ اُسے مجبوراً میدان میں آنا پڑتا۔ ایسے معرکوں میں عام طور پر غرناطہ کے شہسواروں کا پتہ بھاری رہتا۔ ایک نائٹ سے نپٹنے کے بعد غرناطہ کا شہسوار کسی دوسرے کو مقابلے کے لئے پکارتا۔ ان انفرادی معرکوں میں فرڈینینڈ کے کسی نائٹ مارے جا چکے تھے۔ ایک دن غرناطہ کا ایک سوار میدان میں آیا۔ اس کی زرہ چمک رہی تھی اور آنکھوں کے سوا اس کا تمام چہرہ خود میں چھپا ہوا تھا۔ اس کا گھوڑا نہایت خوبصورت تھا۔ اُس نے فرڈینینڈ کی فوج کی اگلی صف سے کچھ دُور اپنا گھوڑا روکا اور بلند آواز میں کہا: "کوئی ہے جسے موت کی تمنا ہے؟ جب دشمن کی طرف سے

تھوڑی دیر کے لئے کسی نے جواب نہ دیا تو اس نے کہا: "میرا گھوڑا دیکھو، ایسے گھوڑے کی سواری تمہارے بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوتی ہوگی اور میری تلوار میں دو ہیرے جڑے ہوئے ہیں جو تمہارے بادشاہ کے تاج میں بھی نہیں۔ تم میں کوئی ہے جسے اس تلوار اور گھوڑے کی خواہش ہے؟"

کاڈنٹ ٹنڈیلانے اپنا گھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے جواب دیا: "میرے دل میں اس گھوڑے اور تلوار سے زیادہ اس گستاخ زبان کو نوچنے کی خواہش ہے لیکن ایک تازیہ کے بعد فرٹینڈ کے بہترین نائٹ کی لاش خاک و خون میں ترپ رہی تھی۔ مارکوس آف قانس میدان میں آیا لیکن اس کا بھی وہی حشر ہوا۔ اس کے بعد غرناطہ کا شہسوار فرٹینڈ کی فوج کے سات بہترین نائٹ کے بعد دیگرے موت کے گھاٹ اُتار چکا تھا۔ غرناطہ کی فصیل پر سے تماشاخی خوشی کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ شہسوار نے تھوڑی دیر کے لئے مد مقابل کا انتظار کیا اور پھر لولا تمہارا بادشاہ کہاں ہے۔ ان بہادروں کی ارواح دوسری دنیا میں کب تک اس کا انتظار کریں گی۔ اُسے کہو، ایک مرد کی تلوار اس کے خون کا رنگ دیکھنا چاہتی ہے۔"

ایک نائٹ کو جوش آیا لیکن فرٹینڈ نے اس کے گھوڑے کی باگ بکولی اور کہا: "نہیں تمہیں اس کے مقابلے پر جانے کی اجازت نہیں۔"

غرناطہ کے شہسوار نے شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر اپنا خود اُتار دیا۔ پہریاروں نے اس کی تعظیم میں سر جھکا دئے۔ یہ موسیٰ ابن ابی غسان تھا۔ غرناطہ کے مسلمانوں کی آخری تلوار۔

(۲)

ابو داؤد فرٹینڈ کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ انتہائی بے بسی کی حالت میں بادشاہ کے چہرے پر اپنی التجاؤں کا اثر دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ لوشہ کی مذہبی عدالت کے فیصلہ کے خلاف

اُس کی اپیل رد کر چکا تھا۔ انصاف سے مایوس ہو کر ابو داؤد نے رحم کی درخواست کی تھی۔ بادشاہ کی خاموشی اس کے لئے صبر آزما تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اُس کے مقدر کا ستارہ گردش میں آ چکا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ فرڈیننڈ کے سامنے کرسی پر بیٹھنے کی بجائے کھڑا تھا۔ جب وہ اس خیمے میں داخل ہوا تھا تو اُسے یقین تھا کہ فرڈیننڈ حسب معمول آگے بڑھ کر اس کے ساتھ مصافحہ کرے گا، اُسے کرسی پر بٹھانے گا اور اس کی آمد کی وجہ معلوم کرنے کے بعد یہ کہے گا کہ روثہ کے پادری پاگل ہو گئے لیکن جب فرڈیننڈ نے اُسے دیکھتے ہی یہ کہا: "ابو داؤد! مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے لیکن یہ کلیسا کی عدالت کا فیصلہ ہے۔ عدالت نے میرے پاس یہ فیصلہ تصدیق کے لئے بھیجا ہے۔ میں مجبور ہوں۔ تمہاری لڑکیوں سے مجھے یہ توقع نہ تھی۔" ابو داؤد کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ دیر تک بادشاہ کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر شروع کی۔ چند جملوں کے بعد اُس کی تقریر میں روانی آ چکی تھی۔ اس نے رومیہ اور اینجلا کو بے گناہ ثابت کرنے کے لئے کئی دلائل دئے۔ لیکن فرڈیننڈ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا: "تم مجھے قائل نہیں کر سکتے۔ تمہاری لڑکیوں نے اپنے جرم کا اقبال کیا ہے۔ یہ ممکن تھا کہ میں مائیکل کے قتل کا جرم معاف کر دیتا لیکن کلیسا کی توہین اور حکومت کے خلاف بغاوت ایسے جرائم ہیں جو کسی حالت میں بھی قابل معافی نہیں۔ تمہاری ایک لڑکی کے متعلق عدالت یہ یقین کرنے میں حق بجانب ہے کہ وہ جادو گر فی ہے۔ دوسری کے متعلق میں یہ ماننے کے لئے تیار ہوں کہ اس نے جو کچھ کیا یا کہا ہے اس کی وجہ تمہاری دوسری لڑکی کا جادو ہے لیکن حکومت کلیسا اور عدالت کے متعلق اس کے الفاظ میرے لئے بھی ناقابل برداشت ہیں۔ اگر لارڈ شپ کی صاحبزادی بھی یہ الفاظ کہتی تو اس کا انجام بھی تمہاری بیٹی سے مختلف نہ ہوتا۔"

ابو داؤد کی آواز بیٹھ گئی۔ تاہم اُس نے دوبارہ ہمت سے کام لیتے ہوئے رحم کی درخواست کی۔ اُس نے اپنی خدمات کا واسطہ دیا۔ اُس نے کہا: "عالی جاہ! میں نے یہ بالی، آپ کی خدمت میں سفید کئے ہیں اور یہ لڑکیاں میرا آخری سہارا ہیں مجھ پر رحم کیجئے! ان التجاؤں کے جواب میں

فرڈیننڈ کچھ دیر خاموش رہا۔ بالآخر اس نے کہا: "میرا رحم کلیسا کی عدالت کا فیصلہ رو نہیں کر سکتا
 ابوداؤد مجھے افسوس ہے۔ اب تم صبر سے کام لو۔ یہ تمہاری وفاداری کے امتحان کا وقت ہے۔
 اس نے کہا: "عالی جاہ! میری وفاداری میں کوئی فرق نہیں آیا لیکن وہ میری بیٹیاں ہیں۔
 وہ آپ کے اُس وفادار خادم کی بیٹیاں ہیں جس کی کوششوں کے باعث آپ کی افواج آج
 غرناطہ کی چار دیواری کے سامنے کھڑی ہیں۔ یہ اُس شخص کی بیٹیاں ہیں جو آپ کے لئے الجزائر
 کے دروازے کھولنے کے انتظامات مکمل کر چکا ہے جو آپ کے لئے غرناطہ کے راستے سے
 ابوالحسن اور الزغل جیسی چٹانیں ہٹا چکا ہے۔ میرے آقا! میں نے ان انعامات کے لئے ابھی
 تک دامن نہیں پھیلایا جن کا آپ میرے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں۔ میں تو ایک چھوٹی سی التجا لے
 کر آیا تھا۔ مجھے آپ غرناطہ میں اپنا نائب بنانے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ کیا میری لڑکیاں اتنا بھی
 حتی نہیں رکستیں کہ وہ میری غیر حاضری میں اپنی عصمت بچا سکیں۔"

"لیکن انہوں نے مائیکل کو قتل کیا ہے اور وہ ملکہ کا عزیز ہے۔ ہمیں تمہاری خدمات کا
 اعتراف ہے لیکن ہم مائیکل کی خدمات کو بھی فراموش نہیں کر سکتے۔"

ملکہ ازابلہ جو پردے کے پیچھے یہ باتیں سن رہی تھی مکر سے میں داخل ہوئی۔ ابوداؤد نے
 سراپا التجا بن کر کہا: "ملکہ عالیہ! مجھ پر رحم کیجئے۔"

ملکہ کوئی جواب دئے بغیر بلاشاہ کے قریب بیٹھ گئی۔ فرڈیننڈ نے کہا: "ابوداؤد اگر
 ہم کلیسا کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہماری فتوحات کا کیا فائدہ؟"
 ابوداؤد نے کہا: "عالی جاہ! ان فتوحات میں میرا بھی حصہ ہے اور آپ کی آخری فتح کے
 لئے مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔"

ملکہ نے کہا: "اگر تم ہمیں اس بات سے ڈرانا چاہتے ہو کہ تمہارے بغیر ہم غرناطہ فتح نہیں
 کر سکتے تو یہ تمہاری بھیل ہے۔ ہم نے تمہاری وساطت سے فقط چند آدمیوں کے ضمیر کا سودا
 کیا ہے۔ لیکن اگر تم نہ بھی ہوتے تو بھی ہم یہ کام کر سکتے تھے۔ تم نے فقط سودا چکایا ہے لیکن

قیمت ہمارے خزانے سے ادا ہوئی ہے۔ اب اگر تم دھمکی دیتے ہو کہ تم ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو سنو! غرناطہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو تم سے زیادہ ہوشیار اور زیادہ کارآمد ہیں۔“

ابو داؤد نے کچھ سوچ کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا: ”عالی جاہ! شاید میں آپ کی تمام توقعات پوری نہیں کر سکا۔ ممکن ہے کہ غرناطہ کی فتح کے لئے اب آپ میری ضرورت محسوس نہ کریں لیکن ابھی ایک محاذ ایسا ہے جہاں آپ کو میری ضرورت ہے۔ سرحدی عقابوں کے پروں میں ابھی تک جان ہے۔ بدر بن مغیرہ کی موت کے بعد بھی ان کی تندہی اور تیزی میں کوئی فرق نہیں آیا۔“

فرٹھینڈ نے چونک کر ابو داؤد کی طرف دیکھا اور کہا: ”تم جانتے ہو کہ بدر بن مغیرہ زندہ ہے تم نے ہمیں دھوکا دیا تھا۔“

ابو داؤد نے جواب دیا: ”جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ مر چکا ہے۔ میں نے اُسے گرفتار کر لیا۔ ابو عبداللہ نے اُسے جلاؤ کے حوالے کیا تھا لیکن اگر قدرت کا کوئی معجزہ اُسے بچا چکا ہے تو میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ اُسے زندہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس مقصد کے لئے مجھے بہت بڑا خطرہ مول لینا پڑے گا لیکن اگر آپ میری لڑکیوں کی بچانے کا وعدہ کریں تو میں اس مہم پر جانے کے لئے تیار ہوں۔ اگر بدر بن مغیرہ زندہ ہے تو میں اُسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اگر وہ زندہ نہیں تو میں اس کے جانشین کو قتل کر کے اس کی جماعت میں انتشار ڈالنے کا ذمہ لیتا ہوں۔“

فرٹھینڈ نے کہا: ”غرناطہ کی فوج کے چند قیدیوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ لیکن تم ایک بار اُسے دھوکا دینے چکے ہو۔ ہم تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس مہم میں تمہاری کامیابی کے امکانات کیا ہیں؟“

”عالی جاہ! میں گستاخی کے لئے معافی چاہتا ہوں لیکن یہ سچا ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ میری کامیابی کے امکانات بہت روشن ہیں لیکن میں اس وقت تک آپ کو کچھ نہیں

بتاؤں گا جب تک آپ میری لڑکیوں کی جان بخشی کا وعدہ نہیں کرتے۔“
 فرٹھینڈ نے ملکہ کی طرف دیکھا اور پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا۔ ”ابو داؤد بیٹھ جاؤ۔
 سنو! اگر تمہاری لڑکیوں پر کلیسا کی توہین کا جرم عائد نہ ہوتا تو ہمارے لئے جان مائیکل کا قتل
 بھول جانا مشکل نہ تھا تاہم تمہاری اس محم کی کامیابی کے بعد ہم لارڈ بشپ سے تمہاری لڑکیوں
 کی سزا معاف کرا سکیں گے۔“

”عالیجاہ! آپ کو اس غلام کے ساتھ وعدہ کرنا ہوگا۔“
 ”ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہاری لڑکیوں کی سزا معاف کر دی جائے گی لیکن اگر تم شرط پوری
 نہ کر سکتے تو دوبارہ ہمارے سامنے ان کا ذکر نہ کرنا۔“

ابو داؤد نے کہا۔ ”عالی جاہ! میں ایک مہینے کی مہلت چاہتا ہوں۔ آج قمری کی پانچ
 تاریخ ہے۔ آپ عدالت کو حکم دیں کہ وہ اگلے مہینے کی چار تاریخ تک ان کی سزا ملتوی رکھے۔ اگر
 میں اس مدت کے اندر اندر کامیابی کے ساتھ واپس نہ آؤں تو عدالت کو یہ حق ہے کہ میری لڑکیوں
 کو اگلے مہینے کی چار تاریخ کو غروب آفتاب کے وقت سزا دے دے۔ میری غیر حاضری کا مطلب
 یہ ہوگا کہ میں زندہ نہیں ہوں اور دوسری دنیا میں اپنی بیٹیوں کا انتظار کر رہا ہوں۔“

فرٹھینڈ نے کہا۔ ”میں آج ہی اپنی ہدایات نوشتہ کے گورنر کو بھیج دوں گا لیکن اس سے پیشتر
 تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ تمہاری کامیابی کے امکانات کیا ہیں؟“

ابو داؤد نے جواب دیا۔ ”بدر بن مغیرہ میری بڑی لڑکی ربیعہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔
 اگر وہ زندہ ہے اور میں اُسے یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ بادشاہ سلامت تمہاری گزشتہ
 خطا میں معاف کر دیں گے تو ربیعہ کی خاطر وہ میرے ساتھ آنے پر تیار ہو جائے گا۔“

ملکہ اور بادشاہ اس بات پر یقین کرنے کے لئے تیار نہ تھے لیکن ابو داؤد نے سرحدی
 قلعہ میں اپنے قیام اور اُس کے بعد الحرام میں بدر بن مغیرہ کی آمد کے واقعات ضروری رد و بدل
 کے ساتھ بیان کئے تو انہیں کسی حد تک یقین آ گیا۔

بادشاہ نے کہا: "اگر وہ زندہ نہ ہوا تو؟"

ابو داؤد نے جواب دیا: "اگر وہ زندہ نہ ہوا تو یا آپ یہ سنیں گے کہ اس کا جانشین مارا جا چکا ہے اور یا آپ یہ دیکھیں گے کہ اُن کا ایک بااثر گروہ آپ کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔"

فرڈیننڈ نے کہا: "میں دونوں صورتوں میں تمہاری لڑکیوں کی جان بچانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں تمہیں اپنی طرف سے بڑے سے بڑے انعام کا مستحق سمجھوں گا لیکن اگر تم اس مہم میں کامیاب نہ ہوئے تو لڑکیوں کو یقیناً سزا دی جائے گی۔ تمہیں چاند کی چار تار سخی سے کم از کم دو دن پہلے میرے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ تاکہ میں بروقت گوشہ کے حاکم کو عدالت کے حکم کی تعمیل سے منع کر سکوں۔"

ابو داؤد نے جواب دیا: "ممکن ہے کہ میں دو ہفتوں کے اندر اندر ہی پہنچ جاؤں۔ اگر میں کسی وجہ سے رُک بھی گیا تو بھی میں اس مہینے کے اختتام سے پہلے آپ کو اپنی کارگزاری سے مطلع کروں گا۔ اگر ضرورت ہوئی تو شاید مہلت مانگوں اور مجھے یقین ہے کہ جہاں پناہ ایسی صورت میں مجھے چند دنوں کی مہلت ضرور دیں گے۔ لیکن اگر اس مہینے کی آخری تاریخ تک حضور کی خدمت میں میری طرف سے کوئی پیغام نہ آئے تو حضور سمجھ لیں کہ یہ غلام آپ پر نشانہ ہو چکا ہے۔"

فرڈیننڈ نے کہا: "تمہاری درخواست آنے پر ہم چند دن کی اور مہلت دے سکیں گے۔" ابو داؤد آگے بڑھا اور دو زانو ہو کر فرڈیننڈ کے دامن کو بوسہ دینے کے بعد بولا: "علاء! میری کامیابی کے لئے دعا کریں۔" پھر وہ ملکہ کی طرف متوجہ ہوا۔ ملکہ نے اُس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اس نے پھر ایک بار گھٹنے ٹیکتے ہوئے ملکہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اٹھتے ہوئے بولا: "ملکہ عالیہ! میں جانتا ہوں کہ مائیکل آپ کا عزیز ہے۔ مجھے اس کی موت کا افسوس ہے۔ امید ہے کہ آپ کا یہ غلام خدمت سرانجام دینے کے بعد پھر اپنے آپ کو اسی نظرِ کرم کا مستحق ثابت کر سکے گا۔"

ملک نے کہا۔ " میں اس مہم میں تمہاری کامیابی کو مائیکل کے قتل کی تلافی سمجھوں گی ہمیں
عقب سے قبائلیوں کے اٹا دگا حملے پریشان کر رہے ہیں۔"

تھوڑی دیر بعد ابو داؤد ایک تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر عقاب کی وادی کا رخ کر
رہا تھا۔ اُسے ایک طرف الحمر کی شاندار عمارتیں اور دوسری طرف فرٹینڈ کی فوج کے
خیموں کی قطاریں دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک ٹیلے پر چڑھ کر اُس نے گھوڑا روکا۔ کچھ دیر
وہ الحمر کی طرف دیکھتا رہا اور پھر ایک ٹھنڈی سانس لینے کے بعد بولا۔ الحمر! تیری
چار دیواری سے بڑے بڑے بادشاہوں کے جنازے نکلے ہیں۔ میری طرف دیکھ میں کسی
کی اُمنگوں کا جنازہ ہوں۔ میری بے بسی کسی کے حسین سپینوں کی تعبیر ہے۔ ابو داؤد نے فرٹینڈ
کی افواج کے خیموں کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں کہا۔ "موتخ یہ نہیں گے کہ غرناطہ کو فرٹینڈ
نے فتح کیا تھا۔ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ فرٹینڈ کی افواج غرناطہ کی افواج سے طاقت ور
تھیں۔ کاش! میں جانے سے پہلے الحمر کے ہر تھپڑ پر یہ لکھ سکتا کہ ابو داؤد نہ ہوتا تو موتخ
فرٹینڈ کو غرناطہ کے فاتح کی حیثیت سے یاد نہ کرتے۔ غرناطہ کے آسمان تم گواہ ہو کہ کسی قوم کو
دشمن کے فرٹینڈ تباہ نہیں کرتے بلکہ اُس کے اپنے ابو داؤد اُسے موت کے گھاٹ اُتارتے
ہیں۔ الحمر خدا حافظ! غرناطہ الوداع! "

(۳)

عشا کی نماز کے تھوڑی دیر بعد بدر بن مغیرہ اپنے پہاڑی قلعے کے ایک کمرے میں بشیر بن
حسن، منصور بن احمد اور چند اور چدیدہ چدیدہ سالاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دن قبل اُس
کی فوج سرحد پر ایک کامیاب حملہ کرنے کے بعد واپس آئی تھی اور اب ایک تازہ حملے کی
تفصیلات طے ہو رہی تھیں۔

ایک سپاہی نے کمرے میں داخل ہو کر ادب سے سلام کرنے کے بعد کہا۔ "سرحد سے

چار سپاہی ایک آدمی کو گرفتار کر کے لائے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ وہ کوئی جاسوس ہے۔ سپاہی یہ کہتے ہیں کہ سرحد کے سالار کے سامنے اس نے بائیں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا مطالبہ ہے کہ مجھے سالارِ اعظم کے سامنے پیش کیا جائے۔

بدر بن مغیرہ نے کہا: "اُسے سر دست قید میں رکھو اور صبح میرے سامنے پیش کر دو۔"
سپاہی نے کہا: "لیکن وہ ابھی آپ سے ملنے پر مُصتر ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک اہم خبر لے کر آیا ہوں۔"

"اس کا نام کیا ہے؟"

"وہ اپنا نام بتانے سے بھی انکار کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر سالارِ اعظم مجھ سے نہ مل سکیں تو مجھے بشیر بن حسن کے سامنے پیش کیا جائے۔"

بدر بن مغیرہ نے کچھ سوچ کر کہا: "وہ کون ہو سکتا ہے۔ اچھا بلاؤ اُسے؟"

مٹھوڑی دیر بعد سپاہی ابوداؤد کو کمرے میں لے آئے۔ بدر اور اُس کے ساتھ تھی چند تازینے غصے کی بجائے حیرت اور پریشانی کی حالت میں اس کی طرف دیکھتے رہے۔ ابوداؤد کو اب تک یہ یقین نہ تھا کہ بدر بن مغیرہ واقعی زندہ ہے۔ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف چند بار دیکھنے کے بعد بولا: "آپ مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہوں گے لیکن مجھے آنا پڑا۔"

بدر بن مغیرہ نے کہا: "کیا تم نے اپنی جرات کا مظاہرہ کرنے میں زیادتی سے کام نہیں لیا؟"

"میں جانتا ہوں کہ میں بدترین سزا کا مستحق ہوں لیکن جو سزا میں نے خود اپنے لئے تجویز

کی ہے وہ شاید آپ بھی میرے لئے تجویز نہ کریں لیکن اس سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔"

"تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ فرڈیننڈ کی فرج بہت زیادہ ہے اس لئے ہم ہتھیار ڈال دیں۔"

"نہیں میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ لوشہ لی عدالتِ ربیعہ اور اینجلا کو زندہ جلانے کی

سزا دے چکی ہے اور آپ اگر چاہیں تو انہیں بچا سکتے ہیں۔"

بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن کبھی ایک دوسرے کی طرف اور کبھی ابوداؤد کی طرف دیکھ رہے

تھے۔ ان کی نگاہیں یہ کہہ رہی تھیں کہ ابو داؤد جھوٹ کہتا ہے۔ یہ ان کے لئے کوئی نیا پھندا لے کر آیا ہے لیکن ان کے دلوں کی دھڑکنیں یہ کہہ رہی تھیں کہ اگر یہ خبر درست ہوئی تو بہ ابو داؤد ان کی نگاہ میں دنیا کا ایک ذلیل ترین انسان تھا لیکن اس یقین کے باوجود کہ یہ سب جھوٹ ہو گا۔ ربیعہ اور اینجلا کو زندہ جلائے جانے کا تصور انہیں اضطراب اور پریشانی کی انتہا تک پہنچا دینے کے لئے کافی تھا۔

ابو داؤد نے پھر کہا: "میں جانتا ہوں کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ مجھے، فریبی، دغا باز اور منافق سمجھنے میں حق بجانب ہیں لیکن آپ اور بشیر جس قدر مجھے جانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ربیعہ اور اینجلا کو جانتے ہیں۔ ربیعہ پہلے ہی مسلمان تھی اور اب اینجلا بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں نسوانی حیا اور غیرت ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ فرڈیننڈ کے ایک نائٹ نے ان کی عزت پر حملہ کیا تھا اور انہوں نے اس نائٹ کو قتل کر دیا۔ عدالت نے قتل کے جرم میں ربیعہ پر مقدمہ چلایا تھا اور اسے موت کی سزا دی تھی لیکن فیصلے کے دن اچانک اینجلا نے عدالت میں پہنچ کر یہ بیان دے دیا کہ فرڈیننڈ کے نائٹ کے قتل کی اصلی مجرم میں ہوں، اس نے اپنے بیان میں یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے عدالت اور کلیسا کی توہین کی ہے اور حکومت کے متعلق اس کی گفتار نہایت باغیانہ تھی۔ عدالت نے ربیعہ کو جادو گرنا اور حکومت اور کلیسا کی دشمن قرار دیا ہے اور اینجلا پر حکومت کے خلاف بغاوت، اپنے مذہب سے ارتداد اور کلیسا اور عدالت کی توہین کے جرائم عائد کئے ہیں اور فرڈیننڈ کے نائٹ کے قتل کا جرم بھی ان دونوں پر عائد کیا ہے۔ اب انہیں زندہ جلائے جانے کی سزا دی جا چکی ہے۔"

بدر بن معیر نے سوال کیا: "کب؟"

ابو داؤد نے پریشان سا ہو کر جواب دیا: "اس سوال کا جواب دینے کے لئے میں سب

موقع کا منتظر تھا۔"

بدر بن مغیرہ نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "بشیر اور منصور کے سوا باقی سب جا سکتے ہیں۔"

جب وہ کمرے سے باہر نکل گئے تو بدر نے کہا۔ "ابو داؤد! مومن ایک ہی سوراخ سے دوبارہ نہیں بڑھا جا سکتا۔ اگر لوشہ کا شہر آسمان پر نہیں تو میری بات پر یقین کرو کہ میرے آدمی ایک ہفتہ کے اندر اندر اس واقعہ کی چھان بین کر لیں گے اور یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم مجھے دھوکا دینے کی نیت سے آئے ہو تو تمہیں اپنے انجام سے بے پروا نہیں ہونا چاہیئے۔"

ابو داؤد نے جواب دیا۔ "میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیئے۔ میرے گزشتہ اعمال کے پیش نظر آپ میری ہر بات پر شک کرنے میں حق بجانب ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس دفعہ میں نے الحما کی بجائے آپ کے لئے لوشہ میں ایک پھندا تیار کیا ہے لیکن میں طلوع آفتاب سے پہلے یہ ثابت کر سکوں گا کہ رہیچہ اور اینجلا کے متعلق میں نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے۔ مجھے آپ صبح تک اپنی قید میں رکھیں۔ صبح تک میں اپنا تحریری بیان آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے قید میں لکھنے کی اجازت دی جائے۔"

بشیر نے کہا۔ "تم ہمارے لئے ایک معتاب بننے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تمہاری زبان کا جادو ٹوٹ چکا ہے تو تمہاری تحریر بھی ہمیں بے وقوف نہیں بنا سکے گی۔ ہم لوشہ سے تمہاری ہر بات کی تصدیق کریں گے۔ تم نے بدر کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ انہیں کب سزا دی جائے گی۔"

"انہیں اگلے چاند کی چار تاریخ کو غروب آفتاب کیے وقت زندہ جلایا جائے گا۔" منصور نے کہا۔ "تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس دن لوشہ پر حملہ کریں۔ ہم فریڈینڈ کی یہ خواہش بھی پوری کر دیتے لیکن افسوس یہ ہے کہ لوشہ ہم سے ذرا دور ہے۔ تم لوگوں نے فوجی معاملات

میں ہماری ذہانت کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ اگر وہ سرحد کے آس پاس کسی شہر میں فریب کا جال بچھاتا تو ممکن تھا کہ ہم اس کی خواہش کا احترام کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ اب اگر ہم دھوکا کھانے کے لئے تیار نہ ہوں تو تمہیں اس شخص کی حماقت کا ماتم کرنا چاہیے جس نے جال بچھاتے وقت یہ نہیں سوچا کہ یہ شاہین جنہیں وہ پھنسانا چاہتا ہے بنیائی سے محروم نہیں۔“

بلد نے کہا: ”ابو داؤد! اگر میں یہ فرض بھی کر لوں کہ عدالت راجہ اور اینجلا کو سزا دے چکی ہے تو تمہیں جانتے ہوئے میں اس بات پر کیونکر یقین کر سکتا ہوں کہ ہمیں لوشہ پر حملہ کرنے کی ترغیب دینے کے لئے جو سازش کی گئی ہے اس میں تم نے عدالت اور حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ میں یہ کیوں نہ سوچوں یہ سب ایک کھیل ہے۔ حکومت نے تمہاری مرضی سے انہیں گرفتار کیا ہے اور عدالت نے تمہاری مرضی سے ان پر مقدمہ چلایا ہے اور لوشہ میں اگلے چاند کی چار تاریخ تک ہماری راہ دیکھی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس دن ایک فرضی چتا بھی تیار کی جائے اور تم اپنی لڑکیوں کو چتا کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے بھی شرم محسوس نہ کرو لیکن ہماری آمد سے مایوس ہو کر تم فریب کا جال سمیٹنے پر مجبور ہو جاؤ۔ کاش! تم میں تھوڑی بہت انسانیت ہوتی اور تم ذلت کے چند ٹکڑوں کے لئے اپنی لڑکیوں کو لوشہ کے باشندوں کے سامنے سامانِ تضحیک نہ بناتے۔ یاد رکھو! اگلے چاند کی چار تاریخ کو میرے آدمی لوشہ میں موجود ہوں گے۔ وہ اس کھیل کے اختتام تک وہاں رہیں گے اور جب مجھے یہ اطلاع ملے گی کہ راجہ اور اینجلا دکھاوے کی چتا سے نکال کر گھر پہنچا دی گئی ہیں تو تمہیں پھانسی دی جائے گی اس وقت تک تم میری قید میں ہو۔ تم اس نئے جرم کے بغیر بھی بدترین سزا کے مستحق ہو۔ لیکن میں تمہیں اس شرط پر چھوڑنے کے لئے تیار ہوں کہ تم مجھے اس سلازش کی تمام تفصیلات بتا دو۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ لوشہ کے عوام تمہاری لڑکیوں کا تماشہ دیکھیں۔“

ابو داؤد نے جواب دیا: ”اگر موجودہ حالات میں میں اپنی جان کی کوئی قیمت سمجھتا تو یہاں نہ آتا۔ میں نے اپنی تحریر پیش کرنے کے لئے صبح تک مہلت مانگی ہے۔ ہر دست میں

جو کچھ کہہ چکا ہوں اُسے کافی سمجھتا ہوں۔“

بدر نے کہا۔ ”میں تمہاری درخواست رد نہیں کرتا لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہاری تحریر تمہاری زبان سے زیادہ موثر نہیں ہوگی۔“

بدر بن مغیرہ نے تالی بجائی۔ ایک سپاہی اندر داخل ہوا۔ بدر نے کہا۔ ”اُسے لے جاؤ اور محفوظ کمرے میں اس کے قیام کا انتظام کرو۔ اس کے کھانے پینے اور آرام کا خیال رکھو۔ اسے مکھن کی سہولت مہیا کی جائے لیکن اس کی نگرانی میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔“

یہ کہہ کر بدر ابو داؤد کی طرف متوجہ ہوا اور بولا۔ ”تمہیں بھی میں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش بے سود ہوگی۔“

ابو داؤد کوئی جواب دئے بغیر سپاہی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ دروازے پر چار اور سپاہی جو ننگی تلواریں لئے کھڑے تھے ان کے ساتھ ہو گئے۔

تھوڑی دیر کے لئے بدر، بشر اور منصور خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بدر اضطراب کی حالت میں اٹھا اور درتپے کے سامنے کھڑا ہو کر باہر جھانکنے لگا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے دل سے پوچھ رہا تھا۔ اپنے ضمیر کو ہزاروں تسلیاں دینے کے باوجود وہ جلتی ہوئی چتا میں ربیعہ کے تصویر کیپا اٹھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں یہ کہہ رہی تھیں، ربیعہ سے یہ بعید نہیں۔ ربیعہ اپنی عصمت کی حفاظت کے لئے جان پر کھیل سکتی ہے۔ اس سے یہ بعید نہیں کہ اُس نے کسی ناٹ کو قتل کر دیا ہو۔ اُسے اسلام سے محبت ہے۔ وہ بڑی سے بڑی عدالت کے سامنے حق کی آواز بلند کرنے کی جرأت رکھتی ہے لیکن نہیں نہیں ابو داؤد مکار ہے۔ یہ سب فریب ہے۔“

منصور اٹھ کر بدر کے قریب پہنچا اور اُس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ ”بدر! اگر یہ بات درست ہے تو تمہیں اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ گوشہ کی کوئی دیوار ہمارا راستہ نہیں روک سکے گی۔“

بدر بن مغیرہ نے اچانک مڑ کر اُس کی طرف دیکھا اور کہا "لوشہ میں دو لڑکیوں کی جان غرماطہ کی لاکھوں لڑکیوں سے زیادہ قیمتی نہیں۔ ان مجاہدوں نے ساری قوم کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے۔ میں اپنے حصے کا بوجھ ان پر نہیں ڈالوں گا۔ یہ معاملہ فقط میری اور بشر کی ذات تک محدود رہے گا۔"

دونوں نے بشر کی طرف دیکھا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے تاثرات کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ اس کے چہرے پر اس طوفان کا کوئی اثر نہ تھا جو اُس کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں کمرٹ لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہ ایک چٹان کی طرح کھڑا رہا اور پھر یہ کہنے کے بعد باہر نکل گیا کہ میں زخمیوں کو دیکھنے جا رہا ہوں۔"

کچھ دیر بدر کی طرف دیکھنے کے بعد منصور نے کہا "اگر ابو داؤد نے آپ کو اس بات کا قائل کر دیا کہ اس کی اطلاع صحیح ہے تو میں آپ کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر سکتا ہوں کہ لوشہ پر ہمارا حملہ نہایت اہم نتائج پیدا کر سکے گا۔ اس وقت بھی ہمارے سامنے یہی مسئلہ ہے کہ فرزند کی توجہ دو محاذوں پر مبذول کی جائے؟"

(۴)

اگلی صبح بدر بشر، منصور اور چند دوسرے افسرناشتہ کر رہے تھے کہ ایک سپاہی گھبراہٹ سے بھاگا اور اس نے اطلاع دی کہ ابو داؤد اپنے بستر کی بجائے فرش پر بیہوش پڑا ہے۔ یہ لوگ بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ابو داؤد منہ کے بل فرش پر پڑا ہوا تھا۔ بشر بن حسن نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھنے کے بعد اسے جلدی سے پیٹھ کے بل لٹا دیا اور اس کی آنکھیں کھول کر دیکھتے ہوئے بولا "یہ مر چکا ہے۔ میرے خیال میں اُس نے زہر کھالیا ہے۔"

کمرے کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی میز پر قلم دوات اور کچھ کاغذات رکھے

ہوئے تھے۔ بدر بن مغیرہ نے اوپر کے چند اوراق جن پر ابو داؤد کی تحریر تھی، اٹھائے۔ سپاہیوں نے بشر کے اشارے پر ابو داؤد کو اٹھا کر بستر پر لٹا دیا۔

بشیر بن حسن نے اُس کی تلاشی لینے کے بعد اس کی جیب سے چاندی کی ایک چھوٹی سی ڈبیا برآمد کی اور اُسے کھول کر دیکھنے کے بعد کہا: "اُس نے وہ زہر کھایا ہے جس کا تریاق آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔"

قلعے کے باقی سپاہی بھی جوق در جوق اس کمرے کے دروازے پر جمع ہو رہے تھے۔ بدر نے بشیر اور منصور کے سوا سب کو کمرے سے نکلنے کا حکم دے کر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا: "بشیر! ہم غلطی پر تھے۔ یہ اس کا خط ہے پڑھو۔"

بشیر نے بظاہر بے پروائی کے ساتھ کاغذ کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن چند فقرے پڑھنے کے بعد اُس کی ساری توجہ اس تحریر پر مرکوز ہو چکی تھی۔

بد نے کہا: "بشیر! اونچی آواز سے پڑھو۔ میں نے صرف چند سطریں دیکھی ہیں۔" بشیر نے چونک کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ بدر بن مغیرہ کے نام ابو داؤد کے آخری مکتوب کا مضمون یہ تھا:-

"میرا مکتوب آپ کو اس وقت ملے گا جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا۔ اس ذلیل موت کے بغیر میرے لئے آپ کو یہ یقین دلانا مشکل تھا کہ ربیعہ اور اینجلا کے متعلق میری اطلاع صحیح ہے اور میں اس کے لئے تیار ہو کر آیا تھا۔ میری موت کے ساتھ وہ ذلیل خواہشات اور ناپاک ارادے ختم ہو جائیں گے جن کے باعث میں آپ کی نگاہ میں ایک ملت فروش اور ایک غدار تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ابو داؤد جس نے غناطہ کی حکمرانی کا خواب دیکھا جس نے

اپنی قوم کی لاشوں پر اپنے لئے محل تعمیر کرنے کی خواہش
 کی تھی آج سے چند دن پہلے مرچکا تھا۔ وہ اسی وقت
 اپنا گلا گھونٹنے پر مجبور ہو گیا تھا جب فریڈینڈ نے اس
 کی لٹکیوں کے لئے رحم کی درخواست ٹھکرا دی تھی اور
 وہ ابوداؤد جس کی لاش آپ کے سامنے پڑی ہوئی
 ہے گزشتہ شب صرف ایک باپ کی حیثیت میں آپ
 کے سامنے پیش ہوا تھا۔ اس کے سامنے اپنی دو
 لڑکیوں کی جان بچانے کا مسئلہ تھا۔ اس لئے میری دوہری
 موت ایک باپ کی موت ہے اور مرنے سے پہلے جو کچھ
 میں لکھ رہا ہوں اور اس صورت میں جب کہ مجھے جھوٹ کوئی
 فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ میں سچ کہنے میں ایک تسکین محسوس
 کرتا ہوں۔

تم میرے متعلق صرف اتنا جانتے ہو کہ میں نے تمہیں
 الحما میں بلا کر قتل کروانے کی سازش کی اور میں نے ابو عبد اللہ
 کو غداری پر آمادہ کیا لیکن میرے جرائم اس سے کہیں زیادہ
 ہیں۔ میں تمہارے باپ کا قاتل ہوں۔ اُسے میں نے ہی
 خنجر لکھ کر طلیطلہ آنے کی دعوت دی تھی۔ پہلی بار جب
 میں تمہارے مہمان کی حیثیت میں آیا تھا میں فریڈینڈ کا
 جاسوس تھا اور رات کے وقت تمہارے قلعے پر دشمن
 کا حملہ میری ترغیب پر تھا۔ الحما میں موسیٰ کو میں نے گرفتار
 کروایا تھا۔ ابو عبد اللہ کو ملت فروشی پر میں نے آمادہ کیا

تھا۔ غرناطہ میں جہاد کے خلاف تبلیغ کرنے کے لئے اندلس کے جن مسلمان جاسوسیوں کو بھیجا گیا ہے ان کی تربیت میں نے کی ہے۔

تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اینجلا اور ربیعہ کو کب مرادی جائے گی اور میں بتا چکا ہوں کہ انہیں لگے چاند کی چار تاریخ کو زندہ جلایا جائے گا۔ تم اس بات پر حیران ہو گے کہ عدالت نے انہیں اتنی مہلت کیوں دی۔ رات کے وقت اگر میں آپ کے سامنے اس کی وجہ بیان کرتا تو میرے متعلق آپ کے شکوک اور زیادہ ہو جاتے۔ مجھے ایک ماہ کی مہلت حاصل کرنے کے لئے فریڈیننڈ سے یہ وعدہ کرنا پڑا کہ اگر بدر بن مغیرہ زندہ ہے تو میں اس عرصہ میں کسی نہ کسی بہانے سے اُسے آپ کے سامنے پیش کروں گا میں نے اُس سے مجاہدین کی صفیوں میں انتشار ڈالنے کا عہد بھی کیا تھا۔ اس کے عوض فریڈیننڈ نے میرے ساتھ ربیعہ اور اینجلا کی جان بچانے کا وعدہ کیا تھا۔

سیاست دان ابو داؤد شاید کسی حالت میں بھی اپنے ان جرائم کا اقبال نہ کرتا لیکن اینجلا اور ربیعہ کے باپ کو اپنی بیٹیوں کی بھلائی اسی بات میں نظر آتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے چہرے کے تمام نقاب الٹ دے۔ میرے بعد اگر آپ کی کسی تدبیر سے ان لڑکیوں کی جان بچ جائے تو میں ربیعہ کو تمہارے اور اینجلا کو بشیر بن حسن کے

سپرد کرتا ہوں۔ میں ایک مدت سے جانتا تھا کہ وہ تم دونوں
 کو اپنے رفیق اور محافظ منتخب کر چکی ہیں لیکن میری زندگی
 کے مقاصد میں ان کی خواہشات کے احترام کی گنجائش
 نہ تھی۔ میں نے ایک باپ کی نظر سے انہیں صرف اس
 وقت دیکھا جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری غیر حاضری میں
 لوشہ کی عدالت انہیں موت کی سزا دے چکی ہے۔ میں ان
 کی جان بچانے کے لئے آپ سے التجا کرنے کی ضرورت
 نہیں سمجھتا۔ تم جانتے ہو کہ میرے ساتھ ربیعہ اور اینجلا کا
 رشتہ صرف خون کا رشتہ تھا اور میری موت کے بعد یہ رشتہ
 ختم ہو جائے گا۔ میں ان کا انجام نہیں دیکھوں گا۔ چتا
 سے ان کی چنجیں میرے کانوں تک نہیں پہنچ سکیں گی۔
 اگر میں زندہ رہتا تو بھی انہیں مرتے وقت اس بات کا
 ملل نہ ہوتا کہ وہ اپنے باپ سے جدا ہو رہی ہیں۔ انہیں
 میری دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں۔ انہیں صرف اس دنیا
 سے دلچسپی ہے جس میں تم اور بشیر سانس لیتے ہو انہیں
 میرے ہوائی قلموں سے کوئی اُانس نہیں۔ انہیں لوشہ کے
 گورنر کے محل کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہنے کا کوئی افسوس
 نہ ہوگا۔ جلتی ہوئی چتا میں وہ صرف اس وادی کا تصور
 کریں گی جس میں انہوں نے اپنی بھٹکی ہوئی روحوں کے لئے
 گوشہ عافیت تلاش کیا تھا۔ وہ اُفق کی طرف دیکھ کر یہ
 کہیں گی: بدر اور بشیر تم کہاں ہو؟

تم نے زندگی کے جس سمندر کی گہرائیوں میں ایک
دوسرے کو تلاش کیا ہے میری نگاہ اس کی تہ تک نہیں
پہنچ سکتی۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے نقطہ
تمہاری وجہ سے اس سمندر میں غوطہ لگایا ہے۔ اب اگر
ان کی زندگی کے چراغ بجھنے والے ہیں تو اس کی وجہ
یہ ہے کہ تم نے ان میں طوفانوں کے ساتھ کھیلنے کی
خواہش پیدا کی۔ وہ غیرت جس نے ربیعہ یا اینجلا
کو جان مائیکل کے قتل پر آمادہ کیا دراصل تمہاری اور
بشیر کی عطا کردہ تھی۔ وہ سونسلہ جس نے ایک لڑکی کے
مذہب ہاتھوں کو برچھے کا استعمال سکھا دیا تھا۔ وہ
زبان جس نے عدالت میں باغیانہ تقریر کی، تمہارے
خیالات کی ترجمانی کر رہی تھی۔ میں ربیعہ اور اینجلا کو
قید میں نہیں دیکھ سکا لیکن ایک شخص جس نے انہیں
دیکھا ہے مجھے یہ بتا چکا ہے کہ انہیں اپنے کٹے کا
ذرا بھی طال نہیں۔ ان کا ایمان یہ ہے کہ خدا کو اگر ان
کا زندہ رکھنا مقصود ہے تو وہ چٹا کی آگ کو گلزار بنانے
پر قادر ہے۔ بدر اور بشیر! تم مجھ سے بہتر جانتے
ہو کہ ان کے دلوں میں یہ ایمان کس نے پیدا
کیا۔

اگر تم ان سب باتوں کی ذمہ داری اپنے سر
لینے سے انکار نہیں کرتے تو میں یہ کہوں گا کہ ربیعہ

اور اینجلا کا معاملہ تمہارا اور بشیر کا معاملہ ہے اور مجھے
 اُن کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم پر
 اُن کی جان بچانے کا فرض عائد کر کے میں اپنے فرض
 سے سبکدوش ہوتا ہوں۔ میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا
 کہ تم کس طریقے سے اُن کی جان بچا سکتے ہو۔ یہ سوچنا
 تمہارا کام ہے۔

میں اسپین کے مستقبل کے متعلق کچھ نہیں کہنا
 چاہتا۔ وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں نے آج
 تک جو کچھ سوچا اور جو کچھ کیا وہ غلط تھا۔ میں نے اپنے
 لئے پھول منتخب کئے، اور اپنی قوم کے لئے کانٹے بچھائے
 لیکن میرے حصے کے پھول فرٹی ہینڈ کے دامن کی زینت
 بن گئے۔ میرے ہاتھ اور پاؤں کانٹوں سے زخمی ہیں اور
 قوم کا انجام مجھے معلوم نہیں۔ میری سیاست ختم ہو چکی
 ہے۔ میں ذلت اور نامرادی کی موت مر رہا ہوں۔ آپ
 میری خودکشی کو قابلِ نفرت سمجھیں گے لیکن میں آج اس
 حقیقت کو سمجھا ہوں کہ دنیا میں عزت کی موت صرف ان
 لوگوں کے لئے ہے جو عزت کی زندگی کا راستہ منتخب
 کرتے ہیں۔

اپنی بیوی کے متعلق میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں
 اُسے قابلِ ذکر نہیں سمجھتا۔ اس نے اینجلا کو بچانے کے
 لئے ربیعہ کے خلاف شہادت دی تھی۔ اگر وہ عدالت

کا فیصلہ سننے کے بعد زہر نہ کھالیتی تو میں اپنے ہاتھوں
سے اس کا گلا گھونٹ ڈالتا۔

اس خط کے اختتام کے ساتھ میں اپنی کتاب
زندگی کی آخری سطر لکھ چکا ہوں۔

ابوداؤد

”اینجلا اور ربیعہ کا باپ“

آسوا اور مُسکراہٹیں

(۱)

غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے لوشہ شہر کے باہر ایک کھلے میدان میں اینجلا اور ربیعہ کی چٹا کے گرد ہزاروں مرد اور عورتیں جمع ہو رہے تھے۔ وہ ایک دوسری کے قریب لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں۔ چٹا کے قریب راہبوں کا ایک گروہ مریم مقدس کی حمد و ثنا کے گیت گارہا تھا۔ لوگ بیقراری کے ساتھ غروب آفتاب کا انتظار کر رہے تھے۔ لوشہ کا گورنر ڈان لوئی اور نیا بشپ باربار اُفری مغرب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ غروب آفتاب تک فرڈیننڈ کے آخری حکم کا انتظار کیا جائے گا۔ اگر بلاشاہ کا ایلچی کوئی نیا حکم لے کر نہ آیا تو چٹا کو آگ لگا دی جائے گی۔ دو سپاہی چٹا کے قریب چلتے ہوئے مشعلیں لئے تیار کھڑے تھے۔

ربیعہ اور اینجلا کو اپنے انجام کے متعلق کوئی شبہ نہ تھا لیکن انہیں چٹا کو آگ لگانے میں تاخیر کی وجہ معلوم نہ تھی۔

اینجلانے کہا: ربیعہ! میں موت سے بہت ڈرتی تھی لیکن اب میں یہ محسوس کر رہی ہوں

کہ موت اتنی بھیانک شے نہیں لیکن یہ انتظار میرے لئے بہت صبر آزما ہے۔ یہ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟

”میں خود حیران ہوں۔ سورج غروب ہو رہا ہے۔ شاید.....“

”شاید کیا؟“

”کچھ نہیں ایجنلا! میں سمجھ رہی تھی۔۔۔۔۔ کہ شاید قدرت لوشہ کی عدالت کا فیصلہ

رد کر چکی ہو۔ دیکھو سورج جہاں تھا وہیں کھڑا ہے۔“

ایجنلا نے کہا۔ ”ربیعہ! یہ جو ہوم امیدوں کا سہارا لینے کا وقت نہیں۔“

ربیعہ نے جواب دیا۔ ”میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ خدا انسان کا ہر فیصلہ بدلنے پر قادر

ہے اور جب آگ کے شعلے میرے قریب آچکے ہوں گے اس وقت بھی میں یہی کہوں گی۔“

”ربیعہ! میرا بھی یہی ایمان ہے لیکن اب موت کے دروازے تک صرف چند قدم

باقی ہیں۔ دعا کرو کہ میرے قدم ڈگمگانہ جائیں۔“

ربیعہ نے کہا۔ ”تمہارے قدم نہیں ڈگمگائیں گے۔ ایجنلا! مجھے تم پر فخر ہے۔ اسلام کی

ہر بڑی تم پر فخر کرے گی۔“

”دعا کرو ربیعہ مجھے سہارا دو۔“

ربیعہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا۔ ”اے جزا اور سزا کے مالک! ہمیں استقامت

دے تو ہماری بے بسی دیکھ رہا ہے تو ہماری کمزوریوں سے واقف ہے لیکن دوسروں پر

ہماری کمزوری اور بے بسی ظاہر نہ ہو۔ ہماری مظلومیت فقط تیری رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائے۔

یہ لوگ ہماری سچائیاں نہ سنیں۔“

ربیعہ ابھی دعا کر رہی تھی کہ میدان کی طرف سے پانچ سوار نمودار ہوئے اور لوگ شور مچانے

لگے۔ ”وہ آگئے؟“

لوگوں نے سواروں کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ اب چٹاکی طرف کسی کی توجہ نہ تھی۔ سوار قسطلہ

کے سپاہیوں کا لباس پہننے ہوئے تھے۔ لوگ اُن سے پوچھ رہے تھے۔ "بادشاہ سلامت نے کیا حکم دیا ہے؟ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی۔" لوشہ کا گورنر اور بشپ ہجوم کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ گانے والے راہب بھی ادھر ادھر منتشر ہو کر سواروں کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان میں سے ایک راہب بدستور گاتا ہوا چتا کے قریب جا کھڑا ہوا دوسرے راہبوں کی طرح اس کا سارا جسم ایک سفید قبا میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی آواز سن کر اینجلا اور ربیعہ اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ گاتے گاتے اس نے ربیعہ اور اینجلا کے ذرا اور قریب کھسکتے ہوئے اپنے سر سے بھاری کپڑا کھسکا دیا۔ ایک لمحہ کے لئے ربیعہ اور اینجلا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ مبہوت سی ہو کر اُس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ یہ بدین مغیرہ تھا۔ اچانک ایک اور راہب اس کے قریب آکھڑا ہوا۔ اُس کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ زندگی میں پہلی بار گانے کی مشق کر رہا ہے۔ وہ اپنے ساتھی کے سرنے کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کوشش کے باوجود اس کی آواز کبھی بہت دھیمی اور کبھی بہت بلند ہو جاتی تھی۔ یہ بشیر بن حسن تھا۔

سورج کی آخری کرن کے ساتھ ربیعہ اور اینجلا اپنے مقدر کے آسمان پر اُمید کے دو روشن ستارے دیکھ رہی تھیں۔ دل کی دھڑکنیں ذرا کم ہوئیں تو ربیعہ نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد دبی زبان میں کہا۔ "تم ہمارے لئے خودکشی نہ کرو۔ خدا کے لئے جاؤ۔"

بدر نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اُسے خاموشی کی تلقین کی اور بشیر کا بازو پکڑ کر اُسی طرح گاتا ہوا ہجوم کی طرف چل دیا۔

ڈان لونی نے سواروں کے گرد شور مچانے والے لوگوں کو بڑی مشکل سے خاموش کر لیا اور سواروں سے مخاطب ہو کر کہا۔ "تم بہت دیر سے آئے۔ ہم چتا کو آگ لگانے والے تھے۔ کیا حکم لائے ہو؟"

ایک سوار نے کہا۔ "ہم گورنر سے بات کرنا چاہتے ہیں۔"

ڈان لونی نے برہم ہو کر کہا۔ "میں گورنر ہوں۔"

سوار نے اطمینان سے کہا: ”بادشاہ سلامت نے تمہیں معزول کر دیا ہے۔ پھوڑی دیر میں کاؤنٹ انٹرنیو شاہی فرمان لے کر یہاں پہنچ جائے گا۔ ہمیں اُس نے حکم دیا ہے کہ ابوداؤد کی لڑکیوں کی سزا ملتوی کی جائے۔ ہم عجلت میں یہاں پہنچے ہیں۔ کاؤنٹ انٹرنیو پھوڑی دیر میں آجائیں گے اور آپ کو بادشاہ کا آہری حکم سنا دیں گے۔“

ڈان لوئی سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ لوگ مایوسی کی حالت میں کبھی گورنر کبھی بشپ اور کبھی ان سواروں کی طرف دیکھ رہے تھے۔

بالآخر بشپ نے کہا: ”بادشاہ سلامت کا تحریری حکم ہمارے پاس موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر بادشاہ سلامت نے لوشہ کی عدالت کے فیصلے میں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس کی تو آج کے دن غروب آفتاب سے پہلے ان کا دوسرا تحریری حکم پہنچ جائے گا اور اگر ان کا ایلچی غروب آفتاب سے پہلے نہ پہنچے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ بادشاہ سلامت عدالت کے فیصلے کے ساتھ متفق ہیں۔ اب سورج غروب ہو چکا ہے بادشاہ کا ایلچی ہمارے پاس ابھی تک ان کا کوئی حکم لے کر نہیں پہنچا اس لئے ڈان لوئی اگر چہ آگ لگانے کا حکم دے دے تو وہ اپنا فرض پورا کرے گا۔ اگر تم ایلچی ہو تو بادشاہ سلامت کی تحریر پیش کر دو ورنہ ہم کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں۔“

سوار نے جواب دیا: ”لیکن ہم ایلچی کے ساتھ آئے ہیں اور یہ گورنر معزول ہو چکا ہے۔“

بشپ نے کہا: ”لیکن جب تک بادشاہ کا حکم انہیں نہیں ملتا ان کے اختیارات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر بادشاہ سلامت نے کاؤنٹ انٹرنیو کو واقعی کوئی حکم دے کر بھیجا ہے اور وہ بروقت یہاں نہیں پہنچ سکا تو اس کی ذمہ داری اس پر عائد ہوگی، ڈان لوئی اُس کے لئے جواب دہ نہیں ہوگا۔ ڈان لوئی کو شام تک انتظار کرنے کی ہدایت تھی اور اب شام ہو چکی ہے۔“

سوار نے جواب دیا: "ہمیں اس لئے بھیجا گیا ہے کہ ان لڑکیوں کی حفاظت کریں اور ہم اپنی جان پر کھیل کر بھی یہ فرض پورا کریں گے۔"

بشپ اور گورنر پریشان ہو کر عوام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لوگ ان زردہ پوش سپاہیوں کی مداخلت پر خوش نہ تھے۔ بعض آدمیوں نے عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کی لیکن کوئی فرٹینی نیٹ کے سپاہیوں پر ہاتھ اٹھانے کے لئے تیار نہ ہوا۔ عوام کی اکثریت کو مرعوب پا کر ڈان لوٹی نے اپنے ساتھ ہمکلام ہونے والے سپاہی سے کہا: "میں یہ نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور تمہاری اطلاع کہاں تک صحیح ہے۔ میں تھوڑی دیر اور انتظار کروں گا لیکن اگر تمہاری اطلاع غلط ثابت ہوئی تو تمہیں بدترین سزا کے لئے تیار رہنا چاہیے۔ کاؤنٹ انٹونیو قرطیہ کا گورنر ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے یہاں کیسے بھیجا جا رہا ہے اور میں نے وہ کون سی غلطی کی ہے جس کے باعث میں معزول کیا جا رہا ہوں۔"

سوار نے جواب دیا: "ممکن ہے کہ بادشاہ سلامت سے ابوداؤد نے آپ کی شکایت کی ہو۔ بہر حال تھوڑی دیر میں یہ معاملہ صاف ہو جائے گا۔ کاؤنٹ انٹونیو آہی رہا ہو گا اتنی دیر ہم چتا کے گرد پہرہ دیتے ہیں۔ کاؤنٹ انٹونیو نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ لوگ اشتعال کی حالت میں قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں۔"

ڈان لوٹی نے جواب دیا: "چتا کے گرد پہرہ دینے کے لئے میرے سپاہی کافی ہیں۔" سوار نے کہا: "نہیں چتا کے گرد اتنا بڑا ہجوم دیکھ کر کاؤنٹ انٹونیو ہم پر خفا ہو گا۔ یہ بہتر ہو گا کہ لوگوں کو ذرا دور دُور ہٹا دیا جائے۔"

ڈان لوٹی بہت تند مزاج آدمی تھا لیکن اپنی معزولی کی اطلاع کے بعد اس میں وہ پہلا سا جوش و خروش نام کو نہ تھا۔ وہ اپنے دل سے بار بار یہی سوال پوچھ رہا تھا کہ اُسے معزول کیوں کیا گیا ہے، اس سے کیا خطا سرزد ہوئی ہے۔ اُسے اپنی شاندار خدمات کا یہ صلہ کیوں دیا جا رہا ہے۔ اس کے خیال میں ملکہ ازابلہ کی سفارش ابوداؤد کے جادو کا توڑ ہو سکتی تھی اور وہ اڑ کر ملک کے

پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ جب سوار نیزے دکھا دکھا کر عوام کو چپتا سے پردے ہٹانے لگے تو اس نے مزاحمت نہ کی اور گوند زر کے طرز عمل میں یہ تبدیلی دیکھ کر بشپ کا غصہ بھی بہت حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنے الفاظ پر نادم تھا اور سپاہیوں کے آگے پیچھے پھر رہا تھا اور ہر ایک سے باری باری یہ کہہ رہا تھا۔ "دیکھئے اگر آپ کا ڈنٹ انٹونیو کا تحریری حکم لے آئے تو یہ باتیں نہ ہوتیں۔ بہر حال اب وہ آہی رہے ہوں گے۔ آپ انہیں کتنی دُور چھوڑ آئے تھے، کافی دیر ہو گئی اب تو چاند بھی غروب ہو رہا ہے وہ کہیں راستہ نہ بھول گئے ہوں۔"

ادھر ڈان لوئی اب خود ڈانٹ ڈپٹ کیے لوگوں کو پیچھے ہٹا رہا تھا۔

چوتھی رات کا چاند اپنی منزل کا مختصر سا فاصلہ ختم کر رہا تھا اور رفتہ رفتہ رات کی تاریکی بڑھ رہی تھی۔ بددین مغیرہ اور بشیر بن حسن راہبوں کے لباس میں چتا کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ شہر کا کوتوال بھی بڑی ہوشیاری کے ساتھ چتا کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ بدر نے بشیر سے کہا: "تم اس کی توجہ اپنی طرف مبذول رکھو۔ یہ ہوشیار آدمی معلوم ہوتا ہے۔"

بشیر نے آگے بڑھ کر کوتوال سے کہا: "یہ کتنے افسوس کی بات ہے آج تک کلیسا کی کسی عدالت کے احکام کی اتنی توہین نہیں ہوئی۔"

مشعل برداروں کو سوار چپتا سے کافی دُور ہٹا چکے تھے اس لئے کوتوال اپنے مخاطب کو اچھی طرح نہ دیکھ سکا۔ اس نے سوال کیا: "آپ کون ہیں؟"

بشیر نے سنبھل کر جواب دیا: "میں طلیطلہ کی خانقاہ کا راہب ہوں۔"

"آپ یہاں کیسے آئے؟"

"میں اشبیلیہ جا رہا تھا یہ تماشہ دیکھ کر یہاں رُک گیا۔ میں طبیب بھی ہوں۔ اشبیلیہ کے بشپ نے مجھے علاج کے لئے بلایا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر بادشاہ نے حکم دیا تو اتنے سنگین جرم کے متعلق کلیسا کی عدالت اپنا فیصلہ واپس لے لے گی۔"

کوتوال نے جواب دیا: "کلیسا کو اپنا فیصلہ واپس لینے کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ اپنے

حکم سے یہ فیصلہ منسوخ کر دے گا۔“

”یہ کلیسا کی توہین ہوگی۔“

”بادشاہ کلیسا کے مفاد کو ہم سے بہتر ہے؟“

(۷)

جب بشیر بن حسن کو تو ال کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ بدر بن مغیرہ نے عقب سے ربیعہ کے قریب پہنچ کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی رسیاں کاٹتے ہوئے آہستہ سے کہا: ”ربیعہ! گھوڑے پر سواری کر سکوگی۔“

ربیعہ رسیوں سے آزاد ہوتے ہی جواب دینے کی بجائے اس کی طرف مڑ کر دیکھنے

لگی۔

بدر نے کہا: ”ابھی نہیں ربیعہ! گھوڑی دیر اسی طرح کھڑی رہو۔“

ربیعہ اسی طرح کھبے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔

بدر نے پھر کہا: ”تمہیں آج ساری رات سفر کرنا پڑے گا۔ تم گھوڑے پر سواری کر

سکوگی نا؟“

ربیعہ نے دھڑکتے ہوئے دل کو قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا: ”آپ

کے ساتھ؟“

”ہاں میرے ساتھ۔“

”آپ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے میں راستے کی طوالت کی شکایت نہیں کروں گی۔“

”اینجلا بھی گھوڑے کی سواری جانتی ہے نا؟“

”اینجلا مجھ سے بہتر سوار ہے۔“

”بہت اچھا۔ تم تیار رہو۔“

اس کے بعد بدر نے اینجلا کے قریب پہنچ کر اُس کی رسیاں کاٹ ڈالیں اور ایک سوار کے قریب پہنچ کر اُس سے کہا۔ "جلدی کرو۔ مجھے اپنی مکند اُتار دو۔"

سوار نے زمین کے ساتھ بندھی ہوئی مکند اُتار کر بدر کے ہاتھ میں دے دی۔

اتنی دیر میں کچھ فاصلے پر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور لوگوں کی ساری توجہ دوسری طرف مبذول ہو گئی۔ بشیر بن حسن نے ادھر ادھر کی باتوں سے کوتوال کی توجہ ابھی تک اپنی طرف مبذول کر رکھی تھی لیکن گھوڑوں کی ٹاپ سننے کے بعد کوتوال نے کہا: "مقدس باپ شاید وہ آرہے ہیں مجھے معاف کیجئے لیکن کل جانے سے پہلے مجھے ضرور طئے۔"

بشیر کے جواب کا انتظار کئے بغیر کوتوال بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ بشپ اور گورنر دونوں اب ایک سوار سے باتیں کر رہے تھے۔ گورنر کہہ رہا تھا: "مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کاؤنٹ انٹونیو کے ساتھ کوئی فوج آ رہی ہے۔"

سوار نے جواب دیا۔ "اُس کے ساتھ کوئی پچاس آدمی ہوں گے۔"

بشپ نے کہا: "میں اتنے آدمی ساتھ لانے کی وجہ نہیں سمجھتا۔"

بدر بن مغیرہ نے آگے بڑھ کر کہا: "اس کی وجہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ!"

بشپ نے پریشان ہو کر کہا: "تم کون ہو؟"

بدر نے کہا: "آپ مجھے نہیں پہچانتے؟"

بشپ نے کہا: "تاریکی میں میں تمہیں اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا اور تمہاری آواز بھی میرے

لئے اجنبی ہے۔"

بدر نے کہا: "مقدس باپ! پہلے میں آپ سے ایک ضروری بات کر لوں پھر آپ کو

کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"

بشپ نے کہا: "لیکن وہ کونسی بات ہے جو تم گورنر ڈان لونی کے سامنے نہیں کرنا

چاہتے۔"

بدر نے جواب دیا: "ان سے میں بعد میں معذرت کر لوں گا۔ آپ آئیں میں علیحدگی میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔"

بدر نے بشپ کا بازو پکڑ لیا اور وہ تذبذب اور پریشانی کی حالت میں اس کے ساتھ چل رہا۔ چند قدم کے فاصلے پر بشیر کھڑا تھا بدر کو دیکھ کر وہ قریب آ گیا۔ بشپ نے کہا: "وہ لوگ آ رہے ہیں جلدی کہو کیا کہنا چاہتے ہو اور میرا بازو چھوڑ دو۔"

بدر نے اس کا بازو اپنے ہاتھ کی آہنی گرفت میں پھینچتے ہوئے کہا: "خاموش رہو۔ ایک لمحے کے لئے بشپ کے اوسان خطا ہو گئے۔ بدر نے بشیر سے کہا: "اسے جاؤ اور یہ رسی بھی لو۔ اس میں سے آدھی گورنر کے لئے رکھ لینا۔ میں ابھی اسے بھی لاتا ہوں۔"

بشپ نے شور مچانے کی کوشش کی لیکن بشیر کا خنجر اپنی شرک کے قریب دیکھ کر اس کی آواز منہ سے باہر نہ نکل سکی۔ وہ اس کے آگے آگے چل دیا۔

گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازاں قریب آچکی تھی۔ ڈان لونی اس طرف جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ بدر بن مغیرہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اس کی پسلی پر خنجر کی نوک رکھتے ہوئے کہا: "میرے ساتھ چلو۔ اگر بولنے کی کوشش کی تو۔" بدر بن مغیرہ نے اپنا فقرہ پورا کرنے کی بجائے خنجر کو ذرا دبا دیا اور ڈان لونی بے بس ہو کر اس کے ساتھ ساتھ چل دیا۔

سواراں کو تو ال کے سپاہیوں کو بھی چتا سے کافی دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ چتا کے گرد زیادہ تیزی کے ساتھ چکر لگا رہے تھے اور کو تو ال کے سپاہی بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی زد سے بچنے کے لئے پیچھے ہٹ رہے تھے۔

بدر نے رعبہ کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے اس کی جگہ گورنر کو لکڑی کے کھمبے کے ساتھ جکڑ دیا۔ اتنی دیر میں بشیر بن حسن بشپ کو اینچلا کی جگہ باندھ چکا تھا۔ دوسری طرف پچاس سواروں نے ہجوم کے قریب پہنچتے ہی نعرہ تکبیر بلند کیا اور ہجوم کو اپنے نیزوں کے اٹے سروں سے ہانکتا شروع کیا۔ لوگ نہایت بدحواسی میں پیچھے چلاتے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ لوشہ کی پولیس

کے سپاہی اب چتا کا خیال چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے والے لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے۔
چتا کے گرد پہرہ دینے والے سواروں میں سے چار اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے۔
بدر بن مغیرہ راہب کا چولا اُتار کر چتا میں پھینکنے کے بعد جست لگا کر ایک گھوڑے پر سوار
ہو گیا۔ باقی تین گھوڑوں پر بشیر، ربیعہ اور اینجلا سوار ہو گئے۔

بدر نے کہا: "بشیر! تم ربیعہ اور اینجلا کے ساتھ وہاں پہنچ کر ہمارا انتظار کرو۔ ہم تھوڑی
دیر میں پہنچ جائیں گے۔ جلدی کرو۔"

بشیر نے گھوڑے کی باگ موڑ لی۔ بدر نے پانچویں سوار کی طرف توجہ ہو کر کہا: "تم بھی ان کے

ساتھ جاؤ۔"

بشیر اور یہ سپاہی ربیعہ اور اینجلا کو ساتھ لے کر ایک طرف نکل گئے۔ بدر بن مغیرہ نے
اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ کر ایک سپاہی کے ہاتھ سے جلتی ہوئی مشعل چھین کر
چتا میں پھینک دی۔ چتا میں لاکڑیوں کو آگ لگانے کے لئے سُکھی گھاس ڈالی گئی تھی اُسے
فورا آگ لگ گئی۔ گورنر اور بشپ بڑی طرح چلا رہے تھے لیکن اس ہنگامے میں اُن کی آواز
سننے والا کوئی نہ تھا۔ میدان میں ایک قیامت کا سماں تھا۔ حملہ آور سوار فقط اپنے نیزوں کی
اُلٹی طرف سے لوگوں کو بانجنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن لوگ ایک دوسرے سے ٹکرائے اور
کڑی طرح زخمی ہو رہے تھے۔ تاریکی میں لوٹہ کے باشندے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہزاروں پیادہ
اور سواران پر جما کر چلے گئے۔ کو تو اہ اور اُس کے سپاہیوں کا پتہ نہ تھا۔ بعض لوگوں نے آگ
کے شعلوں کو سلسلے اپنے گورنر اور بشپ کی صورتیں پہچان لیں لیکن کسی نے ان کی مدد کے
لئے پہنچنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔

تھوڑی دیر میں میدان خالی ہو گیا۔ بدر بن مغیرہ نے سواروں کو منظم کرنے کے بعد کہا: "ہمارا
کام ختم ہو چکا ہے لیکن واپس جانے کے لئے ہمیں تازہ دم گھوڑوں کی ضرورت ہے اور لوٹہ
میں گھوڑوں کی کمی نہیں۔ ہمیں ایک ساعت کے اندر اندر واپس جانا ہے۔ کیا تم تیار ہو؟"

منصور بن احمد کی آواز سنائی دی۔ "ہم تیار ہیں۔"

"چلو"

(۳)

کوئی تین میل چلنے کے بعد بشیر اور اُس کے ساتھی ایک خانقاہ کی چار دیواری کے پھانک پر رُکے۔ دور راہب دروازے پر کھڑے اُن کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے بشیر بن حسن کو پہچانتے ہی کسی کو اندر سے دروازہ کھولنے کے آواز دی۔ پھر سے دار نے اندر سے دروازہ کھول دیا۔

خانقاہ کے صحن میں تین اور راہب کھڑے تھے۔ انہوں نے اُن کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں۔ اینجلا اور ربیعہ بشیر کے ساتھ خانقاہ کے ایک کمرے میں داخل ہوئیں۔ یہ کمرہ بیش قیمت سامان سے آراستہ تھا۔ چھت سے چاندی کے فانوس لٹک رہے تھے۔ سنگ مرمر کے فرش پر ایک میز کے گرد آبنوس کی چند کرسیاں بٹھی ہوئی تھیں۔ میز کے بیچ ایک شمعدان میں آٹھ شمعیں جل رہی تھیں۔

بشیر نے کہا: "فی الحال یہ ہمارا گھر ہے۔ آپ تھوڑی دیر یہاں آرام کر سکتی ہیں۔"

اینجلا نے گہرا کر کہا: "لیکن اس خانقاہ میں.....؟"

بشیر نے مسکراتے ہوئے اپنا چولا اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور کہا: "یہ خانقاہ گزشتہ

تین دن سے ہمارے قبضہ میں ہے۔ یہ راہب جو آپ نے دیکھے ہیں ہمارے آدمی ہیں اور اس

خانقاہ کے مکین بالائی منزل کے تین کمروں میں بند ہیں۔ آپ کو بھوک لگی ہوگی۔"

اینجلا نے ربیعہ کی طرف دیکھا اور پھر بشیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا: "اگر یہ آپ کا گھر ہے،

اور یہاں بے تکلفی خلاف تہذیب نہیں سمجھی جاتی تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ بھوک

سے میری بہن کا برا حال ہو رہا ہے۔"

ربیعہ نے جواب دیا۔ "میرا بھائی اندلس کا سب سے بڑا طبیب ہے۔ وہ یہ پچھاننے میں غلطی نہیں کرے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کو زیادہ بھوک لگی ہے؟"

"میرے دونوں مہمان بھوک سے پریشان ہیں۔" بشیر نے یہ کہتے ہوئے تالی بجائی۔

ایک راہب اندر داخل ہوا۔

بشیر نے کہا۔ "ان کے لئے کھانا لاؤ اور چولے اتار دو، اب ان کی ضرورت نہیں۔"

گھوڑی دیر میں وہی آدمی اپنے سپاہیانہ لباس میں ایک بڑا طشت اٹھاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ طشت میں روٹی کے علاوہ کچھ بٹے برتے کی ایک ساٹم ران تھی۔ اس کے بعد ایک اور سپاہی آیا اور اس نے سیب اور انگور سے بھری ہوئی طشتری میز پر رکھ دی۔

بشیر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ "آپ اطمینان سے کھائیں میں دوسرے کمرے میں جاتا ہوں۔"

ربیعہ نے کہا۔ "آپ نہیں کھائیں گے۔"

بشیر نے جواب دیا۔ "میں باقی آدمیوں کے ساتھ کھاؤں گا۔"

باہر نکل کر برآمدے میں سے گزرنے کے بعد بشیر ایک لور کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے بشیر کو دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے۔ بشیر نے سواں کیا۔ "تم سب کھانا کھا چکے ہو؟"

ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ "ہاں لیکن ابو محسن نے نہیں کھایا۔"

بشیر نے کہا۔ "وہ اوپر بڑے راہب کے ساتھ بحث کر رہا ہوگا۔"

سپاہی ہنس پڑے۔ بشیر نے کہا۔ "اچھا اُسے بلاؤ اور ہمارا کھانا لے آؤ۔"

آدمی رات کے قریب بدر بن مغیرہ کے سوار اس خانقاہ میں داخل ہوئے۔ اس مختصر سے عرصہ میں وہ فوجی مستقر سے اپنے لئے بہترین گھوڑے حاصل کرنے کے علاوہ مستقر کے خیموں اور مکانات کو آگ لگا چکے تھے۔ شہر میں انہوں نے سرکاری خزانے پر قبضہ کرنے اور

گورنر کے محل کو آگ لگانے پر استفا کیا تھا۔

ربیعہ، اینجلا اور خانقاہ میں باقی آدمی جن کی تعداد چودہ کے لگ بھگ تھی ان کی آمد سے پہلے ہی تیار کھڑے تھے۔

کوچ کا حکم دینے سے پہلے بدر نے ابو محسن سے کہا: "ابو محسن! شہ میں ہمارا کام ختم ہو چکا ہے۔ کہو تمہیں کامیابی ہوئی ہے یا نہیں۔" اس پر منصور بن احمد منس پڑا اور ابو محسن نے قدرے کھسیانہ ہو کر کہا: "خدا کی قسم وہ بالکل گدھا ہے۔ آپ مجھے خواہ مخواہ یہاں چھوڑ گئے۔ اس نے خود مجھے بلا کر کہا کہ میں کچھ کچھ اسلام کی صداقت کا قائل ہوتا جا رہا ہوں۔ آج آپ جا رہے ہیں۔ اس لئے مجھے کچھ اور تبلیغ کی جائیں اور ایک پر سر کھپانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ کم نجات شراب پی کر میرے ساتھ دل لگی کر رہا ہے۔"

بدر نے کہا: "اس کا گلا تو نہیں گھونٹ ڈالا تم نے؟"

"اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں شاید یہ بھی کر ڈالتا۔"

بدر نے کہا: "اچھا اب چلو۔"

اپنے محفوظ علاقے میں داخل ہونے سے پہلے بدر نے راستے میں تین جگہ منزل کی۔ وہ رات کے وقت سفر اور دن کے وقت شہروں اور بستیوں سے دوڑا ان خانقاہوں میں قیام کرتا جن پر راہبوں کے لباس میں اس کے سپاہی چند دن پیشتر قبضہ جا چکے تھے۔ ان خانقاہوں کے مکین لوشہ کی خانقاہ کے راہبوں کی طرح قید میں تھے۔ بدر بن مغیرہ جس خانقاہ میں داخل ہوتا۔ وہاں اس کے آدمی اس کے ساتھیوں کے لئے کھانا اور گھوڑوں کے لئے چارہ تیار رکھتے۔ ہر منزل اس کے آدمیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب وہ فریڈینڈ کی مملکت کی سرحد عبور کر رہا تھا تو اس کے ساتھیوں کی تعداد ڈیڑھ سو ہو چکی تھی +

(۴)

بدر بن مغیرہ پہاڑی قلعے کے ایک کمرے میں بیقراری سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے

پر مایوسی، پریشانی اور ملال کے آثار تھے۔ ربیعہ مکرے میں داخل ہوئی۔ بدر کسی گہری سوچ میں تھا۔ جب تھوڑی دیر وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تو ربیعہ نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا: "آپ نے مجھے بلایا تھا۔"

بدر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا: "ہاں ربیعہ! میں تم سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔"

اس کا لہجہ اس قدر معنی عمیق تھا کہ ربیعہ سم کر رہ گئی۔ وہ کرسی کے قریب پہنچی لیکن تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی۔ بدر نے پھر کہا: "بیٹھ جاؤ ربیعہ۔"

ربیعہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا: "آپ بہت پریشان ہیں۔"

کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بدر نے جواب دیا: "ربیعہ! میں تمہارے متعلق سوچ رہا تھا۔ نصرانیوں کے خلاف ہماری جنگ ایک فیصد کن دور میں داخل ہو چکی ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔"

ربیعہ اچانک اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز بیٹھ گئی۔ وہ سراپا التجا بن کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔

بدر نے کہا: "بیٹھ جاؤ ربیعہ! میں نے ابھی اپنی بات ختم نہیں کی۔"

ربیعہ بیٹھ گئی اور بدر نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا: "تمہیں معلوم ہے کہ فرطینینڈ کے طویل محاصرہ کے باعث غرناطہ کے حالات مخدوش ہو چکے ہیں۔ سیرانویدا کے راستے رسد کا جو تھوڑا بہت سامان ہماری کوششوں سے وہاں پہنچ رہا ہے لاکھوں انسانوں کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ لوگ فاقہ کشی سے تنگ آچکے ہیں۔ اب سردیاں آنے والی ہیں۔ موسیٰ نے میرے ساتھ یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ غرناطہ کی فوج کے ساتھ اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو جملہ کرے گا اور میں نے اس دن اپنی ساری قوت کے ساتھ عقب سے حملہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہمیں اپنی فتح پر یقین تھا لیکن آج مجھے موسیٰ کا خط ملا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ ابو عبد اللہ کے وزیر

نے فرڈیننڈ کے ساتھ صلح کی بات چیت شروع کر دی ہے۔ سرکردہ امر کی اکثریت صلح کے حق میں ہے اور غداروں کی کوششوں سے عوام میں بھی ایک ایسا عنصر پیدا ہو چکا ہے جو صلح کے لئے بیتاب ہے۔ چونکہ اس بات کا اندیشہ ہو گیا تھا کہ حملے کے دن ابو عبد اللہ اور اس کے امراء کی نیت بدل نہ جائے، اس لئے موسیٰ نے یہ حملہ ملتوی کر دیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ وہ حملے کا کوئی اور دن متعین کر کے مجھے اطلاع دے گا۔ موسیٰ مایوس ہونے والے انسانوں میں سے نہیں لیکن اس کا خط پڑھ کر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ غرناطہ کے حالات بہت مندوش ہیں۔ ربیعہ اتم یہ سمجھ سکتی ہو کہ اگر خدا نخواستہ غرناطہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو قسطہ کا سیلاب ہمارے خلاف اُٹھ آئے گا۔ اس لئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسا وقت آنے سے پہلے تمہیں مراکش بھیج دیا جائے۔ سلطان میرے والد کا دوست ہے۔ منصور اور بشیر کے خاندان کے بہت سے لوگ وہاں موجود ہیں۔ وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔

بدراب ربیعہ کی طرف دیکھنے کی بجائے باہر کی طرف کھلنے والے درپے کی طرف دیکھ رہا تھا۔

ربیعہ کا دل بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ بالآخر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا: "تو آپ مجھے مراکش بھیجنے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟"

"نہیں تمہیں میرے متعلق غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے صرف مشورہ دیا ہے اور مجھے اُمید ہے کہ تم میرا مشورہ قبول کرو گی۔"

"آپ کا مشورہ؟" ربیعہ نے آبدیدہ ہو کر کہا: "آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ربیعہ! تمہارا دل کمزور ہے۔ تم ایک شاہین کی قوت پرواز کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اس لئے میرا حکم ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ یہاں تمہاری ضرورت نہیں۔"

بدر نے کہا: "میری دنیا میں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں اور قدرت نے تمہیں کانٹوں پر

چلنے کے لئے نہیں بنایا۔“

ربیعہ نے جواب دیا۔ قدرت نے مجھے آگ کی چٹا میں ڈالا تھا اور چلنے کی بجائے میں نے ان کانٹوں پر چلنے کی خواہش کی تھی۔ آپ کی راہ کے کانٹے مجھے پھولوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ آپ کے ساتھ چلتے ہوئے میرے پاؤں نہیں ڈگنگائیں گے۔ اور آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کی طرح میں بھی ایک مقصد کے لئے زندہ ہوں۔ قدرت نے میری زندگی کا راستہ اس شاہراہ سے ملا دیا ہے جس پر آپ گامزن ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ غرناطہ کا محاصرہ اٹھ جانے کے بعد..... لیکن..... ”ربیعہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی۔

بدر نے متاثر ہو کر کہا۔ ”ربیعہ! مجھے غلط نہ سمجھو! تمہارا رفیق حیات بنا میرے لئے باعثِ فخر ہے۔ میرے لئے تم وہ سرسبز درخت ہو جس کی چھایوں میں ایک تھکا ہوا مسافر تیار لیتا ہے۔ اس دن جب میں نے تم سے شادی کی درخواست کی تھی۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ غرناطہ کی جنگ سے فارغ ہو کر تمہارے ساتھ زندگی کے چند لمحات گزارنا، میری گزشتہ تلخیوں اور صوبتوں کے لئے بہت بڑا انعام ہو گا۔ لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے صحرا میں ایک آندھی کے بعد دوسری آندھی ہے۔ میں جس سمندر میں اپنی کشتی ڈال چکا ہوں اس کا ساحل روز بروز دور ہوتا جائے گا۔ میرے سامنے ایک بھنور کے بعد دوسرا بھنور ہو گا۔ ربیعہ! تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم مراکش چلی جاؤ۔ میں ایک اہم فیصلہ کرنے سے پہلے تمہارے مستقبل کے متعلق اطمینان چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا گھوڑا کسی دن خالی واپس آئے اور تم یہ محسوس کرو کہ اس دادی میں تمہیں جاننے والا کوئی نہیں۔“

ربیعہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا۔ ”اگر یہ آپ کا حکم ہے تو مجھے سر تابی کی مجال نہیں لیکن اگر یہ آپ کا حکم نہیں تو مجھے اپنے متعلق فیصلہ کرنے کی اجازت دیجئے۔“

بدر نے کہا۔ ”میں نے اپنی بات ختم نہیں کی۔ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر اہل غرناطہ

نے ہتھیار ڈال دئے تو یہ وادی بھی آگ اور خون کے طوفان سے محفوظ نہیں رہ سکے گی اور ہم سب پر ایک دور ایسا بھی آسکتا ہے جب کہ ہمارے سامنے عزت کی موت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو۔

ربیعہ نے کہا: "تو کیا میں عزت کی موت میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔"

بدر بن مغیرہ نے کہا: "ربیعہ! مجھے تمہارے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں۔ میں نے تمہیں چاہے کے سامنے سکراتے دیکھا ہے لیکن مجھے یہ حق نہیں کہ میں چند دن کی مسرت کے لئے تمہیں اپنی زندگی کے پُرخطر راستوں پر لے جاؤں۔ میری رفاقت میں تمہارے لئے مصائب کے سوا کچھ نہیں۔ ربیعہ! میں ہر روز موت کے دروازے پر دستک دیتا ہوں۔ میری زندگی میں صرف آج ہے کل نہیں۔"

ربیعہ نے کہا: "بدر خدا شاہد ہے کہ میں تمہاری رفاقت میں چند لمحات کو ہزار برس کی زندگی پر ترجیح دوں گی۔ اگر زندگی بے مقصد ہو تو اس کی طوالت سے فائدہ؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ طوفان سے پہلے مجھے کسی ساحل پر چھوڑ آنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر زندگی کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں تو میں کنارے پر بیٹھ کر لہریں گننے کی بجائے بھنور میں آپ کا ساتھ کیوں نہ دوں؟ اگر آپ کو میرا خیال ہے تو میری بات پر یقین کیجئے کہ میں نے آپ کو اس زمین کی بجائے ہمیشہ اپنے تخیل کے آسمان پر دیکھا ہے۔ مجھے اپنی بے بسی اور کمتری کا احساس ہے۔ میں آپ کو کسی گزشتہ فیصلے کی پابندی پر مجبور نہیں کروں گی۔ میں اس قابل نہیں کہ آپ کی رفیقہ حیات بن سکوں لیکن آپ مجھے اپنی رفیقہ کار بننے کی سعادت سے محروم نہ کیجئے۔ میں میدان میں تیر اندازی تیغ زنی کے جوہر نہیں دکھا سکتی لیکن زخمیوں کی مرہم پی کر سکتی ہوں۔ مجھے مراکش نہ بھیجئے۔ مجھے اپنی موت سے پہلے ہی زندگی کو خیر باد کہہ دینے پر مجبور نہ کیجئے۔"

بدر بن مغیرہ کچھ دیر تک ایسا رو دفا کے اس پیکر کی طرف دیکھتا رہا۔ اچانک اُس کے ہنسنے ہوئے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی لیکن اُس نے منہ پھیر لیا اور سب جھبکا کر

آہستہ آہستہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ دو تین چکر لگانے کے بعد وہ ربیعہ کے قریب رکا۔ ربیعہ اس کے چہرے پر اپنی قسمت کا فیصلہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔

بد نے کہا: "ربیعہ! میں تمہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ یہ میرا فرض تھا اور اس کے بعد بھی اگر تم نے نچل کے فرس کی بجائے زندگی کی سنگلاخ زمیوں پر میرے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے تو میں تمہارا شکریہ گزار ہوں۔ اگر تم اس تنازع حقیقت سے آنکھیں بند کرنے کے لئے تیار ہو کہ میری زندگی صرف چند برس، چند مہینے یا دن ہے تو میں آج ہی تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لئے تیار ہوں۔ جواب دو ربیعہ! کیا تم اس کے لئے تیار ہو؟"

ربیعہ کے چہرے پر حیا، سرخی چھا گئی۔ اس نے گردن جھکالی۔ اس کی زبان گنگ تھی لیکن اس کے دل دھڑکنیں بد بن مغیرہ کے سوال کا جواب دے رہی تھیں۔

گھوڑی دیر بعد بد بن مغیرہ نے کہا: "ربیعہ! میں نے تمہارے ساتھ شادی کی درخواست کی ہے۔ جواب دو۔"

ربیعہ نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ الفاظ اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں تک آکر رگ گئے۔ تشکر اور احسان مندی کے جذبات نے جھکتی ہوئی نگاہوں کا سہارا لیا۔ بد بن مغیرہ اس کی آنکھوں میں وہ آنسو دیکھ رہا تھا جن میں الفاظ کی ایک دنیا بند تھی۔ اس نے حیرت زدہ ہو کر کہا: "ربیعہ! اگر میں نے تمہارا دل دکھایا ہے تو میں معذرت کے لئے تیار ہوں۔ ربیعہ تم لدا رہی ہو۔"

ربیعہ نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور بلجیانہ لہجے میں کہا: "ان آنسوؤں کے لئے میری معذرت قبول کیجئے۔ مجھے یہ توقع نہ تھی کہ اس تمہید کے بعد ہماری گفتگو یہاں ختم ہوگی۔ یہ آنسو ایک بے بس عورت کا اظہارِ شکر ہے۔"

"تو تمہیں آج ہی میرے ساتھ شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔"

وہ سنجیدہ ہو کر بولی: "آپ مذاق کر رہے ہیں۔"

وہ بولا۔ "میں مذاق نہیں کرتا۔ آج اگر کوئی حادثہ پیش نہ آیا تو ڈوبتے ہوئے سورج کی
آخری نگاہ بدر بن معیرہ اور ربیعہ بنت ابوداؤد کو شوہر اور بیوی کی حیثیت سے دیکھے گی۔"
"لیکن آج ہی، اتنی جلدی۔"

بدر نے جواب دیا۔ "ہاں، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔"
ربیعہ نے بدر بن معیرہ کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی باہر
نکل گئی۔

(۵)

ربیعہ کے پاؤں ڈنگا رہے تھے۔ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اس کی رفتار کبھی تیز اور
کبھی سُست مورہی تھی۔ وہ اینجلا اینجلا کہتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اینجلا
درتپے کے سامنے کھڑی جھانک رہی تھی۔ اُس نے مڑ کر ربیعہ کی طرف دیکھا۔ ربیعہ اپنے
خیال کے مطابق اس کے لئے ایک بہت بڑی خبر لے کر آئی تھی لیکن اینجلا کی آنکھوں میں
آنسو دیکھ کر اُس نے کہا۔ "اینجلا کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو۔"

اینجلا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ "تمہیں معلوم نہیں۔"
ربیعہ انتہائی پریشانی کی حالت میں اُس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اینجلا نے اپنے آنسو
پونچھے کے بعد اس کی طرف دیکھا اور سوال کیا۔ "ہم کب جا رہی ہیں۔"
"کہاں؟"

"ربیعہ! تمہیں مجھ سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت نہیں۔ وہ مجھے سب کچھ بتا
گئے ہیں۔"

"کون بشیر بن حسن۔"

"ہاں۔ وہ ابھی آئے تھے۔"

”اس نے تمہیں یہ بتایا ہوگا کہ ہم مراکش جا رہی ہیں۔“

”ہاں۔“

”لیکن ہم مراکش نہیں جائیں گی۔ اینجلا میری بات پر یقین کر دو ہم یہیں رہیں گی۔“
اینجلا نے کہا: ربیعہ اب دل کو قریب دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہمارے مقصد میں

یہی کچھ تھا۔“

”تم نے بشیر کو کیا جواب دیا۔“

”میں انہیں کیا جواب دے سکتی تھی۔ وہ آئے اور مجھ سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ تم ربیعہ کے ساتھ مراکش جا رہی ہو۔ وہ بہت مغموم تھے۔ ربیعہ میں جانتی ہوں۔ یہ ان کے دل کی آواز نہ تھی پیشتر اس کے کہ میں ان کچھ کہہ سکتی وہ تیزی کے ساتھ باہر نکل گئے۔ مجھے ان سے شکایت نہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا تھا لیکن تمہارا سرحدی عقاب تو تمہیں شادی کا پیغام دے چکا تھا۔ اس نے تمہارے سامنے ان مجبوریوں کا اظہار کیا ہوگا جن کے باعث ہمیں مراکش بھیجا جا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ غرناطہ کے حالات منحوس ہیں۔“

ربیعہ نے کہا: ”اگر میں نے ان کے ساتھ خواب میں باتیں نہیں کیں تو آج غروب آفتاب سے پہلے تمہاری بہن ان کی رفیقہ حیات بن چکی ہوگی۔ اینجلا! میری بات پر یقین کر دو تم مراکش نہیں جاؤ گی۔ یہ فیصلہ فسونج ہو چکا ہے۔“

اینجلا بے اختیار آگے بڑھ کر ربیعہ کے ساتھ لپٹ گئی اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔
”ربیعہ مجھے دھوکا نہ دو۔ خدا کے لئے سچ کہو۔“

”میں بھوٹ نہیں کہتی اینجلا! میری بات پر یقین کرو۔ میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ بیٹھ

جاؤ۔“

اینجلا کرسی پر بیٹھ گئی اور ربیعہ نے اس کے قریب دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے بدر

بن مغیرہ کے ساتھ اپنی ملاقات کی داستان شروع کر دی +

(۶)

قلبہ کے دو سے سرے پر ایک وسیع کمرے میں بشیر بن حسن اور دوسرے طبیب اور جراح مرضیوں کی دیکھ بھال میں مشغول تھے۔ بار بن مغیرہ اس کمرے میں داخل ہوا۔ بشیر بن حسن زخمی کو پٹی باندھ رہا تھا۔ اپنے ایک ساتھی کا اشارہ پا کر بشیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پٹی کو آخری گرہ دینے کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

بدر نے کہا: "آپ کو یہاں کتنی دیر لگے گی...."

بشیر نے جواب دیا: "میرا کام قریباً ختم ہو چکا ہے۔"

"میں تم سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔"

"اگر آپ کو جلدی نہیں تو صرف ایک مریض دیکھنا رہ گیا ہے۔ وہ میرے سوا کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔"

"نہیں مجھے کوئی جلدی نہیں۔ تم فارغ ہو کر سیدھے میرے کمرے میں آؤ۔"

تھوڑی دیر بعد بشیر ابلد کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا: "آپ بہت پریشان

نظر آتے ہیں۔ غرناطہ سے کوئی نئی خبر آئی ہے؟"

"نہیں۔ میں ربیعہ اور اینجلا کے متعلق کچھ کہنا چاہتا تھا۔"

"اینجلا سے میں نے کہہ دیا ہے۔ آپ کو اس بات کی کوئی خبر ملی ہے کہ مراکش کا جہاز

کب یہاں پہنچے گا اور کس جگہ لنگر انداز ہوگا۔"

"ابھی تک اس کی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ ایک یا دو دن میں وہ ضرور پہنچ جائیں گے

اور وہ غالباً المیریا کے شمال میں اسی مقام پر لنگر انداز ہوں گے جہاں وہ پچھلے مہینے لنگر انداز

ہوئے تھے۔"

"تو میرے خیال میں ربیعہ اور اینجلا کو بہت جلد ساحل پر پہنچ جانا چاہیے۔"

”اسی مشاہدہ پر میں تمہارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا تھا“

”میرے خیال میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے“

بدر بن مغیرہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا۔ ”بشیر! اس مسئلے پر ربیعہ کے ساتھ گفتگو کے بعد میں اسے مراکش بھیجنے کے متعلق اپنی رائے بدل چکا ہوں“

بشیر کے پدمردہ چہرے پر اچانک تازگی آگئی اور اس نے کہا۔ ”میرا خواب صحیح نکلا“

”ہاں، اور اس خواب کی آخری تعبیر کا حصہ سن کر تم حیران رہ جاؤ گے“

بشیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ”مجھے اس خواب کی تعبیر کا آخری حصہ ہی معلوم ہے“

”اچھا بتاؤ۔“

”آپ ربیعہ کے ساتھ شادی کر رہے ہیں۔“

”بھلا کب۔“

”آج۔“

”لیکن تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں۔ تمہیں اینجلا نے بتایا ہوگا اور وہ ربیعہ سے سن چکی ہوگی۔“

”نہیں بدر! تمہارا چہرہ میرے لئے ایک کتاب ہے۔ تم ساری دنیا کے لئے ایک مہمما ہو میرے لئے نہیں۔ اب بتاؤں مجھے یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں۔“

”بتاؤ!“

ربیعہ سے ملاقات کے بعد آپ پریشانی کی حالت میں میرے پاس آئے تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ اپنا فیصلہ بدل چکے ہیں۔ آپ نے یہ بتا کر میرے خیال کی تائید کر دی کہ آپ کی پریشانی کا باعث غرناطہ کے متعلق کوئی نئی خبر نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فوجی یا سیاسی پریشانی ہوتی تو آپ مجھے تلاش کرنے کی بجائے منصور کو بلا تے یا مجلس شوریٰ طلب کرتے۔ اس کے بعد جب آپ نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ ربیعہ یہاں رہے گی تو میں نے سنا کہ ہمارے عقاب کو اب

اپنے نشیمن میں تنہا رہنا پسند نہیں۔“

لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں آج ہی یہ شادی کر رہا ہوں؟

آپ کے چہرے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک اہم فیصلہ کر چکے ہیں اور آپ کے

اہم ترین فیصلے فوراً نافذ ہوا کرتے ہیں۔“

”تو تمہارا مطلب ہے کہ میں جلد باز ہوں۔“

”نہیں میں ایک سپاہی کی اہم ترین خصوصیت کی تعریف کر رہا ہوں۔ عام پرندے جتنی

دیر میں اڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، شاہین اتنی دیر میں آسمان کی بندلیوں میں چکر لگا کر

واپس آجاتا ہے۔ جب آپ ربیعہ کے متعلق یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ یہاں رہے گی

تو شادی کو کل پر ملتوی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔“

بدر نے کہا: ”اچھا فرض کر دیا یہ صحیح ہے کہ میں آج ہی شادی کر رہا ہوں۔“

بشیر نے ہنستے ہوئے کہا: ”مجھے فرض کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں۔“

”اچھا اب میں انڈس کے ارسطو سے پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا ارادہ ہے؟“

بشیر نے جواب دیا: ”مجھ پر ایک لڑکی سے معذرت کرنے اور اپنا غلط فیصلہ واپس

لینے کا فرض عائد ہوتا ہے اور یہ فرض بہت زیادہ خوشگوار نہیں۔ ایسے مراحل میں ارسطو

کی عقل کام نہیں دیتی۔“

بدر نے سنجیدہ ہو کر کہا: ”بشیر! میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی بھی آج ہی ہو

جائے۔“

بشیر نے جواب دیا: ”بدر! تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے جلدائی کا تصور

میرے لئے صبر آزما تھا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم انہیں مراکش بھیجنے کا فیصلہ بدل

چکے ہو۔ اگر وہ چلی جاتی تو میری ظاہر داری کے باوجود تم یہ محسوس کرتے کہ تمہارا رفیق اپنے

سرا یہ جیات میں سے بہت کچھ کھو چکا ہے۔ تم میرے کھوکھلے ہاتھوں کے باوجود یہ محسوس

کرتے کہ میں تم سے کوئی بات چھپا رہا ہوں۔“

بدر نے کہا۔ ”بشیر! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اینجلا کی طرح تم بھی اُسے چاہتے ہو تو میں انہیں مراکش بھیجنے کا مسئلہ ہی نہ چھیڑتا۔ میں نے صبح یہ کہا تھا کہ انہیں اب مراکش بھیج دینا بہتر ہوگا تو تمہارا چہرہ یہ بتاتا تھا کہ تم میرے فیصلے سے ذرہ بھر پریشان نہیں ہو۔“

بشیر نے جواب دیا۔ ”اُس وقت میرے سامنے اپنا مسئلہ نہ تھا۔ مجھے ان مجبور یوں

کا احساس تھا جنہوں نے بدر بن معمرہ جیسے مجاہد کو اپنی عزیز ترین خواہشات کو خیر باد کہہ دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ مجاہد جس کی تلوار ایک قوم کو پناہ دے رہی ہے اُس

رٹ کی کو رخصت کر رہا ہے جو اُس کی رفیقہ حیات بننے والی تھی۔ تم میرے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑے تھے۔ تمہاری عظمت مجھے مرعوب کر رہی تھی۔ تم قوم کی زنجیریں کاٹنے کے لیے زندگی

کے تمام ناطے توڑ رہے تھے اور تمہارا ایک رفیق یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ مجھے محبت کے سنہری تاروں نے کسی کے دامن کے ساتھ باندھ رکھا ہے؟ مجھے ربیعہ کا بھی افسوس تھا۔

میں جانتا تھا کہ وہ مراکش میں زندہ رہنے کی بجائے آپ کے ساتھ مرنا پسند کرے گی۔“

بدر نے کہا۔ ”بشیر! یہ میری زندگی میں پہلا فیصلہ تھا جسے میں بدلنے پر مجبور ہوا

ہوں۔ مجھے ربیعہ کا دل توڑنا گوارا نہ تھا۔ میں نے اُسے مستقبل کے تمام خدشات سے آگاہ

کر دیا ہے۔ اس نے ساحل کی بجائے میرے ساتھ بھنور منتخب کئے ہیں۔ اب یہ خدا بہتر

جانتا ہے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط۔ اپنے متعلق میں تمہیں یہ اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ

میرے عزائم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ دشمن کے لئے میری تلوار کی تیزی میں کوئی فرق

نہیں آئے گا۔ مجھے ڈر تھا کہ ربیعہ کے متعلق اتنی جلدی اپنا فیصلہ بدلنے پر تم میرا مذاق اڑاؤ گے

لیکن میں تمہارا احسان مند ہوں۔ اب تم اینجلا کے پاس جا کر اُسے تسلی

دو۔“

شام کے وقت سرحدی عقاب کی وادی میں ایک سر سے لے کر دوسرے

سرے ناک نقادوں کی آواز گونج رہی تھی۔ بدر بن معیرہ اور ربیعہ، بشیر بن حسن اور ایجاب
 کی شادی ہو چکی تھی +

الحمر اکا آخری محافظ

(۱)

غزناطہ کے محاصرہ کو ساتواں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ شہر کی حالت نازک ہو رہی تھی عوام بھوک سے تنگ آچکے تھے۔ غزناطہ کے اکابر الحمر کے ایک کشادہ کرے میں جمع تھے۔ شیر غزناطہ موسیٰ بن ابی عسان غضب آلود نگاہوں سے ابو عبد اللہ اور اس کے درباریوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔

فرڈیننڈ کی طرف سے صلح کا ایلچی کرے میں داخل ہوا۔ اس نے شہ نشین کے سامنے جھک کر سلام کیا اور پھر چند قدم پیچھے ہٹ کر ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں فرڈیننڈ کا مراسلہ تھا۔ ابو عبد اللہ اور حاضرین دربار کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اُس نے مراسلہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا:

”شہنشاہ والا تبار فرڈیننڈ اعظم غزناطہ کے بادشاہ ابو عبد اللہ

کو ایک بار پھر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس بے فائدہ

جنگ کو طول دے کر اپنی رعایا کی مشکلات میں اضافہ نہ

کریں۔ شاہ غرناطہ کو اب تک اس بات کا یقین ہو گیا ہوگا کہ
 جب تک غرناطہ فتح نہیں ہوگا قسطلہ کی فوج واپس
 نہیں بلٹے گی اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ افریقہ
 کے سلاطین جو خود خانہ جنگی میں مبتلا ہیں، اہل غرناطہ کی مدد
 کے لئے کوئی فوج روانہ کریں گے۔ فرڈیننڈ اعظم کو یہ یقین
 ہے کہ ان کی قوت اہل غرناطہ اور ان کے معاون پہاڑی
 قبائل کی قوت مدافعت کچلنے کے لئے کافی ہے۔ اس کے
 باوجود بادشاہ اور ملکہ ابو عبد اللہ اور اس کی رعایا کی طرف
 صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اگر ابو عبد اللہ کو اپنی رعایا کی
 بد حالی میں مزید اضافہ کرنا مقصود نہیں تو یہ ضروری ہے
 کہ وہ فوراً ہتھیار ڈال دے اور صلح کی شرائط طے کرنے
 کے لئے بادشاہ کے دربار میں اپنا اپیل بھیجے۔ شاہ فرڈیننڈ
 یہ یقین دلاتے ہیں کہ ان کا سلوک نہایت فیاضانہ ہوگا۔
 بصورت دیگر شاہ عبد اللہ پر غرناطہ کی عبرت ناک تباہی کی
 ذمہ داری عائد ہوگی۔

اہل دربار خاموشی سے ابو عبد اللہ، ابو القاسم اور موسیٰ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اپیلچی
 نے مراسلہ پیش کر ابو عبد اللہ کو پیش کیا۔ ابو عبد اللہ نے اپنے دائیں بائیں وزیر اور سپہ سالار
 کی طرف دیکھا۔

ابو القاسم عبد الملک نے اپیلچی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: "آپ کو کل تک ہمارا جواب
 مل جائے گا۔"

اپیلچی بادشاہ کو جھک کر سلام کرنے کے بعد کمرے سے نکل گیا۔ دروازے پر دو پہریدار

اس کے ساتھ ہوئے اور اُسے شاہی معان خانہ کی طرف لے گئے۔

ابو عبد اللہ مرسلہ کھول کر ایک نظر دیکھنے کے بعد موسیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور منعموم

لہجے میں بولا: "موسیٰ! تمہاری کیا رائے ہے؟"

موسیٰ اٹھا اور ایک لمحہ کے لئے خاموشی کے ساتھ حاضرین دربار کی طرف دیکھنے

کے بعد بولا:

"ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ فرڈیننڈ کا اپنی صلح

کا پیغام لے کر آ رہا ہے لیکن مصالحت کے لئے پہلی شرط

جو آپ بھیج چکے ہیں یہ ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں۔ میرے

خیال میں ہتھیار ڈال دینے کے بعد ہمارے لئے دوسری

شرائط طے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اس مکتوب کا

مضموم یہ ہے کہ ہم پہلے فرڈیننڈ کی طاقت کے سامنے

گھٹنے ٹیک دیں اور پھر اس کے رحم و کرم پر بھر دوسہ کریں۔

ابوالقاسم عبدالملک نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ فرڈیننڈ ہمارے

ساتھ ایک باعزت سمجھوتہ کے لئے تیار ہے۔ اس لئے

ہمیں کھلے میدان میں فیصلہ کن جنگ لڑنے کا ارادہ ترک

کر دینا چاہیے۔ تم نے میری بات نہ سنی۔ تم خود فریبی میں

بتلا رہنا چاہتے تھے اور آج تم اس کا نتیجہ دیکھ رہے

ہو۔ سلطان معظم وزیر اعظم! اور بزرگان قوم! میری رائے

تمہیں معلوم ہے۔ تو انہی ہمیشہ قلم کے فیصلے کو تسوؤخ نہیں

کیا۔ فرڈیننڈ کا خیال ہے کہ غرناطہ کی لاش قبر میں اُترتی

چا چکی ہے اور اب اُس پر صرف مٹی ڈالنے

ہے۔ اس کا ایلچی تمہارے پاس یہ پیغام لایا ہے کہ اگر تم
لحد میں دفن ہونے کے لئے تیار ہو تو تمہارا قبرستان تمہاری
خواہش کے مطابق بنایا جائے گا۔ تم اپنا گلاب اپنے ہاتھوں
سے گھونٹنے کے لئے تیار ہو جاؤ تو تمہاری لاشوں کی
بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔

سلطان معظم! اگر آپ مجھ سے فریڈینڈ کے کوہ
کا جواب پوچھتے ہیں تو اہل غرناطہ کی طرف سے ایک تلوار
اس کے پاس بھیج دیجئے۔ باعزت معاہدوں کی تحریر قلم
سے نہیں نوک شمشیر سے لکھی جاتی ہے۔“

موسیٰ بیٹھ گیا۔ دربار پر تھوڑی دیر کے لئے خاموشی طاری رہی۔ ابو عبد اللہ نے اپنے
وزیر کی طرف دیکھا اور کہا: "ابو القاسم! تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟"
ابو القاسم نے اٹھ کر جواب دیا:

سلطان معظم! میں موسیٰ بن ابی غسان کا مخالف نہیں
میں ان کے جذبات کا احترام کرتا ہوں لیکن اگر انہیں میری
نیک نیتی پر شبہ ہے تو میں اسی وقت مستعفی ہونے کے
لئے تیار ہوں۔ میرا جرم یہ ہے کہ میں نے شہر سے نکل کر
کھلے میدان میں فیصلہ کن لڑائی کی مخالفت کی ہے۔
لیکن موسیٰ بن ابی غسان کو معلوم ہے کہ میری مخالفت بزدلی
کی وجہ سے نہ تھی۔ میں نے صرف یہ رائے دی تھی کہ اگر
جنگ کا نتیجہ ہوا۔ ہے تو میں نہ نکلا تو ہمیں الم ناک حادثات
سے دوچار ہونا پڑے گا۔

فوج کی جو حالت ہے وہ مجھ سے زیادہ موسیٰ کو معلوم ہے۔ عوام کی حالت کسی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ موسیٰ یقیناً مجھے یہ الزام نہیں دے گا کہ اس دن الحرام کے دروازے پر عوام نے صلح کے حق میں جو مظاہرہ کیا تھا وہ میری کسی سازش کا نتیجہ تھا اور اس کے بعد سلطان معظم کے سامنے فوج کے جن سالاروں اور شہر کے جن اکابر نے کھلے میدان میں فیصلہ کن جنگ کی مخالفت کی تھی، ان سب کو میں نے سکھایا تھا اور آج فرط ہنڈ کے پٹی کی آمد پر شہر کے جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں انہیں میں نے خفیہ ہدایات دی ہیں۔

اکابر غرناطہ! اگر تم موسیٰ کے اس فیصلہ سے اتفاق کرتے ہو کہ ہمارے لئے آخری دم تک لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دشمن کو تمہارے فیصلہ سے آگاہ کر دیا جائے گا۔

ایک سردار نے اٹھ کر کہا: "میری رائے یہ ہے کہ ہم فیصلہ کن جنگ کے لئے تیار نہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اگر دشمن کے ساتھ کسی باعزت سمجھوتہ کا امکان ہو تو گفت شنید کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔"

دوسرے سردار نے اٹھ کر کہا: "جذبات کی زد میں بہہ کر ہمیں سختی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اہل شہر کھوکھوں میں رہ رہے ہیں۔ اگر یہ محاصرہ سردیوں تک جاری رہا تو ہماری حالت اور بھی نازک ہو جائے گی۔ باہر سے بدر بن مغیرہ کی مٹھی بھر جماعت کے سوا ہمیں کسی اور سے مدد کی امید نہیں۔ ہماری فوج فاقہ کشی اور جنگ کی دوہری مصیبت سے تنگ ہے۔"

چکی ہے۔“

ایک عالم دین اٹھ کر بولا۔ ”اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ ہم چند ماہ اور قلعہ بند رہ کر یا کھلے میدان میں لڑ کر فرٹینڈ کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیں گے تو یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے گی اور فرٹینڈ زیادہ تیزی کے ساتھ دوسرا حملہ نہیں کرے گا۔ آخر ہم کب تک لڑتے رہیں گے۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس جنگ کی طوالت باقی اسپین میں ہمارے اُن بے کس بھائیوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے جو وہاں کی عیسائی اکثریت اور عیسائی حکومت کے رحم و کرم پر ہیں۔“

موسیٰ نے اٹھ کر کہا۔ ”اگر آج کے دن ہم غرناطہ میں محصور ہونے کی بجائے قسطلہ کی چار دیواری کے سامنے کھڑے ہوتے تو اسپین میں ہمارے بھائیوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ان پر مصائب کے پہاڑ اس وقت ٹوٹے ہیں جب کہ عیسائیوں کو ہماری بے بسی کا احساس ہو چکا ہے۔“

ایک شخص نے اٹھ کر کہا۔ ”غرناطہ کے بعض علماء کا خیال ہے کہ فرٹینڈ کے ساتھ ہماری یہ بے نتیجہ جنگ جہاد نہیں۔ ہماری قوم کا ایک بڑا عنصر عیسائیوں کا محکوم ہو چکا ہے اور اس جنگ کا نتیجہ ہماری لود ہمارے بھائیوں کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔“

موسیٰ غصے سے ہونٹ کاٹا ہوا اٹھا۔ اُس نے لڑتی ہوئی آواز میں کہا:

”ہماری جنگ ظلم و استبداد کے خلاف انسانیت

کی جنگ ہے۔ ہماری فتح انسانیت کی فتح اور ہماری

شکست انسانیت کی شکست ہوگی۔ میں اس مجلس میں

کسی ایسے احمق کو عالم کے نام سے یاد کرنے کی اجازت

نہیں دوں گا جو اسے جہاد نہیں سمجھتا۔

اہل غرناطہ! تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اس زمین
 کے لئے لڑ رہے ہیں جس پر ہم کھڑے ہیں۔ اگر ہم سے یہ
 چھین گئی تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔ اگر غرناطہ ہمارے ہاتھ
 سے چلا گیا تو اندلس میں اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لئے بجھ
 جائے گا۔

اس کے بعد اہل دربار نے باری باری اس بحث میں حصہ لیا۔ آدھی رات کے وقت
 یہ بحث ختم ہوئی۔ موسیٰ اور اس کے چند ساتھیوں کے سوا باقی سب کا فیصلہ یہ تھا کہ فرٹھینڈ
 کے جواب میں ابوالقاسم عبدالملک کو اُس کے پاس بھیجا جائے اور ابوالقاسم فرٹھینڈ سے
 صلح کے لئے جو شرائط لے کر واپس آئے ان پر بحث کی جائے۔ اگر یہ شرائط قابل قبول
 ہوں تو بہتر ورنہ فیصلہ کن جنگ کی تجاویز پر غور کیا جائے۔

موسیٰ کو یہ یقین تھا کہ فرٹھینڈ کی طرف سے صلح کی شرائط اس قدر ذلیل ہوں گی کہ اہل
 غرناطہ اُسے قبول نہیں کریں گے۔ اس لئے جب اس کی مرضی کے خلاف ابوالقاسم فرٹھینڈ
 کے ساتھ بات چیت کے لئے روانہ ہوا تو اُس نے فوج کو فیصلہ کن حملہ کے لئے تیار رہنے
 کا حکم دے دیا۔ بدر بن مغیرہ اور اس کے ساتھیوں کو بھی اس نے تیار رہنے کے لئے ہدایات
 بھیج دیں۔ ابوالقاسم عبدالملک تین دن تک فرٹھینڈ کے ساتھ سمجھوتے کی شرائط پر
 بات چیت کرتا رہا اور اس دوران میں غرناطہ کی مساجد میں موسیٰ کی رُوح پر و تقریریں اہل شہر
 میں ایک نئی زندگی پیدا کر چکی تھیں۔ عوام کے جوش و خروش کے باعث جنگ کے مخالفین کا عنصر
 بہت حد تک دب چکا تھا۔

(۲)

تین دن کی طویل ملاقاتوں کے بعد ابوالقاسم عبدالملک فرٹھینڈ سے صلح جو شرائط

کرنے میں کامیاب ہوا وہ یہ تھیں :

- ۱۔ فریقین شتر دن تک جگ ملتوی رکھیں گے اور اس عرصہ میں حسب ذیل شرائط پر غرناطہ کی حکومت فرٹھنڈ کے سپرد کی جائے گی۔
- ۲۔ فریقین جنگی قیدیوں کو رہا کر دیں گے۔
- ۳۔ غرناطہ کی عیسائی حکومت مسلمانوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کا ذمہ لے گی۔ مسلمانوں کی مساجد اور اوقاف اور ان کی عبادات میں عیسائی کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ انہیں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور اذان دینے کی پوری پوری آزادی ہوگی۔ مسلمانوں کے گھروں اور ان کی مساجد میں کسی عیسائی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کے مقدمات کا فیصلہ ان کے قانون شریعت کے مطابق ہوگا اور اس مقصد کے لئے مسلمان قاضی مقرر کیے جائیں گے۔ کوئی عیسائی یا یہودی ایسے مقدمات کا فیصلہ کرنے کا مجاز نہ ہوگا۔
- ۴۔ اگر مسلمان چاہیں تو انہیں افریقہ ہجرت کرنے کی اجازت ہوگی اور عیسائی حکومت انہیں اپنے جہاز مہیا کرے گی۔
- ۵۔ مسلمانوں کو ان کا بین تھیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جو عیسائی مسلمان ہو گئے ہیں انہیں بھی اسلام ترک کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں کے گھروں پر عیسائی سپاہ متعین نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان پر کسی نئے ٹیکس کا بوجھ ڈالا جائے گا۔
- ۱۔ غرناطہ چھوڑنے کے بعد سلطان ابو عبد اللہ کے پیروا البشارات کی حکومت کی جانے لگی۔
- ۲۔ شتر روز کے اندر شہر غرناطہ، قلعہ الحمر اور تمام سامان جنگ عیسائیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔

۸۔ عیسائیوں کی طرف فرٹھینڈ کے علاوہ روما کا پاپاٹے اعظم اس معاہدہ پر دستخط کرنے لگا اور اس کی تعمیل کا ذمہ دار ہو گا۔“

ابوالقاسم نے ابو عبد اللہ کے دربار میں معاہدے کی شرائط پڑھ کر سنانے سے پہلے حاضرین سے یہ وعدہ لیا کہ ان شرائط کے متعلق شاہی دربار میں جو باتیں ہوں گی وہ غرناطہ کے عوام پر ظاہر نہیں کی جائیں گی۔

دربار میں اُمراء اور علماء کی اکثریت کے خیال میں فرٹھینڈ کی پیشکش نہایت فیاضانہ تھی لیکن موسیٰ اس معاہدے کی مخالفت میں اپنی سلمیٰ قوتِ بیان سے کام لے رہا تھا چار دن تک بحث ہوتی رہی۔ اُمراء کی اکثریت اس معاہدے کے حق میں اپنے خیالات کا اظہار کر چکی تھی۔ آج بحث کا آخری دن تھا۔

الحجرا میں شیر غرناطہ کی آخری گرج سنانی دے رہی تھی۔ حاضرین دربار دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ بن ابی غسان کہہ رہا تھا:

”اہل غرناطہ! میں تمہارے مرجھائے ہوئے چہروں

پر اس قوم کی تقدیر کا فیصلہ پڑھ رہا ہوں جس نے اس ملک پر آٹھ سو سال حکومت کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری چیخ پکار تم پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ تمہاری رگوں میں وہ خون خشک ہو چکا ہے جسے الفاظ جوش میں لاسکتے ہیں۔ لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ میری آواز ایک بار پھر اس ایوان کی دیواروں سے ٹکرا کر فضا میں گم ہو جائے گی میں تم سے کچھ کہنے پر مجبور ہوں۔“

الفاظ مردوں کے لئے آبِ حیات کا کام نہیں دے

سکتے لیکن اگر تم میں زندگی کی کوئی رست باقی ہے تو میری

بات غور سے سنو۔ قیامت کے دن انہر کی دیواروں کے
یہ بے جان پتھر اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب تم اپنے
ہاتھوں سے اپنا کلا گھونٹ رہے تھے، کسی نے تمہیں منع
کیا تھا۔ جب تم موت کی نیند سو رہے تھے کسی نے تمہیں
جھنجھوڑ کر جگایا تھا اور جب تم اپنے لٹے اور اپنی قوم کے
لٹے ذلت کی زندگی کا راستہ اختیار کر رہے تھے کسی
نے تمہیں عزت کی موت کا راستہ دکھایا تھا۔ تم اپنی
ہمت اور خدا کی رحمت سے مایوس، یہ سمجھتے ہو کہ
دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال کر اپنی زندگی کے باقی دن
آرام سے گزار سکو گے لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ غلامی کی
زندگی کا ہر لمحہ تمہارے لئے موت سے بدتر ہوگا۔ اگر
تمہیں اس بات کی شرم نہیں کہ قیامت کے دن تمہیں
اپنے ان اسلاف کو منہ دکھانا ہے جن کی ہڈیاں غرناطہ
کی خاک میں دفن ہیں، تو خدا کے لئے یہی سوچو کہ تمہاری
آنے والی نسلیں تمہیں کیا کہیں گی۔ تمہیں اپنے اسلاف
سے وراثت میں حکومت ملی تھی اور تم اپنی آنے والی
نسلیں کے لئے کیا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ غلامی۔ ذلت
اور رسوائی!

اگر تم نے ہتھیار ڈال دئے تو نہ صرف ہماری گزشتہ
چند برس کی قربانیاں رائیگاں جائیں گی بلکہ وہ تمام خون
دائیں گے جو طارق بن زیاد کے زمانے سے لے کر

آج تک مسلمان اس سرزمین پر بہا چکے ہیں۔ آج تمہیں قوم
 کے شہیدوں کی رُو میں دیکھ رہی ہیں، ان کے خون کی
 توہین نہ کرو۔ میرا آج بھی یہ ایمان ہے کہ ہم یہ جنگ جیت
 سکتے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ اہلی غرناطہ بھوک اور فاقہ کشی
 سے تنگ آچکے ہیں لیکن کیا بھوک جو بزدل کو بہادر
 بنا دیتی ہے، بہادریوں کو بزدل بنا چکی ہے۔ تم اگر بہت
 نہ ہارو تو قوم آج بھی لڑنے کے لئے تیار ہے۔ ہم چالیس
 ہزار مجاہدین کے ساتھ دشمن کو لوشہ کی جنگ میں شکست
 دے چکے ہیں۔ کیا ایک لاکھ سپاہی غرناطہ کی حفاظت
 نہیں کر سکتے؟ اب تک ہم نے غرناطہ کی چار دیواری کی
 اٹلی ہے لیکن اب ہم سر پر کفن باندھ کر میدان میں آئیں
 گے۔ اگر ہم زندہ رہے تو ہماری آزادی محفوظ رہے گی اور
 اگر شہید ہوئے تو بھی ہماری عزت پر دھبہ نہیں آئے گا۔
 یہ زمین جس کے ہر ذرے پر ہمارے اسلاف کی عزت
 کی داستانیں نقش ہیں ہماری رسوائی نہیں دیکھے گی
 یہ آسمان جس نے آٹھ سو برس تک ہمارے بزرگوں کی
 تلواریں دیکھی ہیں ہمارے پیروں میں غلامی کی زنجیروں
 نہیں دیکھے گا۔ قیامت کے دن ہمارے دامن خون
 شہادت سے رنگین ہوں گے لیکن ان پر غلامی اور
 ذلت کی سیاہی کے داغ نہیں ہوں گے۔

ایک بااثر سردار نے اٹھ کر کہا: "آپ پھر اسی طرح جذبات کی رُو میں بہ رہے ہیں۔"

آپ کی شجاعت میں کلام نہیں لیکن آپ تلخ حقائق کو نظر انداز
کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ الفاظ سے کوئی مورچہ سر
نہیں ہوسکتا۔

موسیٰ بن ابی غسان نے گرج کر کہا: "بیٹھ جاؤ۔ تلخ حقائق کو نظر انداز کرنے کا مجرم
میں نہیں تم ہو۔"

لیکن اس کے بیٹھتے ہی ایک عالم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا: "موسیٰ! خود کشی کسی مذہب
میں جائز نہیں۔ ہم خدا کی رضا کے سامنے لاچار اور بے بس ہیں۔ تفتدیر کا بلکھا کوئی
نہیں مٹا سکتا۔"

موسیٰ کا چہرہ غصے سے تھما اٹھا۔ اُس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔

"تم ذلت اور غلامی کی زندگی اور شہادت کو خود کشی

سمجھتے ہو۔ یہ نئی بات نہیں۔ جب طارق نے اندلس کے

ساحل پر سفینہ جلا کر اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کا حکم

دیا تھا تو تمہارے جیسے دور اندیش اس وقت بھی یہ کہتے

تھے کہ یہ خود کشی ہے اور جب سلطان ابوالحسن کی فوج گوشہ

کی طرف بڑھ رہی تھی تو بھی تمہارا یہی خیال تھا کہ یہ اقدام

خود کشی ہے۔ طلاق اور ابوالحسن تو ہمارے جیسے معمولی انسان

تھے لیکن میدان بدر میں بھی جب سرور کائنات صلی اللہ

علیہ وسلم کے تین سو تیرہ سرفروش دشمن کی ایک بڑی فوج

کے سامنے کھڑے تھے تو منافقین کا ایک گروہ کفار کی

تعداد سے مرعوب ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کا چراغ

ابھی کفر کی آندھیوں کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہیں

نہیں جانتا کہ تم کس خدا کی رضا کے قائل ہو۔ میں صرف ایک
 خدا کو جانتا ہوں۔ اسی کے حکم کو ماننا ہوں اور اسی کی رضا
 کے سامنے سر جھکانا جانتا ہوں۔ میرا خدا وہ ہے جس
 نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تھا۔
 میرا خدا وہ ہے جس نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان
 سے بچایا تھا۔ میرا خدا وہ ہے جس نے تین سو تیرہ کو نہر
 پر فتح دی تھی۔ میرا خدا وہ ہے جس نے قیصر و کسریٰ کے
 تاج اتار کر صحرائے سینا میں عرب کے قدموں میں ڈال
 دئے تھے۔ اس خدا کے محبوب پیغمبر نے مجھے تعلیم
 دی ہے کہ مومن زندہ رہے تو غازی، اور مر جائے تو شہید
 ہوتا ہے۔ اس خدا کو ماننے والے تلوار کی دھار پر چلتے
 ہیں غلامی کی زنجیروں کا بوجھ نہیں اٹھاتے۔ اس خدا کی رضا
 یہ ہے کہ ہم سر پر کفن باندھ کر میدان میں نکل آئیں اور
 دنیا کی آخری حدود تک ظلم و استبداد، وحشت اور بربریت
 کا تعاقب کریں۔

اہل غرناطہ! میں تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا
 ہوں لیکن غرناطہ کو تمہارے خون کی ضرورت ہے۔ اقوام
 کی عزت اور آزادی کی تاریخ آنسوؤں سے نہیں خون
 لکھی جاتی ہے۔

تم قوم کے راہنما ہو۔ قوم نے تمہیں اپنے مستقبل کا
 فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اگر تم نے غلطی کی تو تمام

قوم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ قانونِ فطرت میں انفرادی غلطیوں کے لئے چشم پوشی کی گنجائش ہے لیکن اجتماعی غلطیاں معاف نہیں ہوتیں۔ تم اگر خود ڈوبنا چاہتے ہو تو خدا کے لئے قوم کو ڈوبنے کا شور نہ دو۔ تمہارے پاس وسائل ہیں۔ تم مصیبت کے وقت غرناطہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ گے لیکن قوم کے لئے ایسے حالات پیدا نہ کرو جن کے باعث وہ کہیں کی نہ رہے۔“

موسیٰ بیٹھ گیا۔ ایوان میں سکوت طاری تھا۔ حاضرین کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتے رہے۔
بالآخر ابوالقاسم اٹھا اور اس نے کہا:

”بزرگانِ قوم! غرناطہ کی قسمت کا فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے آپ کے حکم کے مطابق دشمن کے ساتھ صلح کی بات چیت کی تھی لیکن ان شرائط کو منظور کرنا یا نہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ہم جنگ جاری رکھ سکتے ہیں تو میں آپ کے فیصلے کا خیر مقدم کروں گا لیکن اگر آپ بد دل ہو چکے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں صلح کے لئے ان شرائط کو غنیمت سمجھنا چاہئے۔ اپنی انفرادی حیثیت سے میں موسیٰ کے خیالات کی تائید کرتا ہوں لیکن ایک وزیر کی حیثیت میں میں آپ کے فیصلے کا منتظر ہوں۔ اس وقت یہاں وہ تمام سردار اور علماء جمع ہیں جو غرناطہ کی فوج اور عوام کی نمائندگی کا حق رکھتے ہیں میں صرف آنا جانا ہوں کہ اگر آپ جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ

کریں گے تو ان حوصلہ شکن حالات کے باوجود پھر ایک بار
ساری قوم اٹھ کھڑی ہوگی لیکن اگر آپ صلح کے حق میں ہیں تو
فوج یا عوام سے کوئی توقع رکھنا بے سود ہے۔ میں خدا سے
دعا کرتا ہوں کہ وہ فیصلہ کرتے وقت تمہاری راہ سنبھالی
کرے۔“

ایک بربر سردار نے اٹھ کر کہا: ”موسیٰ بن ابی غسان کو معلوم ہے کہ ہم نے انتہائی
ماریوسی کے باوجود بھی جنگ میں اُس کا ساتھ دیا ہے لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ اُن پر پردہ
ڈالنا بے سود ہے۔ جنگ جاری رکھنے کے دو نتائج ہی ہو سکتے ہیں۔ مکمل فتح یا مکمل تباہی لیکن
صلح کی صورت میں ہمارے لئے مکمل تباہی سے بچنے کا راستہ کھلا رہے گا۔“

دوسرے سردار نے اٹھ کر اُس کی تائید کی۔ اس کے بعد علمائے دین نے یکے بعد دیگرے
یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا کی یہ مرضی ہے۔ ہم اس کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔“

غزناطہ کا ایک مفتی جو دین اسلام کے متعلق کئی کتابیں لکھ چکا تھا، اٹھا اور اُس نے کہا۔
”اس میں شک نہیں کہ نصرانی اس وقت ہمارے دشمن ہیں لیکن صلح کے بعد ہمیں ان کے سامنے
پُر امن طریقوں سے اسلام کی تبلیغ کا موقع ملے گا اور نفرت کی دیواریں جو اس وقت ہمارے
درمیان حائل ہیں خود بخود نابود ہو جائیں گی۔ میں وہ دن دیکھ رہا ہوں جب مسلمانوں کے دشمن
اسلام کے بہترین سپاہی ہوں گے۔“

قرطبہ کے ایک مہاجر نے جو گزشتہ چند ماہ سے اپنی ذہانت کے باعث غزناطہ کے
دربار میں کافی اثر و رسوخ حاصل کر چکا تھا اٹھ کر ان خیالات کی تائید کی۔

(۳)

تقریروں کا یہ سلسلہ دوپہر تک جاری رہا۔ غزناطہ کے اُمراء اور علماء صلح کے حق میں اپنا

فیصلہ دے چکے تھے۔ سب سے آخر میں ابوالقاسم نے اٹھ کر ابو عبد اللہ کی طرف دیکھا۔ نصیب قوم کا آخری تاجدار سر تھکائے بیٹھا تھا۔ ابوالقاسم نے کہا: "سلطانِ معظم! قوم کے راہنماؤں کا فیصلہ یہی ہے کہ صلح کی یہ شرائط منظور کر لی جائیں۔ آپ کا کیا حکم ہے؟"

ابو عبد اللہ نے انتہائی بے بسی کی حالت میں اہل دربار کی طرف دیکھا۔ موسیٰ کے سوا سب کے چہروں پر مایوسی ٹپک رہی تھی۔ ابو عبد اللہ نے مغموم آواز میں کہا: "میرا خیال تھا کہ قوم کے یہ راہنما موسیٰ کی تقریر کے بعد اپنی رائے بدل ڈالیں گے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تباہی کی اس آگ کا کوئی علاج نہیں جو میں نے اپنے ہاتھوں سے سلگان تھی: ابو عبد اللہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔"

ابوالقاسم نے موسیٰ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت برس رہی تھی۔ ابوالقاسم نے کہا: "موسیٰ! تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟"

موسیٰ اس کے جواب میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ایک ثانیہ توقف کے بعد بولا:

"میں تم سے آخری بار کچھ کہنا چاہتا ہوں اس

کے بعد تم میری آواز نہیں سُنو گے۔ آج سے ہمارے راستے

مختلف ہوں گے۔ میں عزت کی موت کے لئے تمہارا

ساتھ دے سکتا ہوں، ذلت کی زندگی کے لئے تمہارا

ساتھی نہیں بنوں گا۔ تم سمجھتے ہو کہ فرطہ نیند کی صلح کی

شرائط میں تمہارے لئے امن اور دوستی کا پیغام ہے۔

تم سمجھتے ہو کہ اپنی آزادی دشمن کے حوالے کرنے کے بعد

تم چین سے بیٹھ سکو گے لیکن اپنے آپ کو دھوکا مت دو۔

یہ الفاظ اس کاغذ سے زیادہ بے ثبات ہیں جس پر لکھے

گئے ہیں۔ میری روح اس ذلت کے تصور سے لرزتی

ہے جو تمہیں فرطینڈ کی غلامی میں نصیب ہوگی۔ جب وہ
 غرناطہ پر قابض ہوگا ان فیاضانہ شرائط کے الفاظ کا مفہوم
 بکسر مدلی جائے گا۔ تم سمجھتے ہو کہ تم فرطینڈ کے پرے
 میں آرام کی نیند سو سکو گے۔ تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں بے خفیاں
 اور ذلیل ہو جانے کے بعد تم دین اسلام کی خدمت کر سکو
 گے لیکن یاد رکھو! فرطینڈ کی حکومت کے ساتھ غرناطہ میں
 وحشت و بربریت کا وہ دور آئے گا جو آج تک دنیا کی
 کسی قوم نے نہیں دیکھا۔ وہ زبان جو خدا اور رسول کا نام
 لے گی نوح ڈالی جائے گی۔ تمہاری مساجد کی بے حرمتی
 کی جائے گی۔ تمہارے گھروں کو لوٹا جائے گا۔ تمہاری
 ہو بیٹیوں کو سر بازار سوا کیا جائے گا۔ تمہیں بنوک شمشیر
 عیسائی بنایا جائے گا۔ تمہارے لٹے یہ کشادہ اور عالیشان
 محل نہیں، تنگ و تاریک قید خانے ہوں گے۔ زمین تمہارے
 آنسو دیکھے گی اور آسمان تمہاری آہیں سنے گا۔ میں یہ نہیں
 دیکھوں گا۔ میرے لٹے آزادی کی موت آسان ہے تمہارے
 لٹے غلامی کی زندگی مشکل ہوگی۔ میں جانا ہوں اور اس
 کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے۔“

موسیٰ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ دارالاسود کے دروازے کے باہر ابو عبد اللہ
 کی ماں اور اس کی بیوی کھڑی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ موسیٰ ایک ثانیہ کے لٹے ان
 طرف دیکھ کر رکا اور پھر اسی رفتار سے آگے چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے محل کے دروازہ پر
 لوگوں کا ایک ہجوم کھڑا تھا۔ موسیٰ اپنے خوبصورت گھوڑے پر سوار ہو کر محل سے باہر نکلا۔ وہ سر

سے پاؤں تک لوبہ میں غرق تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر ادھر ادھر ہٹ گئے اور اس نے کسی سے بات کئے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ شہر کے دروازے سے باہر نکلنے کے بعد اُس کا برق رفتار گھوڑا گرد کے بادلوں میں روپوش ہو گیا۔

آج تک شیر غرناطہ کا انجام کسی کو معلوم نہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ دریائے زونیل کے کنارے فرڈینڈ کے سپاہیوں کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو گیا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ فرڈینڈ کی فوج میں گھس کر کئی آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے اور خود بُری طرح زخمی ہونے کے بعد اُس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔

۱۰ موسیٰ بن ابی غسان تاریخ کی ان شخصیتوں میں سے ایک تھا جنہیں فوق العادۃ سمجھ کر لوگ ان کی موت پر یقین نہیں کرتے۔ غرناطہ کے مظلوم مسلمان ایک مدت تک یہ خیال کرتے رہے کہ وہ مراکش پہنچ کر ان کی مدد کے لئے ایک فوج تیار کر رہا ہے لیکن اسپین کا ایک عیسائی مؤرخ فرے "انٹونیو آگا پیڈا" لکھتا ہے کہ ایک شام دریائے زونیل کے کنارے فرڈینڈ کے سپاہیوں نے ایک مور شہسوار کو لکارا۔ مور شہسوار نے انہیں جواب دینے کی بجائے ان پر حملہ کر دیا۔ اور نیزے کے پہلے ہی وار سے فرڈینڈ کے ایک نائٹ کو مار گرایا۔ اس کے بعد اُس نے یکے بعد دیگرے عیسائی دستے کے نصف سے زیادہ سواروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آخر کار وہ بُری طرح گھائل ہوا لیکن اس کے باوجود بھی وہ گھٹنوں کے بل پہ کر خنجر سے مقابلہ کرتا رہا۔ جب اُس کے ہاتھ پاؤں بالکل جواب دے گئے تو اُس نے دم توڑتے وقت بھی دشمن کی قید کی ذلت گوارا نہ کی اور سخت کوشش کے بعد اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ زخموں کی شدت اور اسلحہ کے بوجھ کے باعث وہ تیر نہ سکا اور اُسے دریا کی موجوں نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ عیسائی سوار اس کا گھوڑا پکڑ کر لے گئے اور غرناطہ کے جنگی قیدیوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ گھوڑا موسیٰ بن ابی غسان کا ہے۔

(۴)

الحمرار کے ناز غرناطہ کے عوام کی نظروں سے دیر تک پوشیدہ نہ رہ سکے۔ شہر کے فوجوان جو موسیٰ کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے امرار کے خلاف ہو گئے۔ فوج میں اگرچہ ایک گروہ ایسا پیدا ہو چکا تھا جو صلح کے حق میں تھا لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو جنگ کے بغیر اپنی شکست تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔

ایک صبح جب لوگ بیدار ہوئے تو غرناطہ کی ہر مسجد کے دروازے پر اس قسم کے اشتہار چسپاں تھے کہ ابو عبد اللہ اور اس کے اُمراء دشمن کے ساتھ قوم کی عزت اور آزادی کا سودا کر چکے ہیں لیکن اگلی صبح صلح پسندوں اور شکست خوردہ ذہنیت کے لوگوں نے جگہ جگہ یہ اشتہار چسپاں کر دیئے کہ فرٹھینڈ کی فیاضانہ شرائط کو رد کرنا کفرانِ نعمت ہے۔ یہ انتشار کی ابتدا تھی۔ چند دن میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہر گلی، ہر محلے اور ہر دروس گاہ میں امن پسندوں اور جنگ کے حامیوں کا تصادم ہونے لگا۔ مساجد اور درگاہوں میں متصادم خیالات کے علماء کی تقریریں ہونے لگیں۔ ایک شام عوام کی ایک بڑی جماعت نے ابو عبد اللہ اور اُمراء سے سلطنت کے خلاف سخت مظاہرہ کیا۔ صلح پسندوں کی ایک ٹولی نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن عوام کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ وہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ انہیں مار بھگانے کے بعد عوام نے شہر میں جلوس نکالا اور چند ایسے اُمراء اور علماء کے گھروں کو آگ لگا دی جن پر فرٹھینڈ کے جاسوس ہونے کا شبہ تھا۔ شہر میں خانہ جنگی کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے ابو عبد اللہ نے شہر دن کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی شہر کو فرٹھینڈ کے حوالے کر دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ۱۲ ربیع الاول ۸۹۶ھ یعنی ۱۴۹۲ء میں غرناطہ کو دشمن کے قبضہ میں دے دیا گیا۔

ابو عبد اللہ گھوڑے پر سوار ہو کر الحمرار سے نکلا۔ اس کے پیچھے شہر کے پچاس اُمراء

بھی گھوڑوں پر سوار تھے۔ شہر سے باہر فرڈیننڈ، ملکہ ازابیلا اور ان کی فوج قطاریں باندھ کر کھڑی تھی۔ ابو عبد اللہ نصرانی بادشاہ کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اتر پڑا۔ ضبط کی انتہائی کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ فرڈیننڈ نے گھوڑے سے اتر کر اسے گلے لگا لیا۔

ابو عبد اللہ نے اسے الحمرار کی کنجیاں پیش کرتے ہوئے کہا: "خدا نے تجھے غرناطہ کی حکومت عطا کی ہے۔ میری دعا ہے کہ وہ تجھے رحم، عدل اور انصاف کے قابل بنائے۔"

ابو عبد اللہ ملکہ ازابیلا کی طرف متوجہ ہوا۔ ملکہ الحمرار کی عظمت کے سامنے غرناطہ کے آخری تاجدار کی بے کسی دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہی۔ ایک لمحہ کے لئے وہ ایک عورت تھی۔ اس کا دل بھر آیا اور وہ آبدیدہ ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ ملکہ کا اشارہ پا کر فرڈیننڈ ابو عبد اللہ کو تسلی دینے کے لئے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ابو عبد اللہ نے کسی توقف کے بغیر گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی باگ موڑ لی۔ گھوڑی دیر بعد وہ اس قافلے کے ساتھ جا ملا جو اس کے مال و متاع کے ساتھ انڈرکس کا رخ کر رہا تھا۔ اس قافلے میں اس کی والدہ ابدیوی بھی تھیں۔

فرڈیننڈ کی افواج فتح کے نقارے بجاتی ہوئی شہر میں داخل ہوئیں۔ بادشاہ اور ملکہ نے اپنے اپنے مذہبی پیشوا سے درخواست کی کہ وہ اپنے مقدس ہاتھوں سے الحمرار کے برج پر نشانِ صلیب نصب کرے۔

غرناطہ کے مردوں، عورتوں اور بچوں کی نگاہیں الحمرار کے برج پر لگی ہوئی تھیں۔ یہ شہر جس نے صدیوں تک مجاہدینِ اسلام کو دروازہ کی فتوحات سے واپس آکر مسرت کے نور سے لگاتے سنا تھا اب دشمن کی فتح کے ترانے سن رہا تھا۔ الحمرار کے برج پر ابھی تک پرچمِ اسلام لہرا رہا تھا۔ اہل غرناطہ اپنے مقدر کے اس سارے کو دیکھ رہے تھے۔

جو ہمیشہ کے لئے غروب ہونے والا تھا۔ جب غرناطہ کا ہلالی پرچم اُتار جا رہا تھا اور اُس کی جگہ صلیب کا جھنڈا بلند ہو رہا تھا، ایک طرف فرٹینڈ کی فوج کے سپاہی خوشی کے ترانے گارہے تھے اور دوسری طرف اہل غرناطہ کی جگر دوز چینیں سُنائی دے رہی تھیں۔ ایک فاتح قوم کی رگوں میں زندگی کا خون دوڑ رہا تھا اور ایک مفتوح قوم کی نبضیں ڈوب رہی تھیں۔“

ابو عبد اللہ نے البشارات کی ایک پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر اپنا گھوڑا روکا۔ اس نے آخری بار غرناطہ کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔

بہادر ماں نے حقارت آمیز لہجے میں کہا: ”تم جس سلطنت کی حفاظت کے لئے مردوں کی طرح اپنا خون نہ بہا سکتے اب اس کی بربادی پر عورتوں کی طرح آنسو بہانے سے کیا فائدہ؟“

البشارات کے ایک محدود علاقے میں ابو عبد اللہ کی حکومت چند دن سے زیادہ نہ رہی۔ وہاں کے حریت پسند مسلمانوں کے دل میں اس کے لئے نفرت کے سوا کچھ نہ تھا۔ ابو عبد اللہ نے عیسائی فوج کی مدد سے اُن پر حکومت کرنے کی بجائے اکنس کی طرف ہجرت کی اور وہاں سلطان کی فوج میں ملازم ہو گیا۔

(۱۵)

موسٰی بن ابی عسان کے خدشات صحیح ثابت ہوئے۔ یہ معاہدہ جسے اہل غرناطہ اپنے لئے امن اور فارغ البالی کا پیغام سمجھتے تھے ایک دامِ فریب تھا اور وہ اس میں پھنس چکے تھے۔ تلوارِ قلم کی تحریرِ منسوخ کر چکی تھی۔ فاتح اپنی خواہش کے مطابق معاہدے کی شرائط کا مفہوم بدل رہا تھا اور مفتوح کا احتجاج بے معنی تھا۔ فاتح قوم کے مذہبی پیشوا یہ فیصلہ جسے چکے تھے کہ مسلمانوں کا دین اسپین کے اتحاد کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ مسلمان حکومت

کے وفادار نہیں بن سکتے۔ اہلِ غرناطہ، مراکش اور اہلِ اسلام کے دوسرے مسلمانوں کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جاسوس ہیں اور ان کی علیحدہ زبان، علیحدہ لباس اور علیحدہ تمدن، عیسائی حکومت کے لئے مستقل خطرہ ہے۔ حکومت ان کی حفاظت کا صرف اس صورت میں ذمہ لے سکتی ہے جبکہ وہ تبدیلی قلب کا ثبوت دیں اور تبدیلی قلب کا ثبوت دینے کے لئے ان کے راہنمائوں کے رسمی اعلانات کافی نہیں۔ انہیں امن پسند شہری بننے کے لئے حکومت کا مذہب اختیار کرنا پڑے گا۔ نہ صرف دنیا میں امن اور آزادی کی زندگی بسر کرنے کے لئے بلکہ آخرت کی نجات کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اسلام ترک کر کے عیسائیت کے دامن میں پناہ لیں۔

مسلمانوں کے لئے ان کی مساجد کے دروازے بند ہو رہے تھے۔ انہیں نماز پڑھنے یا اذان دینے کی اجازت نہ تھی۔ سر بازار عربی زبان میں گفتگو کرنا ایک ناقابلِ معافی جرم تھا۔ غرناطہ کی وہ عظیم الشان درس گاہیں جنہوں نے آٹھ صدیوں تک مغرب کے ممالک کو علم کی روشنی دی تھی اب حکماً بند کی جا رہی تھیں۔ وہ کتب خانے جہاں علم کی قندیلیں روشن تھیں، آگ کے سپرد کئے جا رہے تھے۔ غرناطہ سے باہر زرخیز ارضیات اور باغات پر عیسائی قابض ہو چکے تھے۔ تجارت پیشہ مسلمان اپنی دکانوں سے محروم کئے جا رہے تھے۔ لوٹ مار اور قتل و غارت کا طوفان شروع ہو چکا تھا۔ غرناطہ کے یہودی تاجر کافی متمول تھے لیکن وہ اپنی دولت بچانے کے لئے لوٹ مار کرنے والوں کو دولت مند مسلمانوں کے گھروں کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ حکومت کے عمال کے پاس تھوڑے بہت تحائف لے جاتے اور لوٹ مار کے لئے ان کی توجہ مسلمانوں کی طرف مبذول کراتے۔

یہ صرف ابتدا تھی۔!

ہر نئی صبح غرناطہ کے مسلمانوں کے لئے ایک نئی مصیبت کا پیغام لے کر آتی تھی اور ہر شام آفتاب کی آخری نگاہیں ان کے چہروں پر مایوسی اور بے بسی میں ایک نیا اضافہ

دیکھتی تھیں۔ اہلِ غرناطہ زبانِ حال سے یہ کہہ رہے تھے:

”اب کیا ہوگا؟“

”اب ہم کیا کریں؟“

”اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟“

قوم کے ترکش کا آخری تیر

(۱)

جبل شیلیہ کی ایک وادی میں نجدی فوج کے علاوہ تمام ان پہاڑی قبائل کے راہنما جمع تھے جو غرناطہ چین جلنے کے بعد عقاب کی وادی کو اپنا آخری حصار سمجھ چکے تھے۔ بدر بن مغیرہ ایک پتھر پر کھڑا ان کے سامنے تقریر کر رہا تھا:

میرے عزیزو اور میرے بزرگو! اور میرے ساتھیو!
دشمن ہم پر چاروں طرف سے یلغار کر رہا ہے۔ وہ ہمیں
مغلوب کرنے کے لئے اپنی تمام قوت بروئے کار لا چکا
ہے۔ جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں وہ تم سے
پوشیدہ نہیں۔ میں ان حالات میں تمہارے ساتھ
صرف ایک وعدہ کر سکتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر تم
عزت اور آزادی کی زندگی حاصل نہ کر سکتے تو بھی عزت
کی موت کا دروازہ تمہارے لئے بند نہیں ہوگا۔ اگر

تم نے مجھے اپنا رہنما بنایا ہے تو تمہارے لئے میرا پیغام
 یہ ہے کہ تمہارے مقدر میں آزادی کی زندگی یا عزت
 کی موت ہے۔ غلامی کی زندگی یا ذلت کی موت نہیں۔
 یہ قانونِ فطرت ہے کہ اس دنیا میں جو پیدا ہوتا
 ہے وہ ایک دن ضرور مرتا ہے۔ اگر دنیا کی زندگی کا انجام
 موت ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم ایک لمحہ
 کے لئے زندہ رہے یا ایک صدی تک زندہ رہے۔ مرنے
 والے کی قبر سے دنیا صرف یہ پوچھا کرتی ہے کہ تم زندہ
 رہے تو کس شان سے زندہ رہے اور تم مرے تو کس
 آن سے مرے۔ مجھے اس بات پر ناز ہے کہ جب میں
 اس سرزمین کو اپنے اسلاف کی قبریں دیکھتا ہوں تو مجھے
 ندامت سے اپنا سر جھکانا نہیں پڑتا۔ تاریخ شاہد ہے کہ انہوں
 نے کسی وقت بھی عزت کا دامن چھوڑ کر ذلت کی زندگی کا
 دامن نہیں پکڑا۔ انہوں نے عزت کی موت کے راستے سے
 بھٹک کر ذلت کی زندگی کے دروازے پر دستک نہیں
 دی اور اپنے اسلاف کی طرح مجھے بھی یہ گوارا نہیں کہ
 آنے والی نسلیں میری قبر کو تعارت کی نظر سے دیکھیں۔ میں
 قیامت کے دن اس جماعت کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں جس
 نے حق اور انسانیت کے لئے لڑ کر جان دی۔ مجھے اُن
 لوگوں کے ساتھ اٹھنا پسند نہیں جنہوں نے چند دن کی
 ذلیل زندگی کی خاطر حق و صداقت سے منہ پھیر لیا اور

اپنی آنے والی نسلوں کے لئے دائی غلامی کی لعنت چھیڑ
گئے۔ مومن حق کے لئے جان دیتا ہے۔ حق سے نہ خیر
کہ زندہ رہنا اپنے لئے باعثِ ننگ و عار سمجھتا ہے۔
ہم تعاد میں بہت کھوڑے ہیں۔ ہمارے ذرائع
محدود ہیں لیکن اپنے ماہمی کی تاریخ کے اوراق الٹ کر
دیکھو اور وہ دن یاد کرو جب کہ حق پرستوں کی ایک مٹھی
بھر جماعت نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر قسب و کسریٰ
کی سلطوت کے پرچم سرنگوں کر دئے تھے۔ وہ دن یاد
کر جب طارق بن زیاد نے اندلس کے ساحل پر پہنچ
کر اپنا سفینہ بلا دیا تھا اور اپنے جانبازوں کو یہ پیغام
دیا تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں آگے بڑھنے کے لئے ہیں
پتھے ہٹنے کے لئے نہیں۔

ہماری جنگ وحشت اور بربریت۔ ا کے خلاف انسانیت
کی بناوت ہے۔ یہ اصول کی جنگ ہے۔ اگر ہم لڑتے
ہوئے ختم ہو جائیں تو بھی ہمارا مقصد زندہ رہے گا۔
انسانیت ہر دور میں وحشت کے خلاف آواز بلند کرتی
رہے گی۔ ہر زمانے میں حق پرستوں کا کوئی نہ کوئی گروہ
اس عظیم الشان مقصد کے لئے شمشیر بکف رہے گا جب
تک انسانیت زندہ رہے گی یہ مقصد زندہ رہے گا
اور جب تک یہ مقصد زندہ رہے گا ہم زندہ رہیں گے۔
اندلس کے مؤرخ انسانیت کے علم برداروں کے نام فرابوش

نہیں کریں گے۔ وقت صفحہ ہستی سے وہ تحریر نہیں مٹ
 سکتا جو شہیدانِ قوم اپنے خون سے لکھا کرتے ہیں۔
 غرناطہ کے متعلق جو اطلاعات آرہی ہیں وہ بیحد
 المناک ہیں۔ مسلمانوں کو بنوکِ شمشیر اسلام ترک کرنے پر مجبور
 کیا جا رہا ہے۔ ظلم، وحشت اور بربریت کے ہاتھ چاروں
 طرف سے ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ بازاروں میں
 مسلمانوں کی زندگی محفوظ نہیں اور گھروں میں ان کی بہو
 بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں۔ اب اس معاہدے کے الفاظ
 کے معنی بدل چکے ہیں جسے اہلِ غرناطہ اپنی عزت اور بقا
 کا ضامن سمجھتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے ایک صحیح اصول
 کے لئے تلوار اٹھانے سے انکار کیا تھا اب دشمن کے غلط
 فیصلے تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی
 عزت اور آزادی کے لئے خون بہانے سے دریغ کیا
 تھا اب بے بسی کے آنسوؤں سے اپنی تاریخ کا آخری
 باب لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے آزادی کے تاج پر
 غلامی کی زنجیروں کو ترجیح دی۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ
 وہ غلامی کا نہایت معمولی بوجھ اٹھا کر زندگی کے ہزاروں
 انعامات حاصل کر سکیں گے لیکن اب ان پر زندگی کی نعمتوں
 کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور غلامی کا بوجھ آئے دن
 زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان کی ہڈیاں اس بوجھ کے تیغ
 پس رہی ہیں لیکن وہ احتجاج نہیں کر سکتے۔ ان میں سے

بعض کا یہ خیال تھا کہ وہ عیسائی بن کر ان آلام و مصائب سے نجات حاصل کر لیں گے لیکن اب وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ غلام عیسائی اور حکمران عیسائی میں بہت فرق ہے۔

میرے دوستو! جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک آپ میرے ساتھ ہیں میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس وادی میں غرناطہ کی تاریخ نہیں دہرائی جائے گی ہم لڑیں گے۔ ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ اندلس کی خاک ہماری بے بسی کے آنسو دیکھنے کی بجائے ہمارے خون سے سیراب ہوگی۔

(۳)

عیسائیوں کو غرناطہ پر قابض ہونے سے سات سال گزر چکے تھے۔ جنوب مشرق میں ایک چھوٹے سے پہاڑی علاقے کے سوا باقی اسپین پر ان کا تسلط تھا۔ جب اہل غرناطہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے قرطبہ، اشبیلیہ، طلیطلہ اور باقی اندلس کے مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ وہ غرناطہ کی جنگ کے باعث اپنے عیسائی حکمرانوں کے مظالم کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ اگر غرناطہ کے مسلمان ہتھیار ڈال دیں تو عیسائی ان پر ظلم نہیں کریں گے۔ اسپین میں امن اور مذہبی رواداری کا ایک نیا دور شروع ہو گا۔ چنانچہ جب انہیں یہ خبر ملی کہ اہل غرناطہ نے ہتھیار ڈال دئے ہیں تو انہوں نے عیسائیوں کو خوش کرنے کے لئے فتح کے جشن میں حصہ لیا۔ اپنے عیسائی حاکموں کے دروازوں پر جمع ہو کر فتح کے نعروں لگائے۔ ان کے مذہبی رہنماؤں نے یہ اعلان کیا کہ غرناطہ کی فتح فقط عیسائیوں

کی فتح نہیں، ہم سب کی فتح ہے۔ انہوں نے بدر اور اس کے مجاہدین کے خلاف ملک کے ساتھ غداری کا الزام لگایا جو اب تک پہاڑوں اور جنگلوں میں آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔

لیکن سات سال کے عرصہ میں انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ ظلم کی چکی میں غرناطہ ایک ایسا سخت پتھر تھا جو اس کے دو پاٹوں کے درمیان حدِ فاصل کا کام دے رہا تھا اور اس پتھر کے ہٹ جانے کے بعد چکی کے دونوں پاٹ آپس میں مل چکے تھے۔ وحشت اور بربریت کا سیلاب جو ایک مدت سے غرناطہ کی حدود پر رکا رہا اب اپنے راستے کا آخری پتھر ہٹانے کے بعد ہر سمت سے مسلمانوں کا تعاقب کر رہا تھا۔ اندلس کے وہ مسلمان جو فتح کے لئے اہل غرناطہ کا ساتھ نہ دے سکے، اب ذلت، رسوائی اور منظرِ موت میں ان کے ساتھ برابر کے حصّہ دار تھے۔ وحشت کے ہاتھ ہر بستی اور ہر شہر میں انسانیت کا دامن فوج رہے تھے۔

عیسائی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ اسپین کے مسلمانوں کے لئے اب صرف تین راستے ہیں۔ ترکِ اسلام، ترکِ وطن یا موت۔ جن لوگوں نے عیسائی مذہب قبول کیا وہ عیسائیوں کے ساتھ مساوی اور برابر رکھے۔ حکمران ان کے ساتھ نفرت سے پیش آتے تھے۔ ان کی نیت پر شبہ کیا جاتا تھا۔ ان پر یہ الزامات لگائے جاتے تھے کہ وہ درپردہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ گھروں میں عربی بولتے ہیں۔ پہاڑی باغیوں کی فتح کے لئے دُعا میں مانگتے ہیں۔ ان الزامات میں ماخوذ ہونے والوں کو عام طور پر دُروں کی سزا دی جاتی تھی۔ وہ مسلمان جو کلمہ توحید پڑھنے پر مُصر تھے بدترین سزاؤں کے مستحق سمجھے جاتے تھے انہیں گرم لوہے سے داغا جاتا۔ انہیں پتیوں پر کھینچا جاتا اور انہیں مساجد کے دروازوں کے سامنے زندہ جلایا جاتا۔ ان حالات میں لاکھوں مسلمان مراکش کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ شمال کے قافلے جنوب کی بندرگاہوں کا رخ کرتے۔ جو لوگ راستے میں اُٹ مارے سے بچ کر

ساحل تک پہنچتے انہیں مراکش پہنچنے کے لئے جہازدانوں کو بھاری اجرت ادا کرنا پڑتی۔ اگرچہ معاہدے کی شرائط کی رو سے عیسائی حکومت اسپین سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو اپنے خرچ پر افریقہ کے ساحل تک پہنچانے کی ذمہ دار تھی اور فردکلینڈ بذاتِ خود یہ چاہتا تھا کہ ہجرت کرنے والوں پر سختی نہ لگائی جائے تاہم حکومت کے افسر معاہدے کی باقی شرائط کی طرح اس شرط کو بھی کوئی اہمیت دینے کے لئے تیار نہ تھے۔ شمالی افریقہ کے مسلمان حکمرانوں نے اپنے تمام جہاز اسپین کے پناہ گزینوں کو نکلانے کے لئے وقف کر دیئے لیکن لاکھوں مسلمانوں کو نکلانے کے لئے ایک مدت درکار تھی۔

اہلِ غرناطہ نے عیسائی حکومت کے وحشیانہ مظالم سے تنگ آکر بغاوت کی لیکن حکومت نے چند ہی دنوں میں ہزاروں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور بغاوت فرد کر دی۔ جنوب مشرق کے پہاڑوں اور جنگلوں میں ابھی تک آزادی کے پرچم لہرا رہے تھے فریقین نے بدر بن مغیرہ کی سرکوبی کے لئے کئی مہینے روانہ کیے لیکن اسے ہر باہنا کامی کامنہ دیکھنا پڑا۔ عتاب کی وادی کے مجاہدین کی تعداد آٹھ دن کم ہو رہی تھی۔ اس کے بہت سے ساتھی ہمت ہار کر ہجرت کر رہے تھے لیکن اس کے عزم و استقلال میں کوئی فرق نہ آیا۔

(۳)

رات کے تیسرے پہاڑ چانک ربیعہ گری نیند سے بیدار ہوئی۔ اس کے مکرے میں مشعل جل رہی تھی اور بدر بن مغیرہ زندہ بکتر میں ملبوس اس کے سر ہانے کٹر اغور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔

ربیعہ نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا: "آپ کب آئے؟"

"میں ابھی آیا تھا اور ابھی جا رہا ہوں۔"

ربیعہ جواب طلب نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ بدر بن مغیرہ نے کہا۔

"ربیعہ! شمال کے محاذ پر خدا نے ہمیں فتح دی ہے۔ ہم نے دشمن کو تیس میل پیچھے ہٹا دیا ہے لیکن یہاں پہنچتے ہی مجھے منصور کی اطلاع ملی ہے کہ دشمن کی ایک بہت بڑی فوج نے مغرب کی طرف سے حماہ کر دیا ہے۔ میں اب وہاں جا رہا ہوں۔ انشاء اللہ اس فتح کے بعد میں کئی راتیں آرام کی نیند سو سکوں گا۔ یوسف کیسا ہے؟"

ربیعہ نے جواب دیا۔ "یوسف اب ٹھیک ہے۔ پرسوں اس کا بخار اتر گیا تھا اگر کہیں تو اسے جگا دوں۔"

"نہیں اسے سونے دو۔ وہ میرے ساتھ جانے کے لئے ضد کرے گا۔ زبیدہ کیسی ہے؟"

"زبیدہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اب کہانیاں سننے کے شوق میں یوسف کے کمرے میں ہی سو جاتی ہے۔ بشیر کہاں ہے؟"

بدر بن مغیرہ نے جواب دیا۔ "وہ زخمیوں کو یہاں لارہا ہے۔ اُمید ہے کہ کل تک پہنچ جائے گا۔ اس دفعہ جنگ میں ہمارے دو سو آدمی زخمی اور پچاس مجاہد شہید ہوئے ہیں لیکن اس کے بدلے دشمن کے تین ہزار سے زیادہ سپاہی موت کے گھاٹ اُتارے جا چکے ہیں۔ ربیعہ خاموشی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ قلعہ سے باہر جمع ہونے والے سپاہیوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ اچانک ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک سات برس کا لڑکا آنکھیں ملتا ہوا نمودار ہوا اور بھاگ کر بدر بن مغیرہ کے ساتھ لپٹ گیا۔"

بدر بن مغیرہ نے اسے اٹھا کر گلے لگا لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ "یوسف بیٹا تم جاگ رہے تھے؟"

یوسف نے جواب دیا۔ "مجھے زبیدہ نے جگایا ہے۔ آپ پھر جا رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔"

”نہیں بیٹا! تم ابھی بہت چھوٹے ہو۔“

”آپ ہمیشہ ہی کہنا کرتے ہیں۔ زبیدہ سے پوچھئے۔ میں نے آج کی گڑیا ہوا میں اُچھال کر اُسے تیرا نشانہ بنایا تھا۔ وہ کہتی تھی اب تم بڑے بڑے ہو گئے ہو۔ اب تم جہاد پر جا سکتے ہو۔“

”نہیں بیٹا! ابھی تمہارے ننھے ننھے ہاتھ تلوار اور نیزہ اٹھانے کے قابل نہیں۔ تم ابھی تک ننھی سی کمان کے ساتھ کھیلتے ہو۔ جب تم بھاری کمان سے تیر چلانے کے قابل ہو جاؤ گے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ابھی تمہیں اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہیئے۔“

”لیکن آبا جان جب تک میں بڑا ہوں گا یہ جنگ ختم تو نہیں ہو جائے گی۔“
 ”گنہ اور اسلام کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی بیٹا! جب تک ایک مسلمان بھی باقی ہے یہ جنگ جاری رہے گی۔“

زبیدہ جس کی عمر کوئی چھ برس تھی دروازے کے پیچھے کھڑی ان کی باتیں سنتی رہی۔ بالآخر جھجکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ بدر بن مغیرہ نے یوسف کو اتار کر اسے گلے لگایا۔
 زبیدہ نے کہا۔ ”میرے آبا جان کیوں نہیں آئے؟“
 ”بیٹی! وہ کل آجائیں گے۔“

یوسف بدر بن مغیرہ کا بیٹا تھا اور زبیدہ بشیر بن حسن کی بیٹی تھی۔ ان بچوں کے ساتھ کھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد بدر بن مغیرہ انہیں دوسرے کمرے میں چھوڑ آیا اور وہ بادلِ نخواستہ اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔

رخصت کے وقت ربیعہ اور بدر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ مجاہد کی بیوی اپنے شوہر کو آنسوؤں اور سسکیوں کے بغیر رخصت کرنے کی عادی ہو چکی تھی۔

بدر نے خدا حافظ کہا لیکن کسی نے برآمدے کی طرف کھلنے والا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے

آواز دی۔ "ربیعہ! ربیعہ!!"

ربیعہ نے آواز پہچان کر جواب دیا۔ "آؤ اینجلا"

اینجلا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی اور سہمی ہوئی نگاہوں سے اُن کی طرف

دیکھنے لگی۔

بدر نے کہا۔ "اینجلا بشیر ہاں کل پہنچ جائے گا۔ وہ زخمیوں کو یہاں لا رہا ہے۔"

اینجلا نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ "میں نیچے سپاہیوں کا شور سن کر بیدار

ہوتی تھی۔ معلوم ہوتا ہے آپ پھر کہیں جا رہے ہیں؟"

"ہاں۔ میں مغربی محاذ پر جا رہا ہوں۔ بشیر سے میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ زخمیوں کی

دیکھ بھال کے لئے یہیں رہے۔"

بدر بن مغیرہ نے ربیعہ کی طرف دیکھا اور خدا حافظ کہہ کر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا باہر

نکل گیا۔

تھوڑی دیر بعد ربیعہ اور اینجلا درپچے میں کھڑی باہر جھانک رہی تھیں۔ مجاہدین

کی فوج قلعے سے نکل کر جنگل میں روپوش ہو چکی تھی لیکن گھوڑوں کی ٹاپ ابھی تک سنا

دے رہی تھی۔ یہ ٹاپ آہستہ آہستہ مدھم ہوتی گئی اور بالآخر فضا میں گم ہو کر رہ گئی۔

ربیعہ اور اینجلا اب باہر جھانکنے کی بجائے ایک دوسری کی طرف دیکھ رہی تھیں۔

ساتھ کے کمرے میں ان کے بچے یوسف اور زبیدہ بھی اپنے اپنے بستر سے اٹھ

کر درپچے کے سامنے کھڑے تھے۔ سن شعور سے لے کر اب تک ان کے کانوں نے جس

آواز کو دل چسپی کے ساتھ سنا تھا وہ قلعے سے جانے والے اور قلعے کی طرف آنے

والے گھوڑوں کی آواز تھی۔

(۴)

قلعے کے چند کمرے زخمیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اینجلا اور ربیعہ جو مرہم پٹی کا کام سیکھ چکی تھیں، طبیبوں اور جراحوں کا ہاتھ بٹا رہی تھیں۔ گزشتہ چند دن انہوں نے نہایت بے آرامی کی حالت میں گزارے تھے۔ مغربی محاذ سے آنے والے زخمیوں کی تعداد میں آٹھ دن اضافہ ہو رہا تھا۔ اس قلعے کے علاوہ چند میل کے فاصلہ پر ایک اور قلعہ میں بھی زخمیوں کے علاج کا بندوبست کیا جا چکا تھا اس لئے بشیر بن حسن کو دن میں ایک بار وہاں بھی جانا پڑتا تھا۔ جنگ کے متعلق آٹھ دن تشویش ناک خبریں آرہی تھیں۔ مجاہدین دشمن کو کئی بار پیچھے ہٹا چکے تھے لیکن ہر شکست کے بعد دشمن تازہ سپاہ میدان میں لا رہا تھا۔ یہ سرحدی عقاب کی پہلی جنگ تھی جس میں شہیدوں کی تعداد ایک ہزار تک پہنچ چکی تھی۔

ایک دن علی الصباح محاذ جنگ سے آنے والے قاصد نے بشیر بن حسن کو یہ خوش خبری دی کہ مجاہدین فرڈیننڈ کی افواج کو شکست دینے کے بعد ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ قلعے میں فتح کا نقارہ بجایا گیا۔ آس پاس کی بسنتیوں اور فوجی چوکیوں میں رہنے والے لوگوں کے کان اس نقارے کے مفہوم سے آشنا تھے اور وہ اس کے جواب میں اپنی اپنی جگہ نقارے بجانے لگے۔ ان کی آن میں عقاب کی وادی کے ایک سرے سے نئے کمرے دوسرے سرے تک نقادوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ ہر بستی کے بچے، بوڑھوں اور عورتوں کی زبان پلٹا کبیر کا نعرہ تھا۔ وہ لوگ جنہیں آٹھ دن زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد میں اضافے کی خبریں سن کر جنگ کے نتائج کے بارے میں تشویش تھی بارگاہ ایزدی میں شکر کے آنسو پیش کر رہے تھے۔

قلعے کے اندر بعض زخمی فتح کی خبر سنتے ہی اپنے اپنے کمرے سے باہر نکل آتے

اور وہ زخمی جو چلنے کے قابل نہ تھے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ مرجھائے ہوئے چہروں پر زندگی کا نشان دور رہا تھا۔ سہمی ہوئی نگاہیں فخر اور غرور کے ساتھ آسمان کی طرف اُٹھ رہی تھیں۔ قلعے کے پریدار زخمی مجاہدوں سے بغلگیر ہو رہے تھے۔ ربیعہ اور ایخبل اپنے کم سن بچوں کے ساتھ بالائی منزل کی گیلری میں کھڑی مجاہدین کے پُر جوش نعرے سُن رہی تھیں۔

تھوڑی دیر بعد آس پاس کی بستیوں کے لوگ فتح کی تفصیلات معلوم کرنے کے لئے اس قلعے کا رخ کر رہے تھے۔ شام تک ان لوگوں کا آنا بندھا رہا۔ بستیوں کے لوگ دیر تک اپنے محبوب رہنما کا انتظار کرتے رہے لیکن جب رات ہو گئی اور بدر بن معینہ کی آمد کے متعلق کوئی اطلاع نہ ملی تو انہوں نے اپنے اپنے گھر کا رخ کیا۔

عشاء کی نماز کے بعد بشیر بن حسن مسجد سے نکل کر مرغیوں کے کمرے کا رخ کر رہا تھا کہ قلعے کے دروازے کے باہر چند گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ بشیر رک کر قلعے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ پریدار نے دروازہ کھولا اور چار سوار اندر داخل ہوئے ایک سوار اپنا گھوڑا روک کر پریدار سے مخاطب ہوا: "بشیر بن حسن کہاں ہے؟" بشیر بن حسن سوار کی آواز پہچان کر آگے بڑھا اور بولا: "ابو محسن! میں یہاں ہوں۔" ابو محسن نے کہا: "میں آپ کو لینے کے لئے آیا ہوں۔ جلدی تیار ہو جائیں۔ بدر زخمی ہے۔"

بشیر نے گھبرا کر سوال کیا: "بدر زخمی ہے کہاں ہے وہ؟"

"یہاں سے کوئی اٹھ کر اس کے فاصلے پر وہ بے ہوش ہو گیا تھا اس لئے اسے ہم

یہاں نہیں لاسکے۔ وہ ندی کے پُل کے پاس بربروں کی بستی میں ہے۔"

"میں ابھی آتا ہوں۔" بشیر یہ کہہ کر ادویات کا تھیلا لینے کے لئے بھاگا اور ابو محسن

نے سپاہیوں کو جو اس کے گرد جمع ہو رہے تھے تازہ دم گھوڑوں پر ڈالنے کے لئے

کہا:

(۵)

بدر بن معیرہ بستی کے سردار کے مکان میں بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اُسے بستر پر لیٹے لیٹے
 یمن بارغش آچکا تھا۔ کمرے میں منصور بن احمد کے چند آدمی اس کے بستر کے قریب کھڑے تھے
 ان میں سے دو وہ طبیب بھی تھے جو میدان جنگ سے بدر کے ساتھ آئے تھے۔
 وہ لوگ جنہیں کمرے سے باہر روکا گیا تھا صحن میں کھڑے رو کر اپنے محبوب راہنما کے
 لئے دعائیں مانگ رہے تھے۔

بدر بن معیرہ کے جسم پر سات زخم تھے۔ زخمی ہونے کی حالت میں بھی اُس نے کبھی
 کوس تک بھاگتے ہوئے دشمن کا بیچھا کیا تھا اور اس کا بہت سا خون ضائع ہو چکا تھا۔
 لوگ انتہائی بے قراری کے ساتھ بشیر بن حسن کا انتظار کر رہے تھے۔ بدر بن معیرہ
 نے چوتھی بار ہوش میں آکر پانی مانگا۔ منصور نے اُسے اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر پانی پلایا
 پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد بدر نے نحیف آواز میں کہا "مجھے قرآن سناؤ۔"

ایک خوش الحان شخص نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ مجاہد نے سرور میں آکر
 آنکھیں بند کر لیں۔ طبیب نے آگے بڑھ کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی لیکن بدر
 بن معیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا: "اب میں بے ہوش نہیں ہوں۔ یہ آواز مجھے جگایا کرتی
 ہے سُلایا نہیں کرتی۔"

دوڑ سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور تھوڑی دیر بعد بشیر بن حسن تیزی سے قدم اٹھاتا
 ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ لوگ ادھر ادھر ہٹ گئے۔ بشیر کو دیکھ کر بدر کے مرجھاتے ہوئے چہرے
 پر اچانک ہنساہٹ آگئی۔ بشیر نے آگے بڑھ کر اُس کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔

بدر نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے طبیب کا خیر مقدم کیا اور کچھ دیر دروازے
 کی طرف دیکھنے کے بعد اس کی متلاشی نگاہیں بشیر کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔

بشیر نے اُس کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا: "وہ ابو محسن کے ساتھ آ رہی ہیں۔ تھوڑی دیر تک پہنچ جائیں گی۔"

بدر نے آنکھیں بند کر لیں۔ بشیر نے منصور اور دو طبیبوں کے علاوہ باقی سب کو مکرے سے باہر چلے جانے کے لئے کہا۔ جب وہ باہر نکل گئے تو اس نے طبیبوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا: "یہ پھر بے ہوش ہو رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے خون بند کرنے میں تاخیر سے کام لیا ہے۔"

ایک طبیب نے جواب دیا: "انہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی دُور تک دشمن کا پیچھا کیا تھا۔ اس لئے ہم بروقت ان کی مرہم پیٹی نہ کر سکے۔"

بشیر نے اپنا تھیدا کھول کر ایک ششلی نکالی اور دو پالی میں ڈالنے کے بعد منصور کی طرف دیکھا۔ منصور نے اپنے ہاتھوں سے بدر کے سر کو سہارا دیا۔ بدر نے کہا: "میں نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ بشیر نے دو اکی پیالی اس کے منہ کو لگاتے ہوئے کہا: "پی لیجئے۔"

بدر نے دوا پینے کے بعد آنکھیں بند کر لیں۔ منصور نے آہستہ سے اس کا سر تکیہ پر رکھ دیا۔ بشیر کے اشارے پر ایک طبیب نے شمع دان اٹھا کر بدر کے بستر کے قریب رکھ دیا۔ بشیر نے غور سے بدر کا چہرہ دیکھنے کے بعد کہا: "یہ کسی زہر آلود ہتھیار سے زخمی ہوئے ہیں۔ میں تمام زخم دیکھنا چاہتا ہوں۔"

بشیر بن حسن کے ساتھی یکے بعد دیگرے زخموں کی پٹیاں کھول رہے تھے اور وہ ہر زخم پر تازہ پچا ہے رکھنے اور نئی پٹیاں باندھنے میں مصروف تھا۔ ابھی وہ اس کام سے فارغ نہیں ہوئے تھا کہ بستی کے باہر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ بشیر نے منصور کی طرف دیکھا اور کہا: "شاید ابو محسن، ربیعہ اور اینجلا کے ساتھ پہنچ گیا ہے۔ تم باہر جاؤ اور انہیں دو مکرے میں ٹھہرنے کے لئے کہو۔ میں تھوڑی دیر میں انہیں بلالوں گا۔"

منصور باہر نکل گیا۔

(۶)

مکان کے دوسرے کمرے میں ربیعہ اور اینجلا کھڑی تھیں۔ بستی کی عورتیں اور لڑکیاں ان کے گرد جمع تھیں۔ سب کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر دعائیں تھیں۔

کھوڑی دیر بعد ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور بشیر نے اندر جھانکتے ہوئے ربیعہ اور اینجلا کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ بشیر نے دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ بدر بن مغیرہ کے کمرے میں اب بشیر، ربیعہ اور اینجلا کے سوا کوئی نہ تھا۔ یہ تینوں بستر کے گرد کھڑے تھے۔

بشیر نے بدر کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا: "میں نے زخموں پر پٹی باندھنے کے لئے انہیں خود بے ہوش کیا تھا۔ اب میں انہیں ہوش میں لانے کے لئے دوا پلا چکا ہوں اس کا اثر ہو رہا ہے۔"

ربیعہ خاموشی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جس جس کا صرف دل کے ساتھ تعلق ہے اُسے تقدیر کے فیصلے سے آگاہ کر چکی تھی۔ اُمیدوں کا سہارا لینے کے باوجود اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔

بدر نے چند بار کراہنے کے بعد آنکھیں کھولیں اور ربیعہ اور اینجلا کی طرف دیکھنے کے بعد کہا: "یوسف اور زبیدہ نہیں آئے۔"

ربیعہ نے کہا: "میں نے انہیں اس وقت لانا مناسب نہیں سمجھا۔ خدا آپ کو صحت دے وہ صبح کو پہنچ جائیں گے۔"

بشیر اپنے تھیلے سے ایک اور شیشی نکال کر پیالی میں دوا ڈال رہا تھا۔ بدر نے نجیف آواز میں کہا: "بشیر! اب اس کی ضرورت نہیں۔ میری منزل آپکی ہے۔"

بشیر نے کہا: "آپ انشاء اللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیجئے۔"

” میں جانتا ہوں میرا طبیب بہت ضدی ہے۔“ یہ کہتے ہوئے بدر نے لیٹے لیٹے اپنا منہ کھل دیا۔ بشیر نے اُسے دوا پلانے کے بعد ایجنلا کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور یہ دونوں دوسرے کمرے میں چلے گئے۔

ربیعہ بدر بن معیرہ کے اشارے پر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ بدر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ ”ربیعہ! میں نے تمہیں آگ کی چٹاکے سامنے مسکراتے دیکھا تھا۔ لیکن آج تم منعموم ہو۔ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو تمہارے شوہر کے شایانِ شان نہ تھی۔ میں نے پیٹھ پر کوئی زخم نہیں کھایا۔ قیامت کے دن تمہیں میرے لئے تشرسار نہیں ہونا پڑے گا۔“

ربیعہ کے ہونٹوں سے درد میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی۔ ”میرے آقا! یوں نہ کہئے۔ مجھے آپ پر فخر ہے۔“ ان الفاظ کے ساتھ وہ آنسو جنہیں وہ دیر سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی بہ نکلی۔

بدر نے کہا۔ ”تمہارے مستقبل کے متعلق میں نے چند باتیں منصور کو سمجھا دی ہیں وہ تمہیں مراکش پہنچا دے گا۔ دشمن اس شکست کے بعد دیر تک آرام سے نہیں بیٹھے گا وہ سردیاں گزر جانے کے بعد شاید اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ کر دے۔ اس صورت میں ممکن ہے کہ مجاہدین کو پیچھے ہٹ کر دشوار گزار پہاڑوں میں جنگ چھاپول لڑنی پڑے۔ ایسی جنگ میں عورتوں اور بچوں کی حفاظت کا مسئلہ بہت نازک ہوتا ہے۔ اس لئے میں نے منصور سے کہا ہے کہ وہ تمام عورتوں اور بچوں کو مراکش پہنچا دے۔“

ربیعہ نے کہا۔ ”نہیں میں ہجرت نہیں کروں گی مجھے یقین ہے کہ خدا آپ کو شفا دے گا لیکن اگر خدا کو یہ منظور نہیں تو مجھے اس زمین کے کانٹے جن پر آپ کا خون گرا ہے مراکش کے پھولوں سے زیادہ عزیز ہوں گے۔“

بدر نے کہا ہتے ہوئے کھوڑی دیر کے لئے آنکھیں بند کر لیں اور پھر ربیعہ کی طرف

بشیر بن حسن نے آخری بار اس کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ پھر اس کی آنکھیں کھول کر دیکھیں

اور انا اللہ وانا الیہ راجعون کہہ کر سر جھکا دیا ۛ

(۷)

دو ماہ بعد چند کشتیاں جن پر عورتیں اور بچے سوار تھے۔ اندلس کے ساحل سے مراکش
کارخ کر رہی تھیں۔ ایک کشتی پر بشیر بن حسن کے ساتھ اینجلا، ربیعہ، زبیدہ اور یوسف
سوار تھے۔

افق مشرق سے آفتاب نمودار ہو رہا تھا۔ یہ وہی آفتاب تھا جس نے اندلس کے ساحل
پر غازیانِ اسلام کا پہلا سفینہ دیکھا۔ یہ وہی آفتاب تھا جس نے قریباً آٹھ سو برس تک حیرت و
استعجاب سے اسلامیانِ اندلس کے عروج کی شاندار منازل دیکھی تھیں۔ یہ وہی آسمان تھا
جس کے وسیع سینے پر طارق اور عبدالرحمن کے جانشینوں کی سطوت و اقبال کی داستانیں
نقش تھیں۔ یہ وہی سمندر تھا جس کی لہریں مجاہدوں کے سمندرِ شوق کے لٹے تازیانے کا کام
دیا کرتی تھی لیکن آج یہ سمندر، یہ آسمان اور یہ سورج اس قوم کی نیٹیوں اور بچوں کی نگاہوں میں
بے بسی کے آنسو دیکھ رہے تھے جس کے شہیدوں نے اپنے خون کے پھینٹوں سے اندلس
کی خاک کے ذروں کو دلفریبی اور رعنائی عطا کی تھی۔ انقلاباتِ زمانہ کے یہ خاموش تماشاخانے وقت
کا دامن تھام کر یہ بوجھ رہے تھے۔ کیا یہ وہی قوم ہے جس کا خون الحمراء کے سرخ پتھروں میں
جھلکتا ہے؟

ربیعہ کشتی کے ایک کونے میں کھڑی اندلس کے ساحل کی آخری جھلک دیکھ رہی تھی۔

اس کی آنکھوں کے سامنے آنسوؤں کے پردے حالت ہو رہے تھے۔

یوسف نے آگے بڑھ کر کہا: "امی! زبیدہ کہتی ہے کہ خالوجان ہمیں مراکش چھوڑ کر

واپس آجائیں گے۔"

”ہاں بیٹا! ربیعہ نے اُس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔

یوسف تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پھر بولا۔ امی جان! میں بھی اُن کے ساتھ واپس

آجاؤں گا۔“

ربیعہ نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ”نہیں بیٹا! ابھی تم بہت

چھوٹے ہو۔ جب تم بڑے ہو جاؤ گے میں تمہیں منع نہیں کروں گی۔“

”امی! میں بہت جلد بڑا ہو جاؤں گا۔ میں جہاز ران بنوں گا۔ آپ کہتی تھیں مراکش

میں سب مسلمان ہیں۔ میں ان سب کو جہازوں پر سوار کر کے اندلس لے جاؤں گا اور ہم

دشمن کو اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ امی! آپ کہتی ہیں کہ جب طارق یہاں آیا تھا

تو اس کے ساتھ زیادہ آدمی نہ تھے پھر بھی انہیں فتح ہوئی۔ جب ایک مسلمان دس

کافروں سے لڑ سکتا ہے تو غرناطہ سے ہزاروں مسلمان یہ ملک چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہیں

آپ کہتی ہیں کہ قرطبہ اور اشبیلیہ اور دوسرے شہروں سے بھی لاکھوں مسلمان مراکش

چلے گئے ہیں وہ اکٹھے ہو کر لڑے کیوں نہیں؟“

”بیٹا! طارق کے ساتھیوں کے پاس ایمان تھا لیکن ان لوگوں کا ایمان کمزور ہے

وہ موت کو ایک کھیل سمجھتے تھے اور یہ موت سے ڈرتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک ادنیٰ

مسلمان بھی اپنی قوم سے غداری نہیں کرتا تھا اور اب بڑے بڑے لوگ غدار ہیں۔“

ربیعہ سے چند قدم دُور زبیدہ اینچلائے کہہ رہی تھی۔ ”امی! یوسف کہتا ہے کہ میں

جہاز کا کپتان بنوں گا اور مراکش سے ایک بہت بڑی فوج لے کر اندلس جاؤں گا۔“

”ہاں بیٹی! یوسف درست کہتا ہے۔“

”تو امی جان میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گی۔“

”تم اس کے ساتھ جا کر کیا کرو گی بیٹی؟“

”میں زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کروں گی۔ امی جان! میں تیر چلانا بھی سیکھ لوں گی۔“

” اچھا بیٹی!“

کشتی کے دوسرے کونے میں اسی بیڑے کا مراکشی کپتان بشیر بن حسن سے باتیں کر رہا تھا۔ بدر بن مغیرہ کی آخری فتح اور شہادت کے متعلق چند سوالات پوچھنے کے بعد کپتان نے سوال کیا: ”آپ یہ جنگ کب تک جاری رکھیں گے۔“

بشیر بن حسن نے جواب دیا ”جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑتا رہے گا ہمارے دلوں میں شہادت کی تمنا باقی رہے گی۔“

کپتان نے کہا: ”میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ لیکن کیا آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کی جنگ اندلس میں رہے سبے مسلمانوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے۔“

”نہیں بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہماری تلواریں نیام میں چلی جائیں گی ظلم کے ہاتھ ان پر زیادہ سختی کے ساتھ اٹھیں گے۔“

”لیکن آپ کے سٹھی بھیر مجاہدین کی جنگ کا انجام کیا ہوگا؟“

”مجاہدین کی جنگ کے دو ہی انجام ہو سکتے ہیں۔ فتح یا شہادت۔“

”میرے خیال میں آپ کے لئے فتح کی نسبت شہادت کے امکانات زیادہ ہیں۔“

”تو جیسی ہم خسارے میں نہ رہیں گے۔ اندلس میں مسلمانوں کی تاریخ کا جو باب ہمارے خون سے لکھا جائے گا وہ اس باب سے مختلف ہوگا جو اہل غرناطہ اپنی بے کسی کے آنسوؤں سے لکھ رہے ہیں۔ آنے والی نسلیں اسے پڑھ کر شرم سے اپنی گردنیں نہیں جھکائیں گی۔ ہمارے مقدر میں ذلت و رسوائی کی زندگی نہیں ہوگی۔“

کپتان نے کہا: ”اگر قدرت کو ہماری بہتری مقصود ہوتی تو غرناطہ میں موسیٰ جیسے جلیل القدر مجاہد کو ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا اور اس کے بعد مجاہدین کی رہی سہی جماعت بدر بن مغیرہ کی قیادت سے محروم نہ ہوتی۔“

بشیر نے برہم ہو کر کہا: ”کون کہتا ہے کہ موسیٰ اپنے مقصد میں ناکام رہا ہے! اہل غرناطہ

کی شکست موسیٰ کی شکست نہ تھی۔ یہ ان غداروں اور ملت فروشوں کی شکست تھی جنہوں نے عزت کی موت پر غلامی اور ذلت کی زندگی کو ترجیح دی۔ یہ ابو عبد اللہ کی شکست تھی۔ یہ ان اُمراء اور علما کی شکست تھی جنہوں نے اس دنیا میں چند دن زندہ رہنے کے لئے دائمی ذلت اور رموانی قبول کر لی ہے۔ موسیٰ ایک مومن تھا۔ وہ مومن کی زندگی جیا اور مومن کی موت مرا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قدرت کو ہماری بہتری مقصود نہیں تو بھی آپ غلطی پر ہیں۔ قدرت نے اندلس کے مسلمانوں کی ایک قلیل تعداد پر صدیوں تک انعامات کی بارش کی ہے۔ ہم نے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دی۔ کیا یہ قدرت کا انعام نہیں کہ عتاب کی آدی میں مٹھی بھر مجاہدین برسوں سے وحشت اور بربریت کا سیلاب روکے ہوئے ہیں۔ کیا یہ قدرت کا انعام نہیں کہ اس نے ایک ایسی قوم کو جس کا اجتماعی اخلاق اور کردار فنا ہو چکا تھا ایک بار پھر صراطِ مستقیم پر گامزن ہونے کا موقع دینے کے لئے بدر اور موسیٰ جیسے راہنما عطا کئے؟ قوم اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بھی غداری کرتی ہے تو اس میں قدرت کا کیا قصور؟ قوم میں آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو ہمت ہارنا اور مایوس ہونا نہیں جانتے۔ یہ لوگ اندلس میں قوم کا آخری پورچہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ صرف اندلس کے مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آؤ کفر اور اسلام کی جنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ان لوگوں کی آواز آخری دم تک مراکش، مصر، ترکستان اور دوسرے ممالک کے مسلمانوں کو جھنجھوڑتی رہے گی۔ یہ لوگ اس اُمید پر لڑتے رہیں گے کہ کسی دن ان کے بھائی خوابِ غفلت سے بیدار ہو جائیں گے۔ کسی دن کوئی مجاہدان کی مدد کے لئے پہنچے گا اور اگر عالمِ اسلام کو ہوش نہ آیا تو بھی اندلس میں مسلمانوں کی مکمل تباہی کی ذمہ داری ان مجاہدین پر عاید نہ ہوگی جو اپنے خون سے تاریخِ عالم کے صفحات پر یہ لکھ جائیں گے کہ جب ساری دنیا کے مسلمان سو رہے تھے تو اندلس کے ایک گوشے میں یہ چند سرفروش حرم کی پاسبانی کر رہے تھے۔“

کپتان نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا: "کیا میں آپ کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہوں؟"

بشیر بن حسن نے جواب دیا: "آپ کو میری اجازت کی ضرورت نہیں۔ اپنے دل سے مشورہ کیجئے۔"

"میں اپنے دل سے مشورہ کر چکا ہوں؟"

(۸)

مجاہدین اپنے نئے راہنما منصور بن احمد کی قیادت میں کئی برس لڑتے رہے۔ عقاب کی وادی مدت تک ان کے خون سے لالہ زار ہوتی رہی۔ بارہا ان کی تلواریں وحشت اور بربریت کے سیلاب کے سامنے سد سکندی ثابت ہوئیں۔ کبھی کبھی اس سیلاب کی شدت کے سامنے انہیں پیچھے ہٹنا پڑا اور کبھی سیلاب کی لہر میں غزم و ہمت کی ان چٹانوں کے ساتھ ٹکرا کر پیچھے ہٹ جاتیں لیکن عالم اسلام سویا رہا۔ مراکش کا مسلمان اپنے ریگ زاروں میں خوش تھا۔ مصر کا مسلمان نیل کے ساحل پر سو رہا تھا۔ ترک قسطنطنیہ کی دیواروں کے سامنے میں اُونگھ رہے تھے۔ عرب اپنے نخلتانوں میں مست تھے اور ہندوستان کے مسلمان تاجدار عشرت کدے تعمیر کرنے میں مصروف تھے۔

یہ لوگ برسوں تک شمشیر بکف رہے لیکن مراکش سے کوئی یوسف بن تاشفین، مصر سے کوئی صلاح الدین ایوبی، ترکستان سے کوئی ملک شاہ، عرب سے کوئی محمد بن قاسم اور افغانستان سے کوئی محمود غزنوی ان کی مدد کے لئے نہ پہنچا۔ اندلس کی خاک شہیدوں کے خون سے سیراب ہوتی رہی اور جبل الطارق کی چٹانیں جنوب اور مشرق سے آنے والے سفینوں کا انتظار کرتی رہیں۔ جب تک منصور اور ان کے ساتھی برسرِ بیکار رہے

باقی اندلس کے مسلمانوں کے لئے ہجرت کے راستے تھوڑے بہت کھلے رہے۔ مجاہدین کی تعداد رفتہ رفتہ کم ہوتی گئی۔ تاہم انہوں نے تین نسوں تک جنگ جاری رکھی۔ یہ جنگ اس وقت ختم ہوئی جب مجاہدوں کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ بہہ چکا تھا۔ تو انہوں نے اس وقت اپنی بے بسی کا اعتراف کیا جب اُسے اٹھانے والے ہاتھ کٹ چکے تھے۔ اس کے بعد بربریت کا طوفان اپنی تازہ قوتوں اور نئے ارادوں کے ساتھ اٹھا۔ اندلس میں باقی مسلمانوں کے لئے آگ، خون، آنسوؤں اور آہوں کے سوا کچھ نہ تھا۔

اندلس کے مسلمانوں پر کیا گزری؟ ان میں سے کتنے لاکھ تھے جنہیں ملک بدر کرنے سے پہلے ان کے نابالغ بچے ان سے چھین لئے گئے؟ کتنے ہزار تھے جنہیں آگ میں زندہ جلایا گیا۔ کتنے تھے جنہیں بدترین اذیتیں دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا؟ ان عورتوں کی تعداد کیا تھی جنہیں درے مار مار کر ہلاک کیا گیا؟

تاریخ ہمیں ان تمام سوالات کا جواب دیتی ہے لیکن ہمیں ان المناک واقعات کی تفصیل جاننے کے لئے تاریخ کی ورق گردانی کی ضرورت نہیں۔ ہم حال کے آئینے میں ماضی کا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ اندلس میں آٹھ سو برس کی حکومت کے بعد آج ایک مسلمان بھی دکھائی نہیں دیتا۔ قرطبہ، غرناطہ اور اشبیلیہ کی مساجد آج بھی وہاں موجود ہیں لیکن وہاں اذان دینے والی زبانیں ہمیشہ کے لئے خاموش ہو چکی ہیں۔

غرناطہ کے اکابر کی غلطی چند افراد تک محدود نہ رہی۔ یہ ایک قوم کا اجتماعی گناہ ثابت ہوئی۔ اور آج الحمر کی دیواریں زبانِ حال سے یہ کہہ رہی ہیں کہ قدرت کسی قوم کے اجتماعی گناہ کو معاف نہیں کرتی۔

نسیم حجازی کی تصانیف

- آخری معرکہ
- اندھیری رات کے مسافر
- آخری چٹان
- پردیسی درخت
- انسان اور دیوتا
- گمشدہ قافلے
- قافلہ حجاز
- داستانِ مجاہد
- معظم علی
- یوسف بن تاشفین
- خاک اور خون
- محمد بن قاسم
- قیصر و کسری
- کلیسا اور آگ
- اورتلوار ٹوٹ گئی

طنز و مزاح

- ثقافت کی تلاش
- سوسال بعد
- سفید جزیرہ
- پورس کے ہاتھی

سفرنامہ حج

- پاکستان سے دیارِ حرم تک



www.jbdpress.com

Jahangir Book Depot

URDU BAZAAR, LAHORE. PH: 042-7220879

• Rawalpindi • Multan • Faisalabad • Hyderabad • Karachi
(051) (061) (0333) (0300) (021)
5552929 4781781 4469077 3012131 2765086